

انڈیز ایٹام تاریخ

بعثت رسول سے واقعہ کربلا تک

تالیف

فضیلہ شیخ عثمان بن محمد الناصری آل خمیس

ترجمہ

فضیلہ شیخ ابو مسعود عبد الجبار سلفی

أَشَدَّ آءِ عَلَى الْإِنَّمَارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ

وَالرَّيِّينَ مَعَهُ
فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



مکتبہ اہل بیت العالمی



ترتیب

- ۱۱ حرفِ اول.....عرضِ مترجم
- ۱۷ خطبہ مسنونہ.....
- ۱۹ نسخے چند.....
- ۲۵ تمہید و تعارف.....
- ۲۸ مطالعہ تاریخ کے دوران احتیاط.....
- ۳۲ تاریخ طبری کو دوسروں پر مقدم سمجھنے کی وجوہات.....
- ۳۲ تاریخ طبری میں امام محمد بن جریر طبری کا اسلوب نگارش.....
- ۳۶ تاریخ مسخ کرنے کے لیے بعض مؤرخین کا طریق کار.....
- ۳۷ تاریخ اسلام کی شکل بگارنے اور اس میں تدریس کرنے میں شیعہ کا کردار.....
- ۳۸ اہل سنت کے ہاں تحقیق کا منہج کب شروع ہوا؟.....
- ۳۹ حضرت نبی کریم ﷺ کی بعثت.....
- ۴۵ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.....
- ۴۷ سقیفہ بنی ساعدہ.....
- ۵۳ خلیفۃ الرسول کریمؐ سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب.....
- ۵۸ حضرت رسول کریمؐ کے آپ کی خلافت کی طرف اشارات.....
- ۵۹ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے اہم واقعات.....
- ۶۵ خلافت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.....

- ۶۸ آپ کے فضائل و مناقب ❊
- ۶۹ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے شاندار کارنامے ❊
- ۷۳ خلافت امیر المؤمنین عثمان بن عفانؓ ❊
- ۸۳ حضرت عثمان بن عفانؓ کے فضائل و مناقب ❊
- ۸۶ فتنے کے اسباب کیا تھے؟ ❊
- ۹۱ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات ❊
- ۹۳ حضرت عثمان پر اعتراضات کا تفصیلی جائزہ ❊
- ۹۳ پہلا اعتراض:- قرابت داروں کو حاکم بنانا ❊
- ۱۰۳ دوسرا اعتراض:- حضرت ابو ذرؓ کی جلاوطنی ❊
- ۱۰۵ تیسرا اعتراض:- مروان کو افریقہ کے مال غنیمت سے پانچواں حصہ ❊
- ۱۰۶ چوتھا اعتراض:- قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا ❊
- ۱۰۷ پانچواں اعتراض:- عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر کی پٹائی ❊
- ۱۰۷ چھٹا اعتراض:- چراگاہ کی وسعت کا معاملہ ❊
- ۱۰۸ ساتواں اعتراض:- سفر میں پوری نماز پڑھنا ❊
- ۱۱۰ آٹھواں نواں اور دسواں اعتراض:- غزوہ بدر، اُحد اور بیعت رضوان میں عدم شرکت ❊
- ۱۱۱ گیارہواں اعتراض:- عبید اللہ بن عمر کے قتل کا مسئلہ ❊
- ۱۱۴ بارھواں اعتراض:- جمعہ کے روز دوسری اذان کا اضافہ ❊
- ۱۱۵ تیرھواں اعتراض:- حکم بن العاص کو مدینہ میں واپس بلانا ❊
- ۱۱۶ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ ❊
- ۱۱۹ حضرت عثمان کو کون لوگوں نے شہید کیا؟ ❊
- ۱۲۰ حضرت عثمان کس طرح شہید ہوئے اور صحابہ کرام نے ان کا دفاع کیوں نہ کیا؟ ❊

- ۱۲۳ خلافت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
- ۱۲۷ جنگ جمل
- ۱۳۳ حضرت علی نے قاتلین عثمان سے قصاص کیوں نہ لیا؟
- ۱۳۷ جنگ صفین
- ۱۴۲ ان معرکوں میں کون کون سے صحابہ رسول شریک ہوئے
- ۱۴۵ تحکیم کا قصہ
- ۱۴۹ جنگ نہروان
- ۱۵۷ شہادت امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب
- ۱۶۱ صحابہ کے درمیان اختلاف کے اسباب
- ۱۶۳ ان جنگوں کے متعلق صحابہ کرام کا موقف
- ۱۶۴ قاتلان صحابہ کے متعلق اہل سنت کا موقف
- ۱۶۷ خلافت امیر المؤمنین سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما
- ۱۶۹ خلافت امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما
- ۱۷۱ یزید بن معاویہؑ کی بیعت
- ۱۷۲ یزید بن معاویہؑ کی بیعت کے متعلق اہل سنت کا موقف
- ۱۷۳ امیر یزید بن معاویہؑ خلافت کے لیے موزوں تھا یا نہیں؟
- ۱۷۵ خلافت امیر یزید بن معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما
- ۱۷۵ عراقی، حضرت حسینؑ سے خط و کتابت کرتے ہیں
- ۱۷۷ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی
- ۱۸۱ صحابہ کرام کا حضرت حسینؑ کو کوفہ جانے سے روکنا
- ۱۸۵ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا داخلہ

- ۱۹۰ سانحہ کربلا ❊
- ۱۹۲ سانحہ کربلا میں حضرت حسینؑ کے ساتھ کون کون شہید ہوئے؟ ❊
- ۱۹۷ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خروج کی شرعی حیثیت ❊
- ۱۹۹ شہادت حسینؑ کے متعلق لوگوں کے نظریات ❊
- ۲۰۰ شہادت حسینؑ میں یزید کا کردار ❊
- ۲۰۱ یزید بن معاویہؓ کے متعلق اہل السنۃ کا موقف ❊
- ۲۰۵ عدالت صحابہ ❊
- ۲۱۳ صحابہ کرام کی عدالت پر نقطہ چینی کرنے والے کون؟ ❊
- ۲۱۷ صحابہ کے متعلق شبہات اور ان کے جوابات ❊
- ۲۱۷ پہلا شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۲۲ دوسرا شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۲۶ تیسرا شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۲۹ چوتھا شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۳۰ پانچواں شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۳۳ چھٹا شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۳۴ ساتواں شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۴۴ آٹھواں شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۴۷ نواں شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۵۱ دسواں شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۵۵ گیارھواں شبہ اور اس کا جواب ❊
- ۲۶۰ بارھواں شبہ اور اس کا جواب ❊

- ۲۶۳ حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد خلیفہ کون؟
- ۲۶۳ حضرت علیؓ کی اولیت کے متعلق شیعہ کے دلائل
- ۲۶۳ حدیث غدیر سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۲۷۳ حدیث کساء سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۲۷۷ شجرہ بن ہاشم
- ۲۸۱ آیت ولایت سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۲۸۷ حدیث المنزلة سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۲۹۳ آیت ذوالقربیٰ سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۲۹۷ حدیث ثقلین سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۳۰۴ حدیث علی منیٰ وانا من علی سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم
- ۳۰۷ اس موضوع پر اکیس (۲۱) سوالات اور ان کے جوابات
- ۳۰۷ ۱- حضرت ابوبکر کی بیعت کے متعلق حضرت علی کا موقف کیا تھا؟
- ۳۱۳ ۲- حضرت ابوبکر کی خلافت نص کے ذریعے قائم ہوئی یا مشاورت کے ذریعے؟
- ۳۱۳ ۳- کیا تاریخ طبری کی احادیث اور مرویات کی تحقیق و تخریج ہو چکی ہے؟
- ۳۱۳ ۴- حضرت رسول کریم ﷺ کا حضرت عائشہ کو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم یوسف کی صواحب ہو؟
- ۳۱۶ ۵- کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو امیر حج مقرر کیا؟
- ۳۱۷ ۶- کیا اصحاب رسول اور اہل بیعت کے درمیان رشتہ داریاں تھیں؟
- ۳۱۷ ۷- کیا یزید بن معاویہؓ صحابی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت معاویہ نے اسے اپنے متبخیٰ بنایا تھا.....
- ۳۱۹ ۸- کیا یہ بات درست ہے کہ یزید بن معاویہؓ نے مدینہ کو مباح قرار دیا تھا؟.....

- ۳۲۰ ۹- حضرت حسینؑ کا سر مبارک کہاں دفن ہے؟
- ۳۲۰ ۱۰- ناصبی کون ہیں؟ کیا وہ اہل سنت سے ہیں؟
- ۳۲۱ ۱۱- جب ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی تو بیعت مکمل کیسے ہوگئی؟
- ۳۲۱ ۱۲- کیا مسجد حرام میں قتال منع نہیں ہے؟
- ۳۲۱ ۱۳- جب سیدنا حسینؑ بن علیؑ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوفیوں سے نہیں لڑ سکتے تو واپس کیوں نہ لوٹے؟
- ۳۲۲ ۱۴- کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ قنہ مشرق سے اُٹھے گا؟
- ۳۲۲ ۱۵- حضرت نبیؑ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ نجد شیطان کے سینگوں میں سے ایک سنگ ہے؟
- ۳۲۳ ۱۶- کیا حضرت فاطمہؑ کو الزہرا کا لقب دینا جائز ہے؟
- ۳۲۴ ۱۷- حضرت نبیؑ اپنی بیویوں کے درمیان تفریق کس طرح کر لیتے تھے؟
- ۳۲۵ ۱۸- کیا حضرت نبی کریم ﷺ تمام منافقین کو جانتے نہ تھے؟
- ۳۲۵ ۱۹- اَلشَّيْخَةُ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ کے مصنف کے مندرجات صحیح ہیں؟
- ۳۲۶ ۲۰- کیا حضرت عمرؓ نے حضرت فاطمہؑ کو اس قدر مارا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا؟
- ۳۳۱ ۲۱- کیا یہ بات درست ہے کہ آیت مباہلہ میں حضرت علیؑ نبیؑ کا متبادل بن گئے تھے؟
- ۳۳۱ خاتمہ
- ۳۳۶ فہرست مراجع و مصادر



حرفِ اوّل..... عرض مترجم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَفْضَلِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ
یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے اور
درخت اپنے پھل سے تمیز رکھتا ہے۔ چنانچہ جس استاد کے شاگرد بااخلاق، لائق،
ہمدرد اور سلیقہ مند ہوں، اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اور اس کی قدر و منزلت
کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس طرح جس درخت کا پھل شیریں اور لذیذ ہو
اسے قدر و قیمت اور وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا اس حقیقت پر ایمان و
یقین ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ساری کائنات کے سردار اور افضل و اکمل
معلم ہیں، لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کے شاگرد اور تلامذہ بھی تمام امتوں سے
افضل و اکمل انسان تھے۔ رسول کریم ﷺ نے اپنے شاگردوں، جو صحابہ کرامؓ کی
جماعت کی صورت میں موجود ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تصفیہ کا فریضہ اس
خوبی اور کمال سے سرانجام دیا کہ حق تعالیٰ نے انہیں راشدوں، صادقوں، مفلحوں
اور فائزوں کے القاب سے نوازا۔ اس ضمن میں ذیل کی آیات عظمت صحابہ کی
قدر و منزلت اور جلالت پر روشنی ڈالتی ہیں:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ﴾

[آل عمران: ۱۱۰]

”کہ تم بہترین امت ہو، جسے لوگوں (کی راہنمائی) کے لیے نکالا گیا ہے، تم
نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ
رَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ﴾ [مجادلة: ۲۲]

”کہ (وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے بیٹوں، بھائیوں، باپوں پر
تلواریں سونت لی تھیں) تو انہیں ایسا نہ پائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت
پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ ان لوگوں سے دوستی بھی رکھیں جو اللہ اور اس کے
رسول سے مخالفت رکھتے ہیں (اور مخالفت کرنے والے یہ لوگ خواہ) ان کے
باپ ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قرابت دار
ہوں کیونکہ اس نے ان کے دلوں میں (پتھر پر لکیر کی طرح) ایمان لکھ دیا ہے
اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے، اللہ انہیں ایسے باعانت میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو
گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ان کی تعریف کر رہا ہو کہ

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [فتح: ۲۹]

”کہ محمد، اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر بڑے
سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم خو ہیں، تو انہیں اللہ سے خوشنودی اور فضل
تلاش کرنے کی غرض سے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔“

چنانچہ جس استاد کے شاگرد امتحان کے موقع پر، ماسوائے دو تین کے، سب فیل ہو گئے ہوں اسے دنیا کا کون سا ادارہ کوئی تمنغہ فضیلت دے گا؟ اور جس رسول کے صحابہ، اپنے ہادی و مرشد کے فوت ہوتے ہی مرتد ہو گئے ہوں، اسے دنیا کی کامیاب ترین ہستی کون قرار دے گا؟

الحمد للہ! ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ذوی العقول مخلوق سے افضل اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تبلیغ رسالت میں، جتنی کامیابیاں آپ کے حصے میں آئیں کسی اور پیغمبر کے شمار میں نہیں آئیں اور جس قدر آپ کی امت اور خصوصاً صحابہ کرام اور تابعین عظام کو پختہ ایمان اور خلوص و توکل نصیب ہوا، اس قدر کسی اور امت کو نصیب نہ ہوا، لیکن اعدائے دین کو شاید ان کی یہ سرخروئی اور عظمت ایک آنکھ بھی نہ بھائی، چنانچہ انہوں نے مختلف بہانوں سے ان کی عظمت کو داغدار ثابت کرنے کے لیے کذاب راویوں کی مکذوبہ روایات کا سہارا لیا اور انہیں شائع کر کے اپنے دلوں کی بھڑاس نکال لی۔ بقول شاعر (بتغییر یسیر)

حَسَدُوهُمْ إِذَا لَمْ يَنَالُوا سَعِيَهُمْ
فَالْقَوْمُ أَعْدَاءُ لَهُمْ وَ خُصُومُ
وَ تَرَى اللَّبِيبَ مُحَسَّدًا لَمْ يَجْتَرِمُ
شَتَمَ الرَّجَالِ وَ عِرْضَهُ مَشْتُومُ
وَ كَذَاكَ مَنْ عَظُمَتْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ
حُسَادُهُ سَيْفٌ عَلَيْهِ صَرُومُ

[شرح ترغیب و ترہیب : ۱۲۷/۴]

① ”کہ جب وہ ان کی طرح اچھے کارنامے سرانجام نہ دے سکے تو ان سے حسد کرنے لگے چنانچہ قوم ان کی دشمن بن گئی اور آپس میں جھگڑنے لگی۔“

② ”تم دیکھتے ہو کہ دانشمندانے جرم بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے محسود بن جاتا ہے اور اس کی عزت لوگوں کی دشنام طرازیوں کا خواہ مخواہ نشانہ بن جاتی ہے۔“

③ ”اصل بات یہ ہے کہ جس شخص پر نعمت کی فراوانی ہو جائے اس کے حاسد، اس کے حق میں تیز تلوار بن جاتے ہیں۔“

کس قدر المناک قضیہ ہے کہ جن ہستیوں نے اپنے خون سے شجرہٴ اسلام کی آبیاری کی اور اس کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور اس کے پیغام کو چہار دانگ عالم تک پہنچایا اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہم اور ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، آج ہم انہیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ ان کے متعلق سبائیوں (خفیہ یہودی تنظیم) کی مکذوبہ روایات سن کر ان پر سب و شتم کرتے ہیں!!۔ چنانچہ کہیں تو مقتدر اہل بیت کرام کی تعظیم و تفضیم کی آڑ میں شریعت کے حاملین صحابہ کرامؓ پر کچھڑا اچھالا جا رہا ہے، اور کہیں اسلام کا علم تھامنے اور اسے سرنگوں ہونے سے بچانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دینے والی مقتدر ہستیوں پر بے سرو پا بہتانات لگائے جا رہے ہیں۔

کیا اس سے کہیں یہ مقصود تو نہیں کہ اس طریق سے رسالت مآب ﷺ کی رسالت ہی مشکوک بنا دی جائے؟..... کیونکہ انہی ہستیوں نے ہی تو اس بات کی گواہی دی کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے اللہ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچایا اور اپنے سپرد کی گئی امانت کو مکما حقہ ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی سر توڑ کوشش کی اور کفر و شرک کی تاریکی دور کر کے اسلام کے نور کو جگمگا دیا۔ جب ان شاہدوں اور گواہوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کی دیانتداری ہی چیلنج کر دی جائے تو ان کی گواہی اور شہادت بھی مسترد ہو جائے گی اور اس طرح اس شریعت اور منہاج کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے ذریعے گذشتہ نبوتیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی تھیں،

کیونکہ قرآن کے ناقل اور راوی اور جامع بھی تو وہی صحابہ ہیں اور سنت رسول کے مدون بھی وہی ہیں۔ جب (نعوذ باللہ) وہ عادل نہ ہوئے تو اس دین کے دامن میں کیا رہ باقی جائے گا؟

لیکن الحمد للہ شیخین کریمین، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور سب کے سب صحابہ کرامؓ کے متعلق وہی کچھ سچ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور حضرت رسول کریم ﷺ نے اس سے آگاہ فرمایا، نہ کہ وہ جو کذاب راویوں نے اپنے خبث باطن اور مذموم مقاصد کے لیے بیان کیا!!۔

اور پھر متعصب رافضیوں نے تو گویا قسم اٹھا رکھی ہے کہ جب تک وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خصوصاً شیخین کریمین کی عظمت اور ان کے کردار کو داغدار نہ کر لیں اس وقت تک عظمت اہل بیت کا بیان ہی شروع نہ کریں گے اور جب عظمت اہل بیت بیان کرنے کی غرض سے سٹیج پر آئیں گے تو انہیں اس مرتبہ سے کہیں اوپر لے جائیں گے، جو اللہ نے حقیقتاً ان کو بخشا ہے۔

یہ امر فہم سے بالاتر ہے کہ بعثت رسول سے لے کر تقریباً دو صدیوں بعد تک سادات کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مروجہ مصنوعی محبت اور فداکاری کا موضوع کس بنا پر منظر عام پر نہ آسکا؟ اس کا سبب یا تو مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور قوت کے نقوش کا مثبت ہونا ہے، یا محافظ اسلام حکومتوں کی بیدار مغزی تھی کہ وہ جب اہل بیت کے جام شیریں میں نفرت صحابہ کرام کا زہر گھولنے والے زہریلے دشمنوں کا سر کچل ڈالتی تھیں۔ مگر جب سے مصنوعی مہمان اہل بیت کو عجمی اسلوب تعزیت کی بدولت ہمدردی اور اقتدار میسر آیا تو وہ دن رات اسلام کی بیخ کنی اور عظمت صحابہ کرام کو زائل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ہمارے بعض مصنفین نے کتاب و سنت کی محقق روایات کے برعکس خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ایسی کتابیں تصنیف کر

ڈالیں جس سے اہانت صحابہ کا پہلو نکلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فضیلۃ الشیخ عثمان بن محمد الناصری آل نمیس حفظہ اللہ کو اجر جزیل اور فیض عمیم عطا فرمائے کہ انہوں نے عدالت صحابہؓ پر ایسی لاجواب تحقیقی اور علمی کتاب لکھی ہے جو جامعیت، اختصار اور دلکش اسلوب استدلال کے اعتبار سے ایک منفرد کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کرامؓ پر وارد کیے جانے والے تمام اعتراضات کے ایسے شافی جوابات دیئے ہیں کہ سبحان اللہ!!! وعند اللہ فی ذاک الجزاء

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل احترام مؤلف، ناچیز مترجم اور اس کتاب کی اشاعت و طباعت میں تعاون کرنے والے حضرات کو ان قدر سی نفوس کی صحبت نصیب فرمائے، جنہوں نے اپنا تن من دھن حضرت رسول کریم ﷺ پر نثار کر دیا تھا، یوں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبْ عَنَّا حُبَّهُمْ أَبَدًا

وَ يَرْحَمْ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ

اس تحقیقی کتاب کا مقصود اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ تاریخ کے اس خاص دور سے متعلق واقعات کو صحت اور سند کے ساتھ پیش کر دیا جائے تاکہ افراط و تفریط میں مبتلا لوگوں کو راہ حق اور صراطِ مستقیم مل سکے۔ اس کے مطالعے سے ان شاء اللہ اتحاد بین المسلمین کے موقف کو تقویت ملے گی نیز مختلف فرق اور مسالک کے درمیان جو شدت اور منافرت ہے، اس میں قرار واقعی کمی ہوگی۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور یہ کسی نوعیت کی منافرت تعصب اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کتاب بھی بنیادی طور پر اسی غرض سے لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مقاصد کے لیے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

فقیر الی اللہ الغنی

۱۰ جون ۲۰۰۲ء

ابوسعود عبدالجبار سلفی

خطبہ مسنونہ

« إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » [طہ علیہ]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ۱]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ۷۰-۷۱]

« أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »^①

① یہ وہ خطبہ مسنونہ ہے جو حضرت رسول مقبول ﷺ اپنے ہر خطاب سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ [مترجم]

سخن چند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
 جب کبھی میرے دل میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا خیال گزرتا تو میں کبھی
 ایک قدم آگے بڑھاتا اور دوسرا قدم پیچھے ہٹا لیتا، کیونکہ اس موضوع پر بہت سے
 مصنفین نے طبع آزمائی کی ہے، بسا اوقات حق و صداقت کو جاگر کرنے اور زیادہ تر
 باطل تصورات کو فروغ دینے کے لیے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ اس موضوع پر تحقیق و تسوید میں صدیاں
 بیت رہی ہیں لیکن (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مقدس) ہستیوں کی رفعت شان کی بنا پر
 یہ موضوع پھر بھی ہمارے دلوں میں زندہ اور تابندہ ہے اور پھر یہ موضوع اس بنا پر
 بھی تازہ رہتا ہے کہ گمراہ فرقے (اپنی کج فہمی کی وجہ سے ان ستاروں جیسی صاف و
 شفاف ہستیوں پر) کچھڑا چھالنے کی مذموم حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔

اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ کلمہ حق ایسا نور ہے، جس سے رہنمائی
 حاصل کی جاتی ہے نیز اس مقدس گروہ کا ہم پر احسان بھی ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ
 ہم اپنے اوپر ان کے احسانات کا کچھ تو حق ادا کریں۔ کیونکہ ان کا معاملہ دوسروں
 جیسا نہیں، ان کا علم اور عمل اس قدر وسیع اور خالص تھا کہ اولین و آخرین میں سے
 کوئی امتی ان سے آگے نہ بڑھ سکا اور نہ ہی ان کے برابر ہو سکے گا، کیونکہ یہی تو وہ
 ہستیاں تھیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کو عزت بخشی اور اسے
 تمام ادیان و مذاہب پر غلبہ عطا فرمایا۔

اور ہم لوگ اصحاب رسول کریم ﷺ کے فضائل و مناقب پر والا و شیدا ہیں

لیکن ان کے متعلق معصومیت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور انبیاء کرام کے سوا کسی کو معصوم نہیں بنایا۔

ہاں ان میں سے چند صحابہ کرام سے حضرت رسول کریم ﷺ کی زندگی اور وفات کے بعد چند تسمحات بھی ہوئے لیکن ان تسمحات کی حیثیت ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پہاڑوں کے مقابلے میں ریت کے چند ذرات اور سیلاب کے مقابلے میں بارش کے چند قطرے۔

اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ نگاری نہایت نازک اور اہم کام ہے کیونکہ یہ فن قوموں کی عظمت و رفعت کے اہرام تعمیر کرتا ہے اور ان کے منہج اور حال و مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور جب تک کوئی قوم اپنے ماضی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہ کرے اور اپنے حال کی تعمیر اور مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے قوت حاصل نہ کرے، وہ جہان بینی کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے نہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ اور مسلمان قوم جیسی (عظیم قوم) دوسری اقوام سے اس کام کی زیادہ حقدار ہے کیونکہ اس کی تاریخ کشور کشائی، شجاعت و بسالت اور بزرگی و برتری کے ایسے اعزازات رکھتی ہے کہ دیگر اقوام کی تاریخ اس کے مقابلے میں پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن دور حاضر میں ہماری ملت کی کمزوری (اور باہمی تفرق و تحزب) کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بندروں اور خزیروں کی اولاد کو مسلط کر دیا ہے۔

مَسْلُطٌ كَرْدِيَا هِيَ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

مَنْ يَهْنُ يَسْهَلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ

مَا لَجْرَحٍ بِمَيِّتٍ اِيْلَامُ

[دیوان متنبی - ۱۶۴]

”جس طرح مردے کو زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس طرح ذلت و خواری پر ریجھی ہوئی قوم کو ذلت و خواری میں زندگی بسر کرنا چنداں مشکل نہیں۔“

اس ضعف و اضمحلال کے سائے میں ہماری قوم کی روشن اور برتر تاریخ کی طرف لوٹنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی اصلیت کے متعلق غور کرنا اور اپنے ارد گرد دیکھنا اور اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھانا آسان ہو جائے، لیکن یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی صحیح تاریخ کی طرف رجوع نہ کریں اور اس پر گہری نظر نہ ڈال لیں۔ اور صحیح چیز کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔

اور اگر ہم اپنی تاریخ کو بنظر عمیق دیکھیں تو ہمیں اس کا وہ دور، یا عرصہ روشن ترین اور دودھ سے زیادہ سفید نظر آئے گا، جس میں حضرت نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے زندگی بسر کی اور یہی وہ پاکیزہ گروہ تھا جس نے اپنے کندھوں پر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اور یہی مقدس ہستیاں انبیائے کرام کے بعد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔

اور فرقوں کی بہتات کی بنا پر مسلمان قوم کی تاریخ بے پناہ تحریف کا شکار رہی کیونکہ ان میں ہر فرقہ اس کوشش میں مصروف رہا کہ وہ اپنوں کی شان بڑھائے اور دوسروں کو گرائے، ان کے اس طرز عمل سے عظیم ترین ہستیوں کی تاریخ میں شگاف پیدا ہو گئے۔

مسلمان قوم میں سے چند لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰؓ سے اس قدر غلو آمیز محبت کی کہ آپ ﷺ کا معاملہ مکمل طور پر الجھا کر رکھ دیا اور آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں جو اصل واقعات اور تاریخ سے میل نہیں رکھتیں اور اسی (کھیل کے) دوران دوسرے صحابہ کرامؓ کی شان گھٹانے کی ناکام کوششیں کیں اور انہیں حضرت علیؓ کا حق غصب کرنے، ان پر ظلم کرنے نیز خود اپنے حق میں برا بیچ بونے والوں کے روپ میں پیش کیا، بلکہ اس محبت نمادہ شہنی میں اولاد علیؓ کو منصوص علیہم آئمہ قرار دیا اور انہیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح معصوم قرار دینے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان سے بھی بڑھا دیا۔

اور صحیح تحقیق کے مطابق تاریخ صحابہ کو مسخ کرنے کے اس عمل کی ابتدا تیسری صدی کا نصف گزرنے کے بعد ہوئی اور یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کبار صحابہ کرامؓ کے احوال اور ان کی صحیح روایات میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے ناخوش تھے یا وہ ان سے ناراض تھے جیسا کہ شیعہ حضرات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

بلکہ اس کے برعکس تمام مؤرخین (اس خوشگوار حقیقت پر) متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی اور اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر رکھ کر اپنے پیشرو صحابہ کرام سے یگانگت اور محبت کا ثبوت دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں منصب قضا قبول فرمایا اور شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام کی مدح فرمائی۔

اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اس موضوع پر لکھنے کے معاملے میں گوگو کی کیفیت میں مبتلا تھا، لیکن ثقہ قسم کے اہل علم سے مشورہ کے بعد میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس موضوع پر لازمی طور پر کچھ نہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے، چنانچہ اس میں جو بات حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو راہ صواب سے ہٹ کر ہو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔

میں نے اپنی اس کتاب میں چودہ صدیوں پر محیط طویل اسلامی تاریخ کی ابتدائی نصف صدی (۱۱ھ تا ۶۱ھ) کے محدود عرصے پر گفتگو کی ہے، جو کہ میرے خیال میں وفات رسول ﷺ کے بعد اسلامی تاریخ کا سب سے اہم دور ہے۔

چنانچہ میں نے اس کتاب کو چار فصلوں پر تقسیم کیا ہے:

پہلی فصل:

مطالعہ تاریخ کی کیفیت، امام طبری کے منہج اور اسلامی تاریخ میں سند کی

اہمیت پر مشتمل ہے۔

دوسری فصل:

اس فصل میں، میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے سانحہ ارتحال ۱۱ھ سے لے کر ۶۱ھ تک رونما ہونے والے واقعات پر بے لاگ تحقیق کی ہے اور حتی المقدور صحیح سند کے ساتھ مروی روایات بیان کی ہیں اور ساتھ ساتھ من گھڑت اور باطل روایات پر تنقید بھی کی ہے۔

تیسری فصل:

اس میں، میں نے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے استدلال کر کے عدالت صحابہ کرامؓ پر بحث کی ہے اور ان کے متعلق پھیلانے گئے شبہات بھی ذکر کیے ہیں اور ان پر بے لاگ اور جامع تبصرہ کر کے حق اور سچ کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔

چوتھی فصل:

اس فصل میں قضیہ خلافت پر بحث کی ہے اور امامت علی بن ابی طالبؓ پر شیعہ دلائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور دقیق علمی بحث کے ذریعے ایسا جائزہ لیا ہے کہ شاید ہی کسی اور کتاب میں اس طرح سے ان کا تجزیہ کیا گیا ہو اور میں کسی طرح کی خود فریبی اور ترنگ میں مبتلا ہو کر ایسا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ کے تحت تحدیثِ نعمت کا اظہار کر رہا ہوں۔

اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے عمل کو اپنی خوشنودی کے لیے خالص کر دے کیونکہ وہ ہر طرح سے باختیار اور ایسا کرنے پر قادر ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِاللّٰهِ يَا قَارِئًا كُتِبِي وَسَامِعَهَا
 أَسْبَلُ عَلَيْهَا رِذَاءَ الْحُكْمِ وَالْكَرَمِ
 وَاسْتُرْ بِلُطْفِكَ مَا تَلَقَّاهُ مِنْ خَطَايَا
 أَوْ أَصْلِحْهُ تَثْبُتْ إِنْ كُنْتَ ذَافِعِهِمْ
 فَكَمْ مِنْ جَوَادِ كَبَا وَالسَّبْقِ عَادَتُهُ
 وَكَمْ حَسَامٍ نَبَا أَوْ عَادَ ذُو ثَلَمِ
 وَكُلُّنَا يَا أَحْيَى خَطَايَا ذُو زُلْمِ
 وَالْعُذْرُ يَقْبَلُهُ ذُو الْفَضْلِ وَالشِّيمِ

[موارد الظمان]

”اے میری تحریروں کے پڑھنے اور سننے والے! ان پر عالی ظرفی اور دانشمندی
 کی چادر پھیلا دے۔“

”اور ان میں جو غلطی نظر آئے اس پر لطف و کرم کا پردہ ڈال دے، اگر اللہ نے
 آپ کو صاحب فہم و ادراک بنایا ہے تو اس سے ثواب حاصل کرنے کی غرض
 سے اس کی اصلاح کر دے۔“

”چنانچہ کتنے ہی شہسوار ہیں جو بسا اوقات ٹھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں حالانکہ وہ
 عام طور پر دوڑ جیت لیتے ہیں اور کتنی ہی تیز تلواریں ہیں جو بسا اوقات کند ہو
 جاتی ہیں یا ان میں دندانے پڑ جاتے ہیں۔“

”اے میرے برادر ہم سب خطا کار ہیں اور پھسل جانے والے ہیں، اور عالی
 ظرف اصحاب علم و فضل، عذر قبول کر لیتے ہیں۔“

عثمان بن محمد الناصری آل خمیس

تمہید و تعارف

ہم مطالعہ تاریخ کیسے کریں؟:

ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کو ایسے ہی پڑھیں جیسے حضرت رسول مقبول ﷺ کی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور جب ہم آپ کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ ﷺ سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟۔ ہم حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث کی صحت و ضعف اور اس کے مستند اور غیر مستند ہونے کا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک سند اور متن کو (جرح و تعدیل کی کسوٹی پر) پرکھ نہ لیں، کیونکہ اہل علم نے حدیث اور اس کے راویوں کے معاملے میں خصوصی دلچسپی لی ہے اور ان کی روایت کردہ احادیث کو تلاش کر کے انہیں کھنگالا ہے، ان پر صحت و ضعف کا حکم صادر کیا ہے اور یوں ان میں جھوٹ، تدلیس اور ان جیسے دیگر عیوب کی نشاندہی کر کے ان احادیث کو ان باتوں سے نکھار دیا گیا ہے جو ان میں داخل کی گئی ہیں۔

لیکن تاریخ کا معاملہ اس سے مختلف ہے چنانچہ اس میں بہت سی روایات ایسی ہیں جن کی سند ہی نہیں اور بسا اوقات اسناد تو ملتی ہیں لیکن ان سندوں کے راویوں کے حالات زندگی نہیں ملتے اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل علم نے ان کی مدح کی ہے یا مذمت، ان کی تعدیل کی ہے یا ان پر جرح کی ہے۔ اندریں صورت ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ان پر کوئی حکم لگائیں کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف کیونکہ ہم سند کے چند راویوں کے حالات نہیں جانتے، لہذا تاریخ کا

معاملہ حدیث سے بھی مشکل ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس میں تساہل سے کام لیں اور بلا تحقیق تاریخی روایات کو قبول کرتے چلے جائیں۔ نہیں! بلکہ ہمیں تحقیق کرنی چاہئے اور ہمیں اپنی حقیقی تاریخ کو حاصل کرنے کا فن سیکھنا چاہئے۔ اس موقع پر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طریقے سے تو ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔

ہم اس مفروضے کو یہ کہہ کر رد کر دیں گے کہ (یہ تمہارا خام خیال ہے)، اس طریقے سے ہماری تاریخ کا اکثر حصہ ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے ہماری اصل اور حقیقی تاریخ نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ جبکہ بے شمار تاریخی روایات اور خصوصاً وہ روایات جو ہماری اس بحث سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باسند مروی ہیں، خواہ وہ کتب تاریخ میں ہوں جیسا کہ تاریخ طبری ہے، یا کتب حدیث میں ہوں جیسا کہ صحیح بخاری، مسند احمد، سنن ترمذی میں یا مصنفات میں ہوں جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ، یا ان کتب تفسیر میں ہوں جو تاریخی روایات کا تذکرہ سندوں کے ساتھ کرتی ہیں جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر ہے۔ بسا اوقات یہ روایات ان خاص کتب سے ملتی ہیں جو بعض مخصوص زمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلاً کتاب حروب الردہ للکلاعی، کتاب مختصر تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ ان روایات میں سے کسی بھی روایت کی سند تلاش کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ (جب تو کرنے سے) آپ کو ان روایات کی اسناد مل سکتی ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی صورت میں سند نہ ملے تو آپ کے پاس ایک عام اصل (معیار) ہے جس پر آپ گامزن رہ سکتے ہیں اور اس اصل کا تعلق دور صحابہ سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس رسولؐ نے صحابہؓ کی تعریف بیان فرمائی ہے (اس کے دلائل صحابہ کرام کی بحث میں آئیں گے) اس بنا

پر آپ ایمان رکھیں کہ صحابہ کرام عادل ہیں یعنی (اور ان میں اصل عدل ہے اور جب آپ کو کوئی ایسی روایت ملے جس میں اصحاب رسول ﷺ پر حرف آتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اس کی سند دیکھی جائے اور اگر سند صحیح ہو تو اس کا صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا اور پتہ لگایا جائے گا کہ یہ روایت کس بات پر دلالت کرتی ہے اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی سند ہی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے تو الحمد للہ۔ اگر اس کی سند نہیں ملتی تو ہمارے پاس اصل ہے اور وہ ہے اصحاب رسول ﷺ کی عدالت جو قرآن حدیث سے ثابت ہے (کہ وہ پاکیزہ جماعت، نیک نیت اور بے قصور تھے۔) بنا بریں جب ہم تاریخ پڑھیں تو یوں پڑھیں جیسے ہم حدیث رسول کو صحت کے معیار پر پرکھ کر پڑھتے ہیں، خصوصاً تاریخ کا وہ حصہ جو اصحاب رسول کے ساتھ خاص ہے۔

ہم کن کی تاریخی مؤلفات پڑھیں:

افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں بہت سے لوگ تاریخ کے موضوع پر لکھی ہوئی جدید کتابیں پڑھتے ہیں، جن میں یا تو واقعات کو رنگ آمیزی سے بیان کیا گیا ہے، یا انہیں بگاڑ دیا گیا ہے، یا ان میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ وہ صحیح ہیں یا من گھڑت مثلاً عباس العقاد، خالد محمد خالد، حسین اور جورجی زیدان یا ان جیسے دیگر جدید اور ماڈرن مورخین کی مؤلفات^① چنانچہ یہ لوگ جب تاریخ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو قصے کو خوبصورت بنانے اور اسلوب بیان کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ یہ قصہ صحیح ہے یا غیر صحیح، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے قصے کو خوبصورت اور داستانی انداز میں پیش کریں۔

① یا جیسے برصغیر میں نسیم حجازی، اسلم راہی اور عنایت اللہ وغیرہ کے تاریخی ناولوں میں وضعی روایات شامل ہیں۔

اس صورت میں ہم کیا پڑھیں:

اگر آپ تاریخی واقعات کی اسانید کی تحقیق کر سکتے ہیں تو امام طبری کو پڑھیں کیونکہ وہ تقریباً ان لوگوں کے سرخیل ہیں جنہوں نے تاریخ کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ اگر آپ واقعات کی اسانید پر تنقید و تحقیق نہیں کر سکتے تو امام ابن کثیر کی ”البدایہ والنہایہ“ اور امام ذہبی کی ”تاریخ الاسلام“ اور امام ابو بکر ابن العربی کی ”العواصم من القواصم“ پڑھیں کیونکہ دور صحابہ کے اس عرصہ (۱۱ھ تا ۶۱ھ) کے حالات اور واقعات پر یہ یہ کتابیں، سب سے عمدہ اور شاندار ہیں۔

مطالعہ تاریخ کے دوران احتیاط:

تاریخی کتب کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں مؤلف کی ذاتی رائے کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے نظر انداز کر کے اصل روایت کی طرف دیکھنا چاہیے (کہ وہ ثابت بھی ہے یا نہیں) اور پڑھتے وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور ہمیں خصوصاً اصحاب الرسول ﷺ کی تاریخ پڑھتے وقت دو باتوں پر ایمان و اعتقاد رکھنا چاہیے۔

پہلی بات: ہمیں اس حقیقت پر ایمان و اعتقاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم صلوات اللہ وسلامہ کے بعد اصحاب الرسول ﷺ تمام انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے اور آنحضرت ﷺ نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور آپ نے بہت سی احادیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ تمام امت سے افضل ہیں، یا یہ کہ وہ انبیائے کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم کے بعد سب امتوں سے افضل ہیں۔

دوسری بات: ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصحاب رسول ﷺ بتقاضاً بشریت معصوم عن الخطا نہ تھے، ہاں البتہ اس بات پر ضرور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ان

کے اجماع کو درجہ معصومیت حاصل ہے کیونکہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے ہمیں خبر دی ہے کہ: ”میری امت ضلالت و گمراہی پر اجماع نہ کرے گی۔“^①

چنانچہ وہ اس اعتبار سے معصوم ہیں کہ وہ سب ضلالت و گمراہی پر متفق ہوں لیکن انفرادی طور پر وہ معصوم نہیں ہیں، کیونکہ انفرادی عصمت صرف اللہ کے مقدس رسولوں کو حاصل ہے، ان کے علاوہ ہم کسی کی انفرادی عصمت کا اعتقاد نہیں رکھ سکتے۔ اس بنا پر لازم ٹھہرا کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کے خیر القرون ہونے کا اعتقاد رکھیں اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں۔

لہذا جب آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت گذرے جس میں کسی صحابی رسول پر طعن، یا حرف آتا ہو، تو اسے رد کرنے میں جلدی کیجئے نہ قبول کرنے میں! بلکہ اس کی سند دیکھیے! اگر سند صحیح ہو تو وہ روایت اس قبیل سے ہوگی کہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ اور اگر سند ضعیف ہو تو ہم اصل پر قائم رہیں گے کہ وہ انبیائے کرام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ (مزید تفصیل عدالت صحابہ کے عنوان پر آئے گی)

اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول ﷺ کی تعریف جن آیات میں بیان کی ہے

ان میں سے ایک یہ ہے:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجَبُ
الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

① مسند احمد من طريق ابى بصره الغفارى: ۳۹۶/۶، ابن ماجه: كتاب الفتن باب السواد الاعظم: ۳۶۷/۲ رقم الحديث: ۳۹۹۸، ابن ابى عاصم فى السنة رقم، ۸۰، نیز اس کی مزید تفصیل باب عدالت صحابہ (ص: ۱۹۵) میں بیان کی جائے گی۔

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾ [سورة الفتح: ۲۹]

”محمدؐ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خو ہیں، تو انہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے رکوع اور سجدوں کی حالت میں دیکھے گا، ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے (شرف و وقار) کی علامات ہیں۔ ان کی یہی نشانی توراہ میں ہے اور یہی نشانی انجیل میں ہے اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کونپلیں نکالیں، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر وہ اپنی ڈالی پر کھڑی ہوئی، اس کا یہ منظر کسان کو مسرور کرتا ہے۔ تاکہ اللہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے (اور وہ ان کی شان و شوکت دیکھ کر دانت پیستے رہیں) اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے اور نیک کام کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس جیسی آیات میں تمام اصحاب رسول ﷺ کی مدح بیان کی ہے اس لیے بنیادی طور پر وہ سب تعریف کے مستحق ہیں اور جیسا کہ حضرت نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدٍ هُمْ وَلَا نَصِيفَةً»^①

”کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر ڈالے، تو ان کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر درجہ حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ نصف سیر جو کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا۔“

یہ ہے حضرت رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و ثنا!۔ اور ان شاء اللہ عنقریب اس کتاب کے عدالت صحابہ کے باب میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔

① صحیح بخاری، کتاب فضائل صحابہ، باب لو كنت متخذ خلیلاً ۳۶۷۳، مسلم فضائل صحابہ: ۲۲۱

آخر میں ہم محتاط تاریخی مطالعہ کی بابت ابو عبد اللہ قطانی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں نقل کرتے ہیں۔ آپ اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں:

لَا تَقْبَلَنَّ مِنَ التَّوَارِيخِ كُلِّ مَا
جَمَعَ الرَّوَاةُ وَ حَطَّ كُلُّ بَنَانٍ
إِزْوِ الْحَدِيثِ الْمُنتَفِي عَنْ أَهْلِهِ
سِيمَا ذَوِي الْأَحْلَامِ وَالْأَسْنَانِ
كَابْنِ الْمُسَيْبِ وَالْعَلَاءِ وَ مَالِكِ
وَاللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ أَوْ سُفْيَانَ

چنانچہ امام ابو عبد اللہ قطانی ان اشعار کے ذریعے اپنے مخاطب کو راویوں کی ہر طرح کی لکھی ہوئی اور جمع کی ہوئی تاریخی روایتوں کے قبول کرنے سے ڈرا رہے ہیں کیونکہ ان میں رطب و یابس کی بھرمار ہے، اگر ایسی روایات نظر سے گزریں تو پھر کیا کیا جائے۔؟ فرماتے ہیں اہل حدیث کی کسوٹی اور ان کے معیار پر پورا اترنے والی حدیث کو ان سے روایت کر خصوصاً ابن مسیب، علاء، مالک، لیث، زہری یا سفیان جیسے ائمہ اعلام سے۔

اگر آپ صحیح تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہی ہو سکتی ہے جو ان ائمہ دین یا ان جیسے ثقہ ائمہ اعلام کی زبان سے مروی ہو نہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طوفان تولنے والوں کی لکھی ہوئی تاریخ! — جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں:

”ہماری تاریخ سیاہ ترین تاریخ ہے۔“

حالانکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ ہماری تاریخ حسین و جمیل اور روشن ترین تاریخ ہے اور اتنی دلچسپ ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے سرد ہنسنے لگتا ہے۔

اور جو شخص تفصیل سے معلوم کرنا چاہے، اسے البداية والنہایة یا تاریخ

اسلام امام ذہبی یادگیر معتبر کتب تاریخ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
تاریخ کی اہم ترین کتاب امام طبری کی تصنیف ”تاریخ الملوك و الامم“ ہے۔
تاریخ نگار حضرات زیادہ تر امام طبری کی تاریخ سے روایات نقل کرتے ہیں، اہل
سنت بھی اور اہل بدعت بھی۔ دونوں اسی کے حوالے پیش کرتے ہیں۔

تاریخ طبری کو دوسروں پر مقدم سمجھنے کی وجوہات

اس کے کئی اسباب ہیں:

- 1- امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ان حوادث کے قریب تر ہونا۔
 - 2- امام طبری رحمۃ اللہ علیہ (ان واقعات کی) اسانید ذکر کرتے ہیں۔
 - 3- امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ
 - 4- اکثر کتب تاریخ اسی کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔
- جب معاملہ یہ رہا تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم کوئی تاریخی تحقیق کرنے کے لیے
براہ راست امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے
عرض کیا ہے کہ اہل السنہ بھی تاریخ طبری کا حوالہ دیتے ہیں اور اہل بدعت بھی۔ تو ان
دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے ہو؟

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ امام طبری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسانید ذکر
کرتے ہیں اور اہل السنہ امام طبری کی صحیح الاسناد روایات لیتے ہیں جبکہ اہل بدعت
ہر طرح کی روایات نقل کرتے ہیں خواہ صحیح ہوں یا موضوع! خاص طور وہ روایات جو
ان کی خواہشات کے مطابق ہوں۔

تاریخ طبری میں امام محمد بن جریر طبری کا اسلوب نگارش

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھ کر اس مسئلہ سے

ہمیں سکون و اطمینان عطا کیا ہے، کاش کہ اس تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس کے مقدمہ کو بھی پڑھ لیا کریں۔^①

امام محمد بن جریر طبری اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ:

”ہماری اس کتاب کے قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں، اپنی شرط کے مطابق، جو روایات اس میں ذکر کرنے والا ہوں اور جو آثار بیان کرنے والا ہوں، اس میں میرا طریق کار یہ ہوگا، کہ میں ان کو ان کے راویوں تک سند کے ساتھ بیان کروں گا۔ چنانچہ میری اس کتاب میں درج شدہ ایسی روایات جو ہم نے بعض متقدمین کے حوالے سے بیان کی ہیں اور ان کا مطالعہ کرنے والا آدمی انہیں ناقابل اعتبار سمجھتا ہے، یا ان کے سننے والا انہیں قبیح سمجھتا ہے، کیونکہ وہ انہیں کسی طرح سے صحیح نہیں سمجھتا، یا درحقیقت ان کا کوئی معنی و مفہوم بھی نہیں نکلتا، تو وہ جان لے کہ وہ روایات ہماری طرف سے نہیں بلکہ ہم تک پہنچانے والوں کی طرف سے ہیں، ہم نے انہیں اسی طرح بیان کر دیا ہے جس طرح وہ ہم تک پہنچی ہیں۔^②

قارئین کرام! میں سمجھتا ہوں کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اس مقدمہ میں ذمہ داری آپ پر ڈال دی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تمہیں میری اس کتاب کی کوئی روایت قبیح اور ناقابل اعتبار نظر آئے اور تم اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہو، تو دیکھئے کہ ہم نے اسے کس سے روایت کیا؟ (لہذا) اس کی ذمہ داری اس پر ہے، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا نام بھی ذکر کر دوں جنہوں نے مجھے وہ روایت بیان کی۔ اب اگر وہ راوی ثقہ ہے تو قبول کر لیں اگر نہیں ہے تو مسترد کر دیں۔

تالیف روایات میں یہ طریقہ کار صرف امام طبری ہی کا نہیں بلکہ اکثر محدثین

① بلکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جس کتاب کو پڑھے اس کے مقدمے کو بھی پڑھے تاکہ وہ مؤلف کتاب کا منہج بھی سمجھ سکے۔

② مقدمہ تاریخ طبری: ص: ۵

نے اسی انداز سے روایات جمع کی ہیں۔ چنانچہ جب آپ صحیح روایات پر مشتمل صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث مثلاً سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، دارقطنی، دارمی، مسند احمد یا ان جیسی دیگر کتب کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ کے لیے اسناد ذکر کرتے ہیں اور صرف صحیح احادیث پر اکتفا نہیں کرتے لہذا اب ان کتب کے مطالعہ کے دوران ہم نے اسناد کی طرف دیکھنا ہے اگر سند صحیح ہے تو روایت قبول کر لیجئے ورنہ رد کر دیجئے۔ اسی طرح امام طبری نے فقط صحیح روایات درج کرنے کی پابندی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس بات کی پابندی بھی کی ہے کہ آپ کے سامنے ان راویوں کا نام ذکر کر دیں جن سے انہوں نے روایات سنیں ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ پر اس روایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔

اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں زیادہ تر روایات لوط بن یحییٰ نامی راوی سے بیان کی ہیں، جس کی کنیت ابو مخنف تھی اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ابو مخنف سے پانچ صد ستاسی روایات بیان کی ہیں اور یہ روایات حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع ہوتی ہیں اور خلافت یزید بن معاویہ پر ختم ہوتی ہیں اور ہم اپنی اس کتاب میں اسی عرصے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اس میں درج ذیل موضوعات پر بحث ہوگی۔

(۱) سقیفہ بنی ساعدہ (۲) قصہ شوریٰ اور وہ اسباب جن کی وجہ سے خوارج امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ (۳) اس کے بعد آپ کی شہادت۔ (۴) خلافت حضرت علی المرتضیٰؓ، (۵) جنگ جمل، (۶) جنگ صفین، (۷) تحکیم، (۸) جنگ نہروان، (۹) خلافت امیر معاویہؓ، (۱۰) شہادت حسینؓ۔

چنانچہ ان تمام موضوعات میں آپ کو ابو مخنف کی روایات ملیں گی اور اہل بدعت انہی روایات پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کے متلاشی رہتے ہیں اور ابو مخنف ان روایات کو بیان کرنے میں منفرد نہیں بلکہ وہ صرف دوسروں سے زیادہ مشہور ہے ورنہ انہیں بیان کرنے والے دیگر حضرات بھی ہیں جیسے واقدی اور یہ متروک اور متہم

بالکذب ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واقدی^① بہت بڑا مؤرخ اور تاریخ شناس ہے لیکن وہ ثقہ نہیں ہے۔

اور تیسرا راوی سیف بن عمر التمیمی^② ہے۔ یہ بھی مشہور مؤرخ ہے لیکن وہ بھی متروک اور متہم بالکذب بھی ہے۔

اور یہی حال محمد بن سائب کلبی^③ کا ہے اور یہ بھی مشہور کذاب ہے۔ لہذا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے انسان پر ان جیسے مؤرخین کی روایت کی تحقیق کرنا واجب ہے۔

اب ہم اپنے قلم کارخ ابوحنفہ کی طرف پھیرتے ہیں، اس کے متعلق امام بیہقی بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ ایک مرتبہ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ جھاڑنا شروع کر دیے اور فرمایا اس کے متعلق بھی کوئی پوچھنے کی ضرورت سمجھتا ہے؟ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں: ”داستان ساز مؤلف ہے، اس کی توثیق نہیں کی جاسکتی۔“^④

لہذا جب آپ تاریخ طبری کو کھولیں اور اس میں کوئی ایسی روایت دیکھیں جس کی وجہ سے اصحاب رسول پر حرف آتا ہے اور پھر دیکھیں کہ طبری نے اسے ابوحنفہ سے روایت کیا ہے تو اسے کونے میں رکھ دیجئے کیوں؟

اس لیے کہ یہ ابوحنفہ کی روایت ہے۔ اور یہ شخص بدعتی، جھوٹا اور کثیر الروایۃ شخص ہے اس نے بدعت، جھوٹ اور کثرت روایت جیسی قباحتیں اکٹھی کر دی ہیں۔

① محمد بن عمر بن واقدی: اس کا تعارف تہذیب التہذیب: ۳۶۳/۹ اور میزان الاعتدال ۶۶۲/۳ پر دیکھئے

② سیف بن عمر: اس کا تعارف تہذیب التہذیب: ۲۹۵/۴ اور میزان الاعتدال ۵۵/۲ پر دیکھئے۔

③ محمد بن سائب کلبی: اس کا تعارف، میزان الاعتدال ۵۵۶/۳ پر دیکھئے۔

④ میزان الاعتدال: ۴۱۹/۳، الجرح والتعديل ۱۸۲/۷، لسان المیزان ۴۹۲/۴

تاریخ مسخ کرنے کے لیے بعض مورخین کا طریق کار

1- جھوٹ اور افتراء:

یہ لوگ کوئی قصہ گھڑ لیتے ہیں (اور اس پر حاشیہ آرائی بھی کرتے ہیں) مثلاً یہ کہ جب سیدہ صدیقہ بنت صدیق کو سیدنا علی کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حالانکہ یہ سفید جھوٹ اور من گھڑت داستان ہے۔

2- کسی اہم واقعہ کی شکل و صورت بگاڑنے کے لیے کمی بیشی کرنا:

حادثے کا اصل صحیح ہوتا ہے جیسے سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ، اس نازک واقعہ کی اصل صحیح ہے اور اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ ایک طرف تھے اور حضرت حباب بن منذرؓ اور حضرت سعد بن عبادہؓ وغیرہ انصار دوسری طرف تھے لیکن ان لوگوں نے اس حقیقت کا حلیہ بگاڑنے کے لیے جان بوجھ کر بہت سی باتیں بڑھادیں (ان کا ذکر عنقریب آ رہا ہے) جس سے ان کی غرض یہی تھی کہ اصحاب رسول ﷺ کی حیات مبارکہ کو داغدار ثابت کریں۔

3- نازک واقعات کا باطل مفہوم:

کسی نازک واقعہ کی ایسی باطل تاویل کرنا جو ان کی خواہش کے مطابق ہو اور ان کے اعتقاد سے میل رکھتی ہو اور جس بدعت پر وہ کار بند ہوں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی ہو۔

4- خامیوں اور غلطیوں کو اچھالنا:

واقعہ تو صحیح ہے لیکن اس کے اندر تمام طرح کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے غلطیوں پر توجہ مرکوز کرنا اور انہیں اچھالنا۔

5- تاریخی حادثات کی بابت شاعری کرنا:

چنانچہ یہ حضرات اپنے شعراء سے اشعار لکھوا کر انہیں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف، یا ام المؤمنین سیدہ صدیقہ طاہرہؓ، یا حضرت زبیرؓ، یا حضرت طلحہؓ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کسی طرح صحابہ پر طعن ہو سکے جس طرح انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ آپ نے ام المؤمنین سیدہ صدیقہ طاہرہؓ کی نسبت کہا:

«تَبَعَلَتْ تَجَمَّلَتْ - وَكُوُ شِعَتْ تَفِيَلَتْ»

6- جعلی کتابیں اور چٹھیاں لکھنا:

اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بیان میں آئے گی (ان شاء اللہ) کہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے نام سے خود ساختہ چٹھیاں لکھیں اور ان کے علاوہ نہج البلاغۃ اور الإمامۃ والسیاسة لکھ کر بالترتیب حضرت علی اور حضرت امام ابن تینیہؒ کی طرف منسوب کر دیں۔^①

تاریخ اسلام کی شکل بگاڑنے اور اس میں تدسیس کرنے میں شیعہ کا کردار

شیعہ مشہور ترین بدعتی ہیں اور انہوں نے تاریخ میں بہت سا جھوٹ داخل کر دیا۔ اسی لیے اہل علم جب کسی آدمی کے جھوٹ کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں: «كُذِّبَ مِنْ رَافِضِيٍّ» ”یعنی رافضی سے بڑھ کر جھوٹا“ کیونکہ ان کے ہاں جھوٹ بہت ہے۔ حضرت امام سلیمان بن مہران فرماتے ہیں کہ: ”میں نے (اہل علم) سے ملاقاتیں کی ہیں وہ انہیں (شیعہ کو) کذاب کے علاوہ اور کوئی نام نہ دیتے تھے۔“

① دیکھئے: تاویل مشکل القرآن تحقیق سید احمد صقر، ص: ۳۲

حضرت قاضی شریک فرماتے ہی کہ: ”رافضیوں کے سوا ہر آدمی سے علم حاصل کرو، کیونکہ رافضی، احادیث گھڑ لیتے ہیں پھر انہیں دین سمجھ لیتے ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں: ”کہ میں نے رافضیوں جیسی جھوٹی گواہی دیتے کسی کو نہ دیکھا۔“

مقصد یہ ہے کہ اگرچہ دوسرے بدعتی فرقے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں لیکن یہ فرقہ اس معاملے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔

اہل سنت کے ہاں تحقیق کا منہج کب شروع ہوا؟

جب سے فتنہ شروع ہوا اس وقت سے ہی یہ منہج وجود میں آیا، چنانچہ جلیل القدر تابعی امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ:

”پہلے پہل لوگ سند نہیں پوچھا کرتے تھے، جب فتنہ برپا ہوا تو وہ پوچھنے لگے کہ اس روایت کے راوی ذکر کرو، تاکہ ان میں سے اہلسنت کی روایات لے لی جائیں اور اہل بدعت کو پہچان کر ان کی روایات مسترد کر دی جائیں۔“^①

(اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں میں اصل ثقہ ہونا ہے)۔“

امام ابن سیرین کبار تابعین سے ہیں اور انہوں نے صحابہ کا دور پایا ہے اور صغار کبار تابعین کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور فتنہ سے مراد شیعہ، خوارج، قدریہ جیسے بدعتی فرقوں کا ظہور ہے۔^②

① دیکھئے: مقدمہ صحیح مسلم باب الاسناد من الدین

② نوٹ = شیعہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت علیؑ اور ان کی اولاد سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امامت کے حقدار بھی وہی ہیں اور یہ لوگ اکثر صحابہ کرامؓ جمعین کی تکفیر کرتے ہیں۔

⊗ خارجیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ صفین کے بعد حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت کی اور حضرت علیؑ نے انہیں جنگ نہروان میں تہ تیغ کیا۔

⊗ قدریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں (کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور تقدیر وغیرہ کا اس میں کوئی دخل نہیں) اور تمام امور دنیا کسی سابقہ تقدیر کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت رسول کریم ﷺ کی بعثت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ ربیع الاول، بروز سوموار، عالم انسانیت کے سردار^① اور اس کے ہادی و مرشد حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب قریشی ہاشمی کو پیدا کر کے مومنین پر عظیم احسان فرمایا۔^②

آپ باپ کی طرف سے یتیم پیدا ہوئے اور اپنی عمر کے چھ سال بعد ماں کی طرف سے بھی یتیم ہو گئے کیونکہ جب آپ کا باپ فوت ہوا تو اس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب آپ چھ سال کے ہوئے تو ماں بھی فوت ہو گئی، پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ لیکن دو سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے تو آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔

جب آپ ﷺ اپنی عمر کے چالیسویں سال کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا چنانچہ آپ ﷺ نے رسالت اور نبوت کا حق ادا کر دیا اور آپ کے رب نے آپ کو جس پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا آپ نے اسے من و عن پہنچا دیا تاکہ آپ لوگوں کو (کفر و شرک کے) اندھیروں سے نکال کر (ایمان و اسلام کی) روشنی میں لے آئیں۔

چنانچہ آپ ﷺ کی قوم کے بڑوں نے آپ سے عداوت شروع کر دی

① ولادت کی تاریخ میں اختلاف بھی ہے۔ (مؤرخ اسلام قاضی محمد سلیمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق نبی کریم ﷺ کی صحیح تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول ہے۔) [دیکھئے رحمۃ اللعالمین اور سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی]

② آپ نے فرمایا: «أَنَا سَيِّدٌ وُلِدَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ» مسند احمد ۲/۳

اور آپ کو اور آپ کے تعلق داروں کو ستانا شروع کر دیا۔ اور آپ کی پیروی ایسے لوگوں نے کی جنہوں نے دنیا فروخت کر کے آخرت خرید لی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی نصرت کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ۸]

” (مال فتنے) ان نادار مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیئے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔“

آپ تیرہ (۱۳) سال تک مسلسل دعوت الی اللہ میں مصروف رہے۔ پھر اللہ نے آپ کو اس فرودگاہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا جسے اللہ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے منور کر دیا اور آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے بھی ہجرت کی اور مال و اولاد اور گھر بار چھوڑ دیا (اور یہ سب کچھ) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی راہ میں کیا۔

جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو ٹھکانا مہیا کر دیا اور آپ کی عزت و توقیر کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد بھی کی۔ اور آپ کی خاطر تمام لوگوں کی دشمنی مول لی اور مہاجرین کی اپنے مالوں اور گھروں سے غم خواری کی، بلکہ بیویوں کی پیش کش بھی کی۔ چنانچہ ایک یثربی سردار کی دو بیویاں تھیں اس نے اپنے مہاجر بھائی کو پیش کش کی کہ ان میں سے ایک پسند کر لو، آپ جسے پسند کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَوَلَيْكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ [الحشر: ۹]

”اور (یہ مال فتنے) ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو (مہاجرین کی ہجرت سے) پہلے ہی دارالہجرت اور ایمان کو ٹھکانا بنا چکے ہیں اور جو کوئی ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کو کچھ دیا جائے تو یہ لوگ اپنے دلوں میں گھٹن اور تنگی محسوس نہیں کرتے اور انہیں خواہ کتنی سخت حاجت درپیش ہو پھر بھی انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچ جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

حضرت نبی مکرم ﷺ مدینہ منورہ کے اردگرد بلکہ تمام جزیرہ العرب میں مسلسل دعوت اسلام دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا جس دن اللہ نے اپنے رسول ﷺ کے لیے مکہ سرنگوں کر دیا اور اس کے رہنے والے اسلام میں داخل ہو گئے اور پورے کا پورا جزیرہ العرب آپ کا تابع فرمان ہو گیا۔
آپ کی دعوت اور جہاد کے تیس (۲۳) سال بعد، درج ذیل فرمان الہی کی تصدیق کرنے والی حتمی تقدیر نافذ ہو گئی:

﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ
قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝﴾ [آل عمران: ۱۴۴]

”اور محمد (اللہ کے) رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں، اگر

ان کا انتقال ہو جائے یا آپ قتل کر دیئے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر گیا (یعنی دین اسلام سے برگشتہ ہو گیا) وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔“
جب آپ ﷺ کے ارتحال کا سانحہ پیش آیا تو گویا دنیا پر تاریکی چھا گئی اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ خود فرما چکے تھے کہ:

”جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ اس مصیبت کو یاد کرے جو اسے میرے (دنیا سے چلے جانے کے صدمے سے) پہنچے گی کیونکہ وہ تمام مصائب سے بڑھ کر ہوگی۔“^①

جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے؟ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی، جو حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات سے بڑھ کر ہو۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔

✽ اے میرے ابا جان! آپ نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا۔

✽ اے میرے ابا جان! آپ کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے۔

✽ اے میرے ابا جان! ہم آپ کی وفات کی خبر حضرت جبرائیل کو پہنچاتے ہیں۔^②

اور ادھر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو فرما رہے ہیں کہ: ”جب حضرت رسول کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے در و دیوار روشن ہو گئے! اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا!

① طبقات کبریٰ ۲/۲۷۵، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ نمبر: ۱۱۰۶ میں صحیح کہا ہے۔

② سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب وفاة النبی ۱/۲۹۹، مستدرک حاکم ۱/۳۸۱، وقال هذا حدیث

صحیح علی شرط الشیخین وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَ سَكَتَ الذَّهَبِيُّ

مزید فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول مقبول ﷺ کو دفن کر کے اپنے ہاتھ جھاڑے ہی تھے کہ ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی۔^①

اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کر آئیں، جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں، انہوں نے فرمایا: کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے رسول کے لیے بہتر سے بہتر مقام ہے۔

فرمانے لگیں کہ: ”میں اس بات سے لاعلمی کی وجہ سے نہیں روتی کہ اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے کیا ہے، میں تو اس بنا پر روتی ہوں کہ آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ اس جملے نے ان دونوں کو تڑپا دیا اور یہ بھی رونے بیٹھ گئے۔“^②

اندریں صورت آپ کی پاکیزہ روح اپنے خالق و مالک کے پاس پہنچ گئی اور اب اللہ تعالیٰ (کا پسندیدہ) دین (قیامت تک کے لیے) زمین پر باقی رہے گا۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔



① ابن ماجہ کتاب الجنائز ۱/۲۹۹، رقم الحدیث: ۱۶۳۲

② مسلم فضائل الصحابہ، رقم الحدیث: ۱۰۳

خلافت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ

۱۱ھ تا ۱۳ھ

جب حضرت رسول مقبول ﷺ کی وفات کا اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ (مدینہ کی قریبی بستی) سے تشریف لائے اور آپ ﷺ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا:

”میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! آپ زندگی میں بھی پاکیزہ اور خوش گوار تھے اور موت کے بعد بھی پاکیزہ اور خوش گوار ہیں، اور آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ دیا، پھر کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھ گئے اور فرمایا:

”جو کوئی محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا (وہ جان لے کہ) آپ ﷺ کی وفات پا چکے ہیں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا (وہ جان لے کہ) اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔“

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ۱۴۴]

”اور محمد (اللہ کے) رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پھر گیا (یعنی دین اسلام سے برگشتہ ہو گیا) وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ عطا فرمائے۔“

یہ سن کر لوگ رونے لگے (اور اس قدر روئے) کی ان کی ہچکیاں بندھ گئیں

اور وہ گلیوں میں اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”گویا ہم نے یہ آیت اسی وقت سنی۔^① حالانکہ قرآن آپ کی زندگی میں آپ کی وفات سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت گویا نئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں سنا تھا۔ (کیونکہ آپ کی وفات کے شدید ترین صدمہ سے صحابہ کرام ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے) اور اس آیت میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی۔

چنانچہ حضرت عباس بن عبدالمطلب، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم آپ کے غسل اور تجہیز و تکفین کا فریضہ سرانجام دینے لگے حتیٰ کہ آپ پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا۔ (آپ پر درود و سلام ہو اور آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں) چونکہ حضرت عباس آپ کے چچا اور حضرت علیؑ آپ کے چچا زاد بھائی اور حضرت زبیرؓ آپ کے پھوپھی زاد تھے۔ اس لیے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کے کفن دفن کے حق دار تھے۔



① صحیح البخاری = کتاب فضائل الصحابہ: باب لو کنت متخذًا خلیلاً، رقم الحدیث: ۳۶۶۸

سقیفہ بنی ساعدہ

یہ عرصہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس اور زبیر بن عوامؓ حضرت رسول اللہ ﷺ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے چند انصاری بزرگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ چنانچہ پہلے، میں اس واقعہ کو امام طبریؒ کی تاریخ کے حوالے سے ابو مخنف کذاب کی زبانی بیان کروں گا، پھر اس روایت کو امام بخاریؒ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ پھر آپ ان دونوں روایتوں کے درمیان موازنہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابو مخنف نے کتنی باتیں بڑھائی ہیں۔ اور شاید ہمارے بہت سے لوگوں کے ہاں یہ اضافی باتیں مسلمہ تاریخی حقائق بن چکی ہوں اور (ابو مخنف کے من گھڑت اضافے) حادثہ شوریٰ میں بھی بیان ہوں گے چنانچہ امام محمد بن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ:

”ہمیں ہشام بن محمد نے ابو مخنف کے حوالے سے بیان کیا، کہ وہ کہتا ہے مجھے عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی عمرو بن ابی عمرہ انصاری نے بتایا، کہ جب حضرت نبی مکرم ﷺ فوت ہوئے تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ: ہم جناب رسول مقبول ﷺ کے بعد سعد بن عبادہ کو سربراہ مقرر کریں گے۔ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ:

تمہاری تلواروں کی وجہ سے عربوں نے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کے مقدس رسول ﷺ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ تم سے راضی اور خوش تھے اور ان کی

① سقیفہ بنی ساعدہ سے مراد وہ چھپر ہے جس کے سائے میں بنو ساعدہ بیٹھا کرتے تھے۔ [مترجم]

آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ لہذا تم آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو سنبھال لو، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

سب نے مل کر جواب دیا کہ: تو نے ٹھیک کہا۔

ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر قریش کے مہاجرین اس رائے کو تسلیم نہ کریں، تو ہم کہیں گے، کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے۔

حضرت سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ: یہ پہلی کمزوری ہے۔

اسی دوران، حضرت عمر بن خطابؓ کو اطلاع ملی کہ چند انصار، سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر کہہ رہے تھے کہ ایک امیر ہم سے ہوگا اور ایک تم میں سے، یہ بات آپ کو کسی انصاری نے بتائی تھی چنانچہ آپ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور انہیں معاملے سے آگاہ کیا کہ ہمارے انصاری بھائی جمع ہوئے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آؤ ہم ان کے پاس چلیں۔

چنانچہ حضرت عمرؓ اور ابو بکر صدیقؓ وہاں سے چل پڑے، اور انہوں نے (راستہ میں) حضرت ابو عبیدہؓ کو دیکھا، تو اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور انصار کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں اس موقع پر گفتگو کرنے کا خاکہ ترتیب دیا۔ جب میں نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا اٹھ۔ راوی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مکمل خطبہ بیان کیا اور ان کی یہ بات بھی بیان کی کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔

حضرت حبابؓ بن منذر فرمانے لگے کہ: ”اے انصار کے قبیلو! اپنے منصب امارت کو اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ لوگ تمہارے سائے اور تمہارے کیمپ میں ہیں اور کوئی شخص تمہاری مخالفت کی جرأت نہیں کرے گا اور لوگ تمہاری رائے سے

چھوڑوں گا جس میں تیری حیثیت متبوع کی بجائے تابع کی ہوگی، مجھے اس جگہ سے اٹھالو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ چند دن خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا: ”اللہ کی قسم! جب تک میرے گھر والے اور میرے قبیلے والے میری اطاعت کرتے رہیں گے اس وقت تک میں اپنے ترکش سے تم پر تیر پھینکتا رہوں گا اور اپنے نیزے کے پھل خون آلود کرتا رہوں گا۔ اور جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت رہی میں اپنی تلوار سے تمہیں مارتا رہوں گا۔“

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد نہ تو سعدؓ نے ان کے ساتھ نماز پڑھتا، نہ ان کے ساتھ وہ جمعہ ادا کرتا اور حج کرتا تو ان کے ساتھ افاضہ نہ کرتا۔ چنانچہ جب تک ابوبکرؓ فوت نہیں ہوئے اس وقت تک وہ اسی طرح کرتا رہا۔^①

مختصراً یہ وہ روایت ہے جو سقیفہ بنی ساعدہ کے سلسلے میں ابو مخنف نے بیان کی ہے۔ اب اس سلسلے میں امام بخاری کی روایت پڑھو اور اس کا اس سے موازنہ کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ:

”ہمیں اسماعیل بن عبد اللہ نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے ہشام بن عروہ سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا:

جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، کہ ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔ تو حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ فاروق اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم ان کی طرف گئے۔ حضرت عمرؓ فاروق بات کرنے لگے تو حضرت ابوبکرؓ نے انہیں خاموش کر دیا اور حضرت عمرؓ فاروق بیان فرماتے ہیں کہ:

① تاریخ طبری ۲/۴۵۵ مختصراً

”میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لیے شاندار تقریر کی تیاری کر لی تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ شاید حضرت ابو بکرؓ ایسی تقریر نہ کر سکیں، لیکن اللہ کی قسم، حضرت ابو بکرؓ نے بڑی بلیغ اور پر اثر تقریر کی (اور میرے دل کی تمام باتیں بھی بیان کر دیں) انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا: ”ہم امیر ٹھہرے اور تم وزیر۔“
حضرت حبابؓ بن منذر نے فرمایا: ”نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔“

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ ہم امیر اور تم وزیر (اور قریش کے متعلق بیان کیا کہ) وہ گھرانوں کے اعتبار سے معتدل اور حسب کے اعتبار سے نہایت معزز ہیں۔ لہذا تم حضرت عمرؓ یا ابو عبیدہؓ کی بیعت کر لو۔“
حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”بلکہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں کیونکہ تم ہمارے سردار اور ہم سے برتر، بہتر ہو اور اللہ کے رسول ﷺ کو ہم سے زیادہ پیارے ہو۔“

چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔^①
لیجیے یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت! تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مختصر ہے اور چھوٹی ہے اور سقیفہ بنی ساعدہ کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے۔
رہے ابو مخنف کے اضافے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا:

”میں تم سے لڑوں گا اور وہ ان کے ساتھ نہ حج کرتے تھے اور نہ نماز پڑھتے تھے نہ جمعہ پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ طواف کرتے تھے اور یہ کہ حضرت حبابؓ بن منذر نے ابو بکر کو ترکی بہتر کی جواب دیا (اور اس طرح کی دیگر باتوں کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں) حالانکہ سقیفہ کا معاملہ نصف گھنٹے سے زیادہ موضوع بحث نہ بنا

① صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ: باب لو كنت متخذًا خلیلاً، رقم الحدیث ۳۶۶۸

لیکن (کذاب راویوں نے) کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔

رہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے متعلق مسند امام احمد رحمہ اللہ میں حضرت حمید بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور ایسی کوئی بات نہ چھوڑی جو انصار کی شان میں نازل ہوئی ہو، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام نے ان کی شان کے متعلق بیان کی ہو اور فرمایا کہ:

تم جانتے ہو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ”کہ اگر لوگ کسی اور وادی میں چلیں اور انصار کسی اور وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں ہی چلوں گا۔“ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”اے سعد تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس امارت کے معیار ہیں، نیک لوگ ان کے نیکوں کے تابع ہیں اور برے لوگ ان کے بروں کے تابع ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا:

”آپ رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کہا۔ ہم وزیر ٹھہرے اور تم امیر۔“

یہ روایت جو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت حمید بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف سے صحیح مرسل سند سے روایت کی، یہ ان روایتوں سے کئی درجے قوی ہے جنہیں کذاب ابوحنیف نے روایت کیا ہے۔^①



خليفة الرسول سيدنا ابو بكر صدیقؓ کے فضائل و مناقب

آپ کا نام عبد اللہ بن عثمان ہے اور آپؓ عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر (کی پشت سے ہیں) اور اسی فہر کو قریش کہتے ہیں۔^①

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل کیا ہے۔“^②

قبول اسلام:

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھنٹوں تک اپنے کپڑے کا کنارہ اٹھائے ہوئے آرہے تھے (انہیں دیکھ کر) حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بھئی تمہارا ساتھی خطرات میں کودنے والا ہے۔“ انہوں نے سلام کہہ کر شکایت کی کہ: ”اے اللہ کے پیارے رسول! میرے اور حضرت عمر کے درمیان تو تکار ہوگئی، میں نے جلد بازی کی، پھر مجھے شرمندگی ہوئی تو میں نے ان سے معافی کا سوال کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔“

ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی، چنانچہ وہ حضرت ابو بکرؓ کے گھر گئے اور

پوچھا کیا ابو بکرؓ گھر میں موجود ہیں؟

انہوں نے کہا: ”نہیں۔“

① معرفة الصحابة، ابو نعیم ۱/۱۵۰

② طبرانی ۱/۵۵، فتح الباری ۷/۱۱

پھر وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، تو انہیں آتے ہوئے دیکھ کر آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہونے لگا (یہ منظر دیکھ کر) ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے:

”اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ اللہ کی قسم، زیادتی مجھ سے ہوئی تھی (دو مرتبہ کہا)

آخر حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (سنو!)
 ”اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تو تم نے کہا:
 ”تو نے جھوٹ بولا۔“

اور ابو بکرؓ نے کہا: اس نے سچ کہا۔

اور اس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے میری غم خواری کی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کا تصور نظر انداز نہیں کر سکتے؟۔ (آپ ﷺ نے دو مرتبہ یہ الفاظ کہے)

”اس کے بعد آپؐ کو کبھی تکلیف نہ دی گئی۔“^①

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے (ابتداءً اسلام میں) اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا اس وقت آپ کے ساتھ پانچ غلام، دو عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ (ایمان لائے) تھے۔^②

آپ کی ہجرت:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

میں اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں تھا، جب میں نے سراٹھا کر دیکھا تو مجھے قریش کے سراغ رسانوں کے پاؤں نظر آئے۔

① صحیح البخاری = کتاب فضائل الصحابة: باب قول النبی لو كنت متخذًا خلیلاً، الحدیث: ۳۶۶۱

② صحیح البخاری = کتاب فضائل الصحابة: باب قول النبی لو كنت متخذًا خلیلاً، الحدیث: ۳۶۶۰

میں نے کہا: ”اے اللہ کے نبی ﷺ! اگر ان میں سے کوئی سر جھکا کر دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے ابوبکرؓ خاموشی اختیار کیجئے، ہم دونوں کا تیسرا اللہ ہے۔“^①

آپؓ کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے۔

✽ تو جو کوئی نماز والوں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔

✽ اور جو کوئی جہاد والوں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔

✽ اور جو کوئی صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔

✽ اور جو کوئی روزہ والوں سے ہوگا وہ روزہ کے دروازے سے بلایا

جائے گا۔

تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس کسی (خوش نصیب) کو ان دروازوں سے بلایا گیا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہ رہی پھر پوچھا: ”اے اللہ کے پیارے رسولؐ بھلا کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟“

آپؓ نے فرمایا: ”ہاں اے ابوبکر! اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہے۔“^②

حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ: ”حضرت نبی کریم ﷺ، اُحد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمان (رضی اللہ عنہم) بھی تھے، تو وہ حرکت

① بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر: ۳۹۲۲، مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر: ۱

② بخاری کتاب فضائل الصحابہ حدیث: ۳۶۶۶

کرنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی اور صدیق اور دو شہید ہیں۔“^①

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
 حضرت نبی کریم ﷺ نے مجھے ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا،
 میں نے (واپس آ کر آپ سے) پوچھا کہ:
 لوگوں میں سے آپ کو سب سے بڑھ کر پیارا کون ہے؟
 آپ نے فرمایا: عائشہ صدیقہؓ۔
 میں نے پوچھا: اور مردوں میں ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا باپ (ابو بکر رضی اللہ عنہ)۔
 میں نے پوچھا: ”اس کے بعد کون؟“ آپ نے فرمایا: ”عمر بن خطاب“^②
آپ کا علم:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”اللہ کے رسول ﷺ نے
 لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا:
 اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا پسند کرے، یا اس چیز
 کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔
 (ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری) فرماتے ہیں کہ: (یہ سن کر) ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رونا
 شروع کر دیا۔

ہم نے اس بات پر تعجب کیا کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے ایک بندے

① بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب قول النبی لو كنت متخذًا خليلاً الحدیث: ۳۶۷۵

② بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب قول النبی لو كنت متخذًا خليلاً الحدیث: ۳۶۶۲، مسلم

متعلق بیان کیا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا، اور ابو بکرؓ رورہے ہیں!
پس رسول اللہ ﷺ ہی وہ بندے تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ عالم تھے۔
چنانچہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”کہ ابو بکر اپنے مال اور مخلصانہ صحبت
کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر میرے محسن ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو
خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اسلام کی اخوت اور اس کے ساتھ دلی
محبت (ضرور ہے)

(لہذا) مسجد میں داخل ہونے والے سب دروازے بند کر دیئے جائیں
سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔“^①

حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ آپ کی رفاقت:

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مشرکین نے اللہ کے پیارے
رسول کے ساتھ سخت ترین بدسلوکی کس نوعیت سے کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا:
” میں نے عقبہ بن ابی معیط (ملعون) کو دیکھا کہ وہ حضرت رسول
مقبول ﷺ کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے آپ کے
گلے میں کپڑا ڈال کر بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ اس بدسلوکی کو
دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا:

« أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ
رَبِّكُمْ »^②

”کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے
پاس واضح اور روشن دلائل لایا ہے؟“

① بخاری - کتاب فضائل صحابہ حدیث: ۳۶۵۴

② بخاری کتاب فضائل الصحابہ: ۳۶۷۸

حضرت رسول کریمؐ کے آپ کی خلافت کی طرف اشارات

- 1- حضرت سیدہ عائشہؓ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا:
- ”ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔“^①
- 2- حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ:
- ”ایک عورت حضرت نبی اکرم ﷺ کے پاس آئی، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا۔“ وہ کہنے لگی: ”اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو۔“
- (گویا اس کا مطلب تھا کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو؟)
- آپ نے فرمایا:
- ”اگر مجھے نہ پائے تو ابوبکرؓ کے پاس آنا۔“^②
- 3- سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں حکم دیا: ”ابوبکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ایک تحریر لکھوا دوں، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرنے لگے اور کہنے والا کہنے لگے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔“
- ”جبکہ اللہ اور مومنین ابوبکرؓ کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔“^③

① بخاری کتاب الاذان حدیث: ۶۷۸

② بخاری کتاب فضائل الصحابہ: ۳۶۵۹، مسلم فضائل الصحابہ حدیث نمبر: ۱۰

③ مسلم فضائل صحابہ حدیث نمبر: ۱۱، بخاری کتاب المرض حدیث نمبر ۵۶۶۶

نوٹ = حضرت امام ابوالفرج عبدالرحمن بن رجب بغدادی نے اپنی کتاب لطائف المعارف ص: ۱۰۷ پر اس سلسلے میں ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ: حضرت نبی اکرم ﷺ اگر ایسا لکھ دیتے تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی اور وہ کہنے لگتے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر کے ان کے احسانات کا بدلہ دیا ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے کوئی تحریر نہ لکھی، البتہ آپ ﷺ نے اپنے اقدامات کے ذریعے ان کے خلیفہ بننے کی تمنا ظاہر کر دی۔ [مترجم]

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اہم واقعات

۱۔ لشکر اسامہؓ کی روانگی:

حضرت رسول کریم ﷺ نے غزوہ شام کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، لیکن اس کی روانگی سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہؓ کے لشکر (کوروم کی سرحد پر) بھیج دیا، اس لشکر کی روانگی نے ان منافقین اور مرتدین کی کمر توڑ دی جو سمجھ بیٹھے تھے، کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد اسلام کمزور ہو جائے گا اور پھر قصہ پارینہ بن جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کی روانگی سے مسلمانوں کی شان و شوکت بلند ہو گئی (اور عالم کفر پر ان کی دھاک بیٹھ گئی)

۲۔ مرتدین کے خلاف جنگیں:

مرتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے اور ان کی اکثریت، مسیلمہ کذاب، طلیحہ، اسود عنسی اور سجاح بنت الحارث کے تابع ہو گئی اور ان کے خلاف بڑی خونریز جنگیں ہوئیں اور سب سے زیادہ خونریز جنگ، مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے باغ میں لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔

۳۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی:

مانعین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رکھا تھا (اور

وہ سمجھتے تھے) یہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے کسی شاعر نے کہا:

أَطَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ وَسْطَنَا
فِيَا لِعِبَادِ اللَّهِ مَا لِأَبِي بَكْرٍ
أَيُورِثُهَا بَكْرًا إِذَا مَاتَ بَعْدَهُ
وَ تِلْكَ لَعَمْرُ اللَّهِ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ ①

”جب تک اللہ کا رسول ہمارے درمیان زندہ رہا ہم اس کی اطاعت کرتے رہے۔ اے اللہ کے بندو ابوبکر کا اس معاملے میں کیا حق بنتا ہے؟“

”کیا آپ ﷺ کی وفات کے بعد وہ اس امارت کا وارث بنے گا۔ اللہ کی قسم یہ تو کمر توڑنے والا فیصلہ ہے۔“

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

”جب حضرت رسول کریم ﷺ فوت ہوئے تو عرب کے بہت سے لوگ کافر ہو گئے، حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف لشکر کشی کا عزم بالجزم کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے گزارش کی کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ جبکہ حضرت رسول مقبول ﷺ فرما گئے ہیں کہ: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ ② اور جس نے اس بات کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچا لیا مگر حق اسلام (اس پر نافذ ہو سکے گا) اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔“

خليفة الرسول ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! میں ہر اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان

① البداية والنهاية ۶/۳۱۷، یہاں اشعار تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ دیوان حطیہ میں موجود ہیں۔

② کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔

فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ، مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے (سال سے چھوٹی کھیری بچی) دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے تو میں اس پر ضرور لڑائی کروں گا۔^①

۴۔ فتوحات فارس:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ثنیٰ بن حارثہ کی سپہ سالاری میں فارس کی طرف لشکر بھیجے اور پھر ان کے پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ان دونوں کے پیچھے قعقاع بن عمرو تمیمی کو بھی روانہ فرمایا۔

۵۔ فتوحات شام:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ فرمایا تو ان کے مقابلے کے لیے بے شمار رومی جمع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے امداد کی درخواست کی۔ آپ نے ولید بن عتبہ اور عکرمہ بن ابو جہل اور عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ (اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ تمام لشکر کے امیر بن گئے۔) چنانچہ لشکر اسلام آگے بڑھتا ہوا یرموک تک پہنچ گیا۔ پھر آپ نے ان کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا تو اللہ کی طرف سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔^②

۶۔ قرآن کریم کو جمع کرنا:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیج کر طلب فرمایا اور اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔

① صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ: ۱۳۹۹

② تاریخ الاسلامی ۸۵/۳

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ”جنگ یمانہ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور میں خوف کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جنگوں میں قرآن (قرآن کے عالم اور حافظ) شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، اَللّٰہِ یہ کہ تم اسے جمع کر لو اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع (اکٹھا) کریں۔“

”تب میں (ابو بکر) نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضرت نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اس میں بہتری ہے۔ چنانچہ یہ مجھے مسلسل آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے بھی حضرت عمر کی طرح اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ضروری سمجھا ہے۔“

(حضرت زید بن ثابت) کہتے ہیں کہ: ”اس موقع پر حضرت عمرؓ کے پاس خاموش بیٹھے رہے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: ”تو عقلمند نو جوان ہے، ہم تجھ پر کسی طرح کی بدگمانی نہیں کرتے اور تو حضرت نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والی وحی لکھتا رہتا تھا، لہذا تو قرآن کو تلاش کر اور اسے جمع کر دے، اللہ کی قسم اگر خلیفہ رسول مجھے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتا تو وہ کام مجھ پر اتنا گراں اور وزنی نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کا حکم بھاری اور وزنی تھا۔“

میں نے کہا:

”آپ وہ کام کس طرح کریں گے جسے حضرت نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا؟“
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: ”اللہ کی قسم! اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے مسلسل معذرت کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ

اور ابوبکرؓ کی طرح اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا۔
 چنانچہ میں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور قرآن کو تلاش کرنا شروع
 کر دیا۔ چنانچہ میں نے پرزوں، کندھے کی ہڈیوں، کھجور کے پٹھوں (پر لکھا ہوا) اور
 آدمیوں کے سینوں (یادداشت) سے قرآن کو جمع کیا۔ حتیٰ کہ مجھے ایک سورۃ کی دو
 آیتیں حضرت خزیمہؓ انصاری کے علاوہ کسی سے دستیاب نہ ہو سکیں وہ یہ ہیں۔
 ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ﴾ الخ ①



① بخاری کتاب التفسیر باب لقد جاء کم رسول من انفسکم حدیث : ۴۶۷۹

خلافت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

۱۳ھ تا ۲۳ھ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت دو سال تین مہینے جاری رہی، اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر گئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ اس منصب کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ موزوں ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ان کو بالنص خلیفہ نامزد کر دیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہو گئے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ^①۔ حضرت رسول مقبول ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق کی حیات مبارکہ کے بعد آپ کا دس (۱۰) سالہ دور خلافت مثالی اور سنہری دور تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی خون آشام جنگ کے ابتدائی مرحلے میں منصب خلافت پر فائز ہوئے، کیونکہ اس وقت مسلمان یرموک میں روم کی ٹڈی دل افواج سے برسرا پیکار تھے، اس معرکہ میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اور دمشق، حمص، قنسرین اور اجنادین فتح ہو گئے۔ بعد ازاں فتح بیت المقدس جیسی فتح مبین بھی حاصل ہو گئی اور مسلمان آزادانہ طور پر روم کی سرزمین پر گھومنے پھرنے لگے۔

اس کے بعد آپ نے عمرو بن العاص کو مصر کی مہم پر بھیج کر اسے فتح کر لیا اور سعد بن ابی وقاص کو مشرق میں ایران کے محاذ پر بھیج دیا۔ جہاں ان کے گھوڑوں نے ان کی سرزمین پامال کر دی اور انہیں بڑے خسارے میں مبتلا کر دیا۔ پھر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں معرکہ قادسیہ برپا ہوا اور یہ معرکہ فیصلہ کن معرکوں میں سے تھا۔

① اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور انہیں بھی راضی کر دیا۔

اس کے بعد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ المختصر حضرت عمرؓ بن خطاب کا دور خلافت، فتوحات کا انتہائی شاندار دور تھا۔

امیر المومنین سیدنا عمرؓ فاروق اپنے گورنروں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ ان کے متعلق لوگوں سے سوال کرتے اور ان کی خبروں سے مطلع رہتے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے گورنروں کی سی آئی ڈی پر مامور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی رات کو گشت کرتے اور مدینہ منورہ کے امن و امان کی انتہائی نگہداشت کرتے تھے۔ آپ نے امور خلافت میں مشورہ لینے کے لیے کبار صحابہ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ مدینہ ہی میں موجود رہیں (اور بغیر اجازت باہر نہ جائیں)۔^①

اور آپ نے اس قدر عدل و انصاف سے حکومت کی کہ کسریٰ ایران کے سفیر نے آپ کو مدینہ کے باہر کسی درخت کے نیچے سویا دیکھ کر کہا کہ: ”چونکہ تم عدل سے فیصلے کرتے ہو، اس لیے امن و اطمینان سے سو رہے ہو“ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا:

”تم میں سے کون شخص، سمندر کی موجوں کی طرح موجزن فتنے کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد رکھتا ہے؟

حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: ”امیر المومنین آپ کو اس سے کچھ نقصان نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند کیا ہوا دروازہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟

حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا: ”نہیں، بلکہ توڑ دیا جائے گا۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”پھر تو کبھی بند نہ ہوگا۔“
 حضرت حذیفہؓ نے کہا: ”ہاں کبھی بند نہیں ہوگا۔“
 حذیفہؓ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمرؓ دروازے کو جانتے تھے؟
 ”فرمایا: ”ہاں۔ میں نے انہیں ایسی حدیث بیان کی ہے جو غلط نہیں ہے۔“
 حذیفہؓ سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کونسا ہے؟
 فرمایا: ”عمر بن خطاب۔“

اس حدیث کو بخاری، مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔^①
 چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دروازہ تھے اور اس کا ٹوٹنا، آپ کا قتل ہونا تھا۔
 آپ کو ملعون ابو لؤلؤ مجوسی نے قتل کیا تھا۔ اللہ اس کو رسوا کرے اور اس پر لعنت
 برسائے۔

آپ کا سلسلہ نسب:

عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح
 بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر اور اسی فہر کو قریش کہا جاتا ہے۔^②

آپ کا اسلام:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نے اسلام قبول کیا تب سے ہم عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے لگے۔“^③

حضرت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی رفاقت:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

① صحیح بخاری کتاب الفتن، ۷۰۹۶، مسلم کتاب الایمان: ۲۳۱

② معرفة الصحابة ابو نعیم: ۱/۱۹۰

③ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابة۔ باب مناقب عمر: ۳۶۸۴

”جب حضرت عمرؓ کو (غسل دینے کے بعد) چار پائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور چار پائی اٹھانے سے پہلے ہی ان کے لیے دعا مانگنے لگے اور میں بھی ان میں شامل تھا کہ اچانک کسی آدمی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالبؓ تھے، انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا:

”آپ نے اپنے پیچھے کسی ایسے آدمی کو نہ چھوڑا کہ میں اس کے عمل کو آپ کے عمل سے بہتر اور محبوب سمجھ کر اس جیسے عمل کر کے اللہ کی ملاقات کروں (یعنی میں آپ کے اعمال کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں)۔ اللہ کی قسم میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، میں اکثر حضرت رسول مقبول ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ میں اور ابو بکر اور عمر نکلے.....“^①

آپ کے فضائل و مناقب

- 1- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ (محدث سے مراد وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نیکی کا الہام کرے)“^②
 - 2- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
- میں نے خواب میں جنت کے اندر ایک عورت کو ایک محل کے کونے میں وضو کرتے دیکھا تو میں نے پوچھا: ”یہ محل کس کا ہے؟“

① بخاری مناقب عمر: ۳۶۷۴

② بخاری فضائل صحابہ مناقب عمر: ۳۶۸۹۔ صحیح مسلم فضائل صحابہ: ۲۳

انہوں نے بتایا: ”عمر بن خطاب کا۔“

تو میں اس کی (عمر فاروقؓ) غیرت کو یاد کر کے واپس مڑ آیا۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ رو پڑے اور کہا: ”اے اللہ کے پیارے رسول! کیا یہ

ہوسکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں؟“^①

3- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کہ حضرت نبی اکرم ﷺ ایک

پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے تو وہ (خوشی

سے) حرکت کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے پاؤں کی ٹھوک مار کر فرمایا: ”اُحد

ٹھہر جا! تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔“^②

4- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”اللہ کے رسول ﷺ نے

حضرت عمرؓ سے فرمایا:

ابن خطاب! اللہ کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی راہ چلتے تیرا

شیطان سے ٹاکرا ہو جائے تو وہ تیرے والی گلی چھوڑ دیتا ہے۔“^③

امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے شاندار کارنامے

۱- فتح بیت المقدس:

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے کعب

احبار سے کہا کہ میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے

نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی طرف بڑھے پھر نماز پڑھی۔ بعد ازاں آپ نے چادر

① بخاری: ۳۶۸۰، مسلم فضائل الصحابہ: ۲۱

② بخاری مناقب عمر: ۳۶۸۶

③ بخاری مناقب عمر: ۳۶۸۳، مسلم فضائل الصحابہ: ۲۲

بچھا کر مسجد کی صفائی کی اور تنکے وغیرہ اپنی چادر میں ڈال دیئے اور لوگوں نے بھی صفائی میں حصہ لیا۔^① اور یہ ہجرت کے پندرہویں سال کا واقعہ ہے۔

۲۔ جزیرۃ العرب سے یہود کی جلا وطنی:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ کو ارض حجاز سے جلا وطن کر دیا تھا۔ کیونکہ جب حضرت رسول اللہ ﷺ نے خیبر فتح کیا تو یہود کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس وقت خیبر کی زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اس لیے آپ نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا پروگرام بنایا تو یہودیوں نے حضرت رسول مقبول ﷺ سے درخواست کی کہ انہیں اس زمین پر کام کے لیے برقرار رکھا جائے اور نصف پیداوار لے لی جائے، تو آپ نے فرمایا:

اچھا ہم اس وقت تک تمہیں اس زمین پر برقرار رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں، چنانچہ وہ وہاں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر نے انہیں تیماء اور اریحا کی طرف جلا وطن کر دیا۔^②

۳۔ مسجد نبوی کی تعمیر نو:

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد (از سر نو) تعمیر کی جائے اور (معمار) کو ہدایت کی کہ لوگوں کو بارش سے بچا^③ اور سرخ یا زرد (پینٹ یا نیل

① مسند احمد ۱/۳۸

② صحیح بخاری، کتاب الحرت والمزارعة: ۲۳۳۸

③ یعنی فقط اتنی تعمیر پر اکتفا کرنا جو لوگوں کو گرمی اور سردی سے بچا سکے۔ اور اکن کا معنی ہے تو چھپا دیکھنے نہایتی غریب الحدیث ۴/۱۲۰۶ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلوٰۃ میں جزم کے ساتھ تعلیقاً روایت کیا ہے

بوئے) نہ لگانا ورنہ تو لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دے گا۔“^①

۴۔ ہجری سن کا آغاز:

ابوالفضل احمد بن علی بن حجر فرماتے ہی کہ: ”ابونعیم فضل بن دکین اپنی تاریخ میں امام عامر شععی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ ہمارے پاس آپ کے خطوط آتے ہیں اور ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، تو بعض نے کہا: ”بعثت نبوی کے اعتبار سے تاریخ لکھا کرو اور بعض نے مشورہ دیا کہ ہجرت کے اعتبار سے تاریخ لکھو۔ آپ نے فرمایا: ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا، لہذا اسی کے اعتبار سے تاریخ ڈالا کرو اور یہ مشاورت ۷ اھ کو ہوئی تھی۔“^②



① بخاری کتاب الصلاة باب بنیان المسجد (تعلیقا)

افسوس صد افسوس کہ نام نہاد مسلمان آج کل اپنی مساجد میں وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مال کو تیل بوٹوں اور رنگ و روغن اور نرم و نازک نالیچوں پر خرچ کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہیں جبکہ رحمن کی خوشنودی کی خاطر ان میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم پر پیسہ صرف کرتے وقت حد درجہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

② فتح الباری ۳۱۵/۷

خلافت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

۲۳ ھ تا ۳۵ ھ

آپ کا نام و نسب:

آپ کا نام عثمان بن عفان تھا اور آپ ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی پشت سے تھے۔ عبد مناف سے آپ کا نسب حضرت نبی کریم ﷺ سے مل جاتا ہے۔

آپ کی ماں کا نام اروی بنت کریم بن ربیعہ تھا اور آپ کی نانی، حضرت رسول کریم ﷺ کی سگی پھوپھی، ام حکیم بنت عبدالمطلب تھیں۔^①

چونکہ حضرت نبی کریم ﷺ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا۔^②

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو عمر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔^③

اور آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر (ہمیشہ کے لیے) مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

شورای کا واقعہ:

جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (خنجر سے) زخمی کر دیئے گئے تو انہوں نے خلافت کا معاملہ چھ (۶) کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر چھوڑ دیا اور وہ یہ ہیں:

① معرفة الصحابة: ۱/۲۳۵

② معرفة الصحابة: ۲/۲۴۵

③ الاصابة: ۲/۴۵۵

(۱) عثمان بن عفان، (۲) علی بن ابی طالب، (۳) طلحہ بن عبید اللہ،
 (۴) زبیر بن عوام، (۵) عبدالرحمن بن عوف، (۶) سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہم)
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شوری کے واقعہ کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تاکہ ہم
 سب مسلمان اس حقیقت سے آگاہ رہیں کہ اسلام کی تاریخ ضائع نہیں ہوگی۔ یہ امام
 بخاری ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دو عظیم واقعات کو روایت کیا ہے۔ جب ہم کہتے
 ہیں کہ ہمیں واقعات کو پرکھنا چاہیے تو الحمد للہ ہم پرکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے
 واقعات کے متعلق صحیح روایات کا کھوج لگا سکتے ہیں۔

چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت عمر رضی اللہ عنہ کا طویل قصہ روایت کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ: ”اے امیر المؤمنین! آپ وصیت
 کر جائیں (یعنی کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔)

آپ نے فرمایا: ”میں اس منصب کے لیے اس گروہ سے زیادہ کسی اور کو
 حقدار نہیں سمجھتا، جس سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی رہے۔“
 اور آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت
 سعد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف (رضی اللہ عنہم) کا نام لیا۔

اور فرمایا: ”عبداللہ بن عمر تمہارے پاس موجود رہے گا لیکن اس منصب میں
 اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہوگا۔ اگر حضرت سعد کو خلافت مل جائے تو وہ اس کا اہل
 ہے ورنہ تم میں سے جو کوئی امیر بنے وہ اس سے تعاون حاصل کرے، کیونکہ میں نے
 اسے کسی خیانت اور کمزوری کی بنا پر معزول نہیں کیا تھا۔

چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو حضرت عبدالرحمن بن
 عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہمیں چاہئے کہ ہم میں تین آدمی اپنے میں سے تین آدمیوں
 کے حق میں اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہو جائیں۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔^①

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں حضرت عثمانؓ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔“
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔“

چنانچہ تینوں صحابہ کرام یعنی حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم دستبردار ہو گئے۔
اور تین صحابہ کرام خلافت کے لیے موزوں قرار دیئے گئے، حضرت علی بن ابوطالبؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ۔

حضرت عبدالرحمنؓ نے فرمایا: ”تم میں سے کون اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیں اور اسے اللہ اور اسلام کے حوالے سے کہیں کہ وہ (باقی دونوں میں سے) افضل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے، تو شیخین (عثمانؓ و علیؓ) خاموش ہو گئے۔“

تب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا: کیا تم اس فیصلے کو مجھ پر چھوڑتے ہو؟ اور اللہ گواہ ہے کہ میں تم میں سے افضل شخصیت کو نظر انداز نہ کروں گا۔

تو دونوں نے فرمایا: ہاں۔ (راوی) کہتے ہیں:

تب آپ نے ایک کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی حضرت رسول کریم ﷺ سے قرابت ہے اور آپ کو اسلام میں سبقت حاصل ہے۔ اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو انصاف کریں گے اور اگر عثمان کو بناؤں تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے؟

① یہ روایت اصل حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ حضرت زبیر، حضرت علی سے بغض رکھنے والوں میں سے نہ تھے اور ایسا کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے نیز آپ شوری خلافت کے دوران ان کی خلافت کے حق سے دستبردار ہوئے۔

پھر آپ حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بھی یہی عہد لیا۔
(کہ اگر میں علیؑ کو خلیفہ بناؤں تو تم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے؟)

جب آپ نے پختہ عہد لے لیا تو فرمایا:

اے عثمانؓ اپنا ہاتھ اٹھائیے چنانچہ، آپ نے ان کی بیعت کر لی اور
حضرت علیؑ نے بھی آپ کی بیعت کر لی پھر حویلی میں موجود سربراہ اور وہ حضرات
اس مجلس میں داخل ہو گئے اور آپ کی بیعت کرنے لگے۔^①

حضرت عثمان کی بیعت کے متعلق، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ علاوہ ازیں
صحیح میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ تین دن تک بیٹھ
کر مہاجرین اور انصار سے پوچھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:

”میں نے مہاجرین اور انصار کا کوئی ایسا گھر نہ چھوڑا، جس سے میں نے پوچھ
نہ لیا ہو۔ چنانچہ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔“

یعنی بیعت کا یہ کام پختہ عہد کے فوراً بعد نہ ہوا تھا بلکہ آپ اس کے بعد تین
دن تک مشاورت کے لیے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو منتخب فرمایا۔^②

افسوس ناک المیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کے متعلق تاریخ کی جدید
کتا میں، امام بخاریؒ کی اس روایت کو نظر انداز کر کے تاریخ طبری کی اس
روایت کو پیش کر رہی ہیں جسے ابوحنفہ جیسے کذاب راوی نے بیان کیا ہے۔ اس
روایت کی اصل عبارت (کا ترجمہ) یہ ہے۔

”جب حضرت عمر بن خطابؓ خنجر کے زخم سے نڈھال ہو گئے تو ان سے کہا گیا
کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیتے (تو اچھا ہوتا)

آپ نے فرمایا: ”میں کس کو خلیفہ نامزد کروں؟ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ

① صحیح بخاری = کتاب فضائل الصحابة - باب قصة البيعة : ۳۷۰۰

② صحیح بخاری = کتاب الاحکام: باب کیف يبایع الامام الناس: ۷۲۰۷

ہوتا تو میں اسے خلیفہ نامزد کر دیتا، اگر میرا رب مجھے پوچھتا تو میں کہتا کہ میں نے تیرے نبی ﷺ سے سنا تھا کہ وہ اس امت کا دیانت دار انسان ہے۔
 اور اگر سالم مولیٰ ابو حذیفہؓ زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ مقرر کر دیتا، اگر میرا رب مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا کہ میں نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ سالمؓ، اللہ کی خاطر شدید محبت کرنے والا ہے۔

ایک آدمی نے آپ ﷺ سے کہا، میں آپ کو عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق کہتا ہوں۔
 آپ نے فرمایا: ”اللہ تجھے غارت کرے، اللہ کی قسم، میرا تو اس کے متعلق اس قسم کا ارادہ بھی نہیں۔ تجھ پر افسوس، میں اس شخص کو کیسے نامزد کروں، جو اپنی بیوی کو طلاق دینے سے بھی عاجز ہے۔ ہمیں تمہارے امور کے متعلق کوئی سروکار نہیں۔
 میں اس (منصب خلافت) کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اس کی چاہت رکھوں۔ اگر یہ خیر ہے تو ہم نے اس سے حصہ لے لیا اور اگر شر ہے تو عمر کا مقدر بنی۔ آل عمر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کا محاسبہ ہو اور وہ امت محمد ﷺ کے معاملے میں سوال کیا جائے۔ البتہ میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی جدوجہد کی ہے اور اپنے گھرانے کو اس سے محروم کر چلا ہوں۔ اور میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ اگر میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے اجر ملے اور نہ مجھ پر بوجھ ہو، تو میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو مجھ سے بہتر انسان نے بھی خلیفہ نامزد کیا تھا اور اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ سے افضل (ترین) ہستی نے بھی کسی کو نامزد نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا۔

چنانچہ وہ نکل گئے پھر شام کو آئے اور عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین اگر آپ کسی کے متعلق عہد لے لیں تو (اچھا ہے)
 آپ نے فرمایا: میں نے تمہیں جواب دینے کے بعد پروگرام بنایا تھا کہ میں

غور کر کے اس آدمی کو نامزد کر دوں جو تمہیں حق پر چلانے کے لیے موزوں ترین شخص ہو اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔

اور مجھ پر غشی کا دورہ پڑا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے کاشت کیے ہوئے باغ میں داخل ہو کر ہر طرح کے تروتازہ اور پکے ہوئے پھل توڑ رہا ہے اور انہیں اکٹھا کر کے اپنے نیچے رکھ رہا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ اپنے فیصلہ پر غالب ہے اور وہ عمر کو فوت کرنے والا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں زندگی اور موت کے بعد کسی طرح کا بوجھ اٹھاؤں۔

یہ جماعت (تم میں موجود ہے) جس کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ ارشاد فرما گئے ہیں کہ یہ اہل جنت سے ہیں، ان میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بھی ہے۔ لیکن میں اسے شامل نہیں کرتا۔ باقی چھ ساتھی ہیں۔ ان میں علی اور عثمان (عبدمناف کے بیٹے) ہیں اور رسول کریم ﷺ کے ماموں حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور آپ کے حواری آپ کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام ہیں اور حضرت طلحہ الخیر بن عبید اللہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے میں ایک آدمی کو پسند کر لیں اور جب وہ کسی کو امیر منتخب کر لیں تو تم اچھی طرح اس کا ہاتھ بٹاؤ اور اس کی معاونت کرو۔ اور تم میں سے جس کسی کے پاس امانت رکھی دی جائے تو اسے چاہئے کہ امانت پوری کی پوری واپس کرے۔

چنانچہ وہ نکل گئے تو حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ سے کہا: ”تو ان کے ساتھ داخل نہ ہو۔“ آپ نے فرمایا: ”میں اختلاف سے ڈرتا ہوں۔“ تو حضرت عباسؓ نے کہا: ”پھر اس کا ایسا نتیجہ دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہوگا۔“

جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ: ”میں غور

کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم، لوگوں کے سربراہ اور سردار ہو اور یہ منصب امارت تم میں ہی رہنا مناسب ہے۔ کیونکہ جب حضرت رسول کریم ﷺ فوت ہوئے تھے تو وہ تم سے راضی تھے اور اگر تم راہ راست پر قائم رہے، تو مجھے تمہارے متعلق لوگوں کی مخالفت کا اندیشہ نہیں۔ لیکن مجھے خطرہ اس بات کا ہے اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے تو لوگ بھی مخالف ہو جائیں گے۔ تم حضرت عائشہ سے اجازت لے کر ان کے گھر بیٹھ جاؤ، اور باہمی مشورے سے ایک آدمی کو منتخب کرو۔

پھر آپ نے فرمایا: ”حضرت عائشہ کے حجرہ میں داخل نہ ہونا لیکن قریب بیٹھ جانا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر (بستر پر) رکھ لیا کیونکہ زخموں سے خون بہنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو چکے تھے۔

چنانچہ وہ داخل ہو گئے اور باہم سرگوشیاں کرنے لگے پھر ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا:

”سبحان اللہ! ابھی امیر المؤمنین فوت نہیں ہوئے، چنانچہ اس نے آپ کو آواز سنائی تو وہ بیدار ہو گئے اور فرمایا اس مجلس کو برخاست کرو، جب میں فوت ہو جاؤں تو تین دن مشورہ کرنا اور اس عرصہ میں حضرت صہیب لوگوں کو نماز پڑھائیں اور چوتھے دن کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تم میں سے کوئی آدمی تم پر امیر ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمرؓ مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے اور امارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، اگر وہ تین دن کے اندر آجائیں تو اسے مشاورت میں شریک کر لینا اور اگر اس کے آنے سے پہلے تین دن پورے ہو جائیں تو اپنا کام مکمل کر لینا۔ اور مجھے طلحہ کے متعلق کون ضمانت دے گا؟

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا

ہوں ان شاء اللہ وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی امید ہے کہ وہ مخالفت نہیں کریں گے ”ان شاء اللہ“ اور میرے خیال میں ان دونوں میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا۔ حضرت علیؑ یا حضرت عثمانؓ۔

اگر حضرت عثمان خلیفہ بنے وہ نرم خوانسان ہیں۔ اگر حضرت علی بنے تو ان میں خوش طبعی ہے اور ان کو حق پر چلانے کے لیے موزوں ہے۔ اگر تم سعد کو خلیفہ بنا لو وہ اس کا اہل ہے ورنہ نیا خلیفہ ان سے تعاون حاصل کرے۔ کیونکہ میں نے اسے خیانت اور کمزوری کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، اور عبدالرحمن بن عوف کس قدر دانشمند اور صائب الرائے ہے! اس پر اللہ کی طرف سے نگہبان ہے لہذا اس کی سنتے رہنا۔

اور حضرت ابو طلحہ انصاری سے کہا: اے ابو طلحہ اللہ نے عرصہ تک تمہارے ذریعے اسلام کو عزت بخشی تو انصار کے پچاس آدمی منتخب کر لے اور اس گروہ کو ترغیب دینا کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔

اور حضرت مقداد بن اسود سے کہا: کہ جب تم مجھے قبر میں رکھ لو، تو اس گروہ کو ایک گھر میں جمع کر لو تا کہ وہ اپنے میں سے ایک آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔

اور صہیب سے کہا: تین دن تک لوگوں کو نماز پڑھانا، اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ایک مکان میں داخل کر دینا، اگر طلحہ آجائے تو اسے بھی، اور عبداللہ بن عمر کو شریک کر لینا لیکن اس کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور ان کے سر پر کھڑے رہنا، اگر پانچ آدمی اتفاق سے ایک کو پسند کر لیں اور ایک آدمی انکار کرے تو تلوار سے اس کی گردن کاٹ دینا۔ اگر چار آدمی اتفاق سے کسی کو منتخب کر لیں اور دو آدمی اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دینا۔ اگر تین آدمی اپنے میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں اور دوسرے تین اپنے میں سے کسی ایک کو، تو عبداللہ بن عمر کو ثالث بنا کر ان سے فیصلہ کر لینا اور وہ جس فریق کے حق میں فیصلہ کریں وہ اپنے میں سے کسی

ایک کو منتخب کر لیں، اگر وہ عبد اللہ بن عمر کے فیصلہ سے راضی نہ ہوں تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہوں اور وہ ان اراکین کو قتل کر دیں جو تمام لوگوں کے منتخب امیر کو تسلیم نہ کریں۔^①

میں کہتا ہوں: سبحان اللہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گردنیں اڑانے کا حکم کیسے دے سکتے تھے؟

ان کے متعلق تو خود ہی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ ان سے راضی تھے۔ لہذا ابو مخنف کی خود ساختہ داستان کے جھوٹی ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے راضی تھے پھر اس حکم کو نافذ کرنے کی جرأت کون کرتا؟ اور کیا نافذ کرنے والا بچ جاتا؟

اس لیے اس روایت کے من گھڑت ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت عثمان پر اتفاق کر لیا اور ان کی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد آپ ہی افضل صحابی تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے بعد ابو بکر کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر کو اور ان کے بعد حضرت عثمان، پھر ہم باقی صحابہ کو چھوڑ دیتے اور ان کے درمیان فضیلت پر بحث نہ کیا کرتے تھے۔^② اور طبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ”کہ حضرت نبی کریم ﷺ ہماری ان باتوں کو سنتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔“^③

① تاریخ طبری: ۲۹۲/۳

② بخاری = کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان: ۳۶۹۷

③ طبرانی معجم کبیر ۱۲/۱۳۱۳۲، السنة للخلال ص: ۳۹۸، والسنة لابن ابی عاصم، ص: ۵۵۳ وقال الالبانی اسنادہ صحیح۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی بیعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے اہم ترین منصب کے لیے افضل ترین شخص کو خلیفہ بنایا۔^① اسی لیے حضرت امام ایوب رضی اللہ عنہ بن تمیمہ سختیانی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین پر فضیلت دی اس نے مہاجرین اور انصار کی توہین کی۔

کیونکہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف فرماتے ہیں کہ: ”میں نے انصار اور مہاجرین کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کسی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر سمجھتا ہو۔ وہ سارے کے سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہی افضل سمجھتے تھے۔ [رضی اللہ عنہ]

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت سرعام ہوئی تھی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی پختہ بیعت کسی کی نہ ہوئی کیونکہ اس پر سب کا اجماع ہو گیا تھا۔^②

آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبدشمس بن عبدمناف قریشی ہے۔ آپ نے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے شادی کی۔ جب وہ فوت ہوئی تو آنحضرت نے سیدہ رقیہ کی بہن سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں دے دی۔ اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی وہ بدعتی اور گمراہ ہے اور جس نے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی وہ خطا کار ہے اور اہل سنت اسے گمراہ نہیں کہتے اور نہ بدعتی کہتے ہیں۔^③

① السنة للخلال ۳۲۰

② السنة للخلال: ۳۲۰

③ اور چند اہل علم سے ایسے شخص کو بدعتی کہنا بھی منقول ہے کیونکہ اس نے صحابہ کرام کے حضرت عثمان کو پسند

کرنے پر اعتراض کیا۔ دیکھئے السنة للخلال ص: ۳۷۸

البتہ کچھ اہل علم حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دینے والے پر سخت
ریما رکس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ:

جس نے حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دی، اس نے گویا اصحاب
رسول پر خیانت کا الزام لگایا۔ کیونکہ انہوں نے (سیدنا علی المرتضیٰ کی بجائے)
سیدنا عثمان کو منتخب فرمایا تھا (رضی اللہ عنہما)۔^①

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عظیم الشان دور خلافت، فتوحات سے بھر ہوا تھا اور یہ
دور دس سال کے عرصے پر محیط ہے۔ انہی سالوں میں اسلامی حکومت کی بساط کا
پھیلاؤ مکمل ہوا۔ چنانچہ اسی دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اجازت
سے (یونانی جزیرہ) قبرص فتح کر لیا تھا۔ جبکہ حضرت عمرؓ نے بحری راستے سے غزوہ
کرنے سے روک دیا تھا اور آپ ہی کے دور خلافت میں آذربائیجان، آرمینیا،
کابل اور سجتان، جیسے بہت سے ممالک فتح ہوئے، ذات الصواری جیسا عظیم
غزوہ بھی آپ ہی کے دور میں ہوا۔ آپ نے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کی
، بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں سے اسلام کی سب سے زیادہ توسیع بھی آپ ہی
کے دور میں ہوئی تھی۔ (رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب

1- حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”جیش عسرة کے لیے چندہ
کی اپیل کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں ایک ہزار طلائی
دینار لے کر آئے اور انہیں حضرت رسول کریم ﷺ کی جھولی میں ڈال
دیا، تو آپ ﷺ انہیں الٹے پلٹتے اور بار بار فرماتے کہ: ”آج کے بعد

- عثمان بن عفان جیسا بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔^①
- 2- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: ”دروازہ کھول دو اور اسے ایک مصیبت کی بنا پر جنت کی بشارت دو۔“^②
- 3- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
- ”حضرت رسول کریم ﷺ کوہ اُحد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی تھے، تو وہ حرکت کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اُحد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔“^③
- 4- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:
- ایک روز حضرت رسول کریم ﷺ ہماری طرف نکلے اور فرمایا:
- ”کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ گویا مجھے مقالید اور ترازو دے دیئے گئے، مقالید سے مراد چابیاں ہیں۔ چنانچہ مجھے ایک پلڑے میں رکھ کر اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھک گیا۔ اس کے بعد ابو بکر کو اس پلڑے میں رکھ کر باقی امت سے تولا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھک گیا۔ پھر عمر کو اس پلڑے میں رکھ کر تولا گیا تو وہ پھر بھی جھک گیا۔ پھر عثمان کو لاکر تولا گیا تو وہ پلڑا پھر جھک گیا (اس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساری امت محمدیہ سے وزنی ثابت ہوئے)۔ اس کے بعد وہ ترازو اٹھا لیا گیا۔

① مسند احمد ۶۳/۵، ترمذی مناقب عثمان حدیث: ۳۷۰۱۔

② بخاری فضائل الصحابہ مناقب عثمان: ۳۶۹۵۔ مسلم۔ کتاب فضائل الصحابہ نمبر ۲۸

③ کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب عثمان: ۳۶۹۹

ایک آدمی نے کہا: ”ہم کہاں ہوئے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا تم وہاں ہو گئے جہاں اپنے آپ کو رکھو گے۔^①

حضرت رسول کریم ﷺ کی نبوت کی سچائی کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والے بلوے کی خبر دے دی تھی۔

5- حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو فتنوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے ان کا قرب بیان کیا تو ایک شخص منہ پر کپڑا لپیٹے گذرا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف جا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔“^②

6- حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے عثمان! اگر اللہ نے تجھے کسی روز اس منصب (خلافت) پر فائز کر دیا تو منافق تجھ سے، اس قمیص کو اتارنے کا ارادہ کریں گے، جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی۔ لہذا تم وہ قمیص نہ اتارنا۔^③

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد بارہ سال تک منصب خلافت پر فائز رہے، ستر سال کی عمر میں آپ نے منصب خلافت سنبھالا اور اپنی عمر کے بیسیویں سال میں آپ کو شہید کیا گیا۔ [رضی اللہ عنہ] آپ کی خلافت کے آخری سالوں میں آپ کے خلاف فتنہ برپا ہوا تھا۔

① ابن ابی عاصم السنۃ حدیث: ۱۱۳۸، احمد ۷۶/۲ و قال الالبانی حدیث صحیح۔

② سنن ترمذی مناقب عثمان ۳۷۰۴،

③ ابن ماجہ = المقدمة باسناد صحیح باب فضائل اصحاب النبی: ۹۷

فتنے کے اسباب کیا تھے؟

﴿..... پہلا سبب.....﴾

عبداللہ بن سہانامی یہودی اور یہ مرکزی سبب تھا۔^①

یہ ایک یمنی یہودی تھا اس نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ پھر اپنے آپ کو حضرت علیؑ کا شیعہ ظاہر کرنے لگا اور فرقہ سیدیہ یا سہانیہ اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس فرقے نے حضرت علیؑ کی الوہیت کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ جب انہیں حضرت علیؑ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپؑ سے کہنے لگے: تو وہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ”وہ کون؟“ کہنے لگے: ”تو اللہ ہے۔“

چنانچہ آپ نے اپنے غلام قنبر کو خندق کھدوانے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا اور فرمایا:

① عبداللہ بن سہا، واقعی کوئی سازشی انسان تھا یا فرضی کردار؟ متقدمین اس بات پر متفق ہیں کہ واقعتاً یہ سازشی شخص تھا، بلکہ انہوں نے شیعہ کے ایک فرقے کو عبداللہ بن سہا کی طرف منسوب بھی کیا ہے اور اس کا نام سیدیہ یا سہانیہ بتایا ہے اور اس کے خاص معتقدات بھی بیان کیے ہیں اور وہ معتقدات تشیع کے دائرے سے نہیں نکلتے۔ اس شخص کے کردار پر سب سے زیادہ پردہ ڈالنے والا، مرتضیٰ عسکری نامی شخص ہے، اس نے عبداللہ بن سہا واساطیر اُخریٰ نامی کتاب بھی لکھ ماری ہے۔ اس شخص کے کردار کا انکار کرنے والوں میں طہ حسین بھی شامل ہے، اس نے اپنی کتاب علیؑ و بنوہ وغیرہ میں اس کا انکار کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب الشعرا لجاہلی میں مسلمات اور یقینیات کے جھٹلانے کی طرح اس حقیقت کو جھٹلانے کے سوا کوئی علمی، تحقیقی دلیل پیش نہیں کی۔ اور پھر ہر چیز میں شک پیدا کرنا اس مصنف کا خاص مشغلہ ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ ۲۶ پر یہ کہہ کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے کعبہ تعمیر کرنے کا انکار کر دیا کہ قرآن ہمیں یہ بیان تو کرتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا (انا للہ وانا الیہ راجعون) رباعسکری طریقہ کار تو اس نے لوگوں پر حقیقت حال پوشیدہ کرنے کی کوشش کے لیے بزم خود تحقیقی انداز اپنایا اور اپنے اسلوب کے علمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اس نے ابن سہا کے متعلق احادیث اور روایات جمع کی ہے، لیکن وہ سب کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی تلمیذ درج ذیل وجوہ سے باطل ہے۔

1۔ بہت سے شیعہ محدثین اور مؤرخین اور ان کے مقالات کے جامعین نے اپنی کتابوں میں اسے ثابت کیا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا
أَجَجْتُ نَارِي وَ دَعَوْتُ قَنْبَرًا ①

اور آپ نے فرمایا: ”جس نے اس قول سے رجوع نہ کیا میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ان میں سے کافی سارے سبائی جلا ڈالے اور باقی وہاں سے بھاگ گئے اور ان میں ابن سبأ بھی تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

اور ابن سبأ نے وصی اور رجعت اور اس جیسے دیگر یہودیانہ عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ امامت ایک ہی گھرانے کا حق ہے اور اس نے بدویوں کے ہاں حضرت عثمانؓ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمانؓ نے یہ کیا، وہ کیا۔

نو بختی نے اپنی کتاب فرق الشیعہ میں ابن سبأ کے متعلق اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس فرقہ کا نام سیدیہ ہے یعنی اصحاب عبداللہ بن سبأ دیکھئے فرق الشیعہ ص: ۲۳۔ اور نو بختی تیسری صدی ہجری میں فوت ہوا۔
اکشی نے اپنی کتاب رجال الشیعہ میں ابو جعفرؑ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبأ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنینؑ ہی اللہ تھا (لعنہ اللہ) علاوہ ازیں اس نے جعفر الصادقؑ سے ابن سبأ کے ذکر میں پانچ سے زائد روایات روایت کی ہیں۔

- ② الصدوق نے اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ ص: ۹۵۵۔ میں اس کا ذکر کیا ہے
- ③ الطوسی نے اپنی کتاب رجال طوسی، ص: ۱۰۔ میں اس کا ذکر کیا ہے
- ④ باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار ص: ۲۱۰/۵۱-۱۴۶/۴۲۔ میں اس کے تذکرے کیے ہیں۔
- ⑤ النور الطبری نے اپنی کتاب مستدرک [۱۶۹/۱۸] میں اس کا ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں اور بہت سے مؤلفین نے بھی عبداللہ بن سبأ کا ذکر کیا ہے لیکن میں نے طوالت کی وجہ سے عمداً چھوڑ دیا ہے۔
- 2- رہے اہل سنت تو ان میں سے جس کسی نے بھی اس عرصے کی تاریخ لکھی اس نے اس کے کردار کا ذکر کیا ہے۔
- 3- جس کسی نے بھی ابن سبأ کے وجود کا انکار کیا ہے اس نے محض کھوکھلا دعویٰ ہی کیا ہے اور کوئی نئی بات نہیں کی۔
- 4- ابن سبأ کے وجود کا انکار کر نیوالے متاخرین شیعہ ہیں یا پھر ان سے متاثر ہونے والے سنی رائٹر جنہیں شیعہ کی تلمیح کا علم ہی نہیں۔

① اس قصے کا اصل بخاری شریف میں ہے دیکھئے کتاب استتابة المرتدین باب اثم من اشرك ۲۹۲۲، حافظ ابن حجر نے اس قصے کی تفصیل بیان کی ہے اور فرمایا ہم نے اسے ابوطاہر المخلص کی سند سے تیسری جلد میں بیان کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔

اس طرح اس لعین نے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے اور اس کے ہمنواؤں نے حضرت زبیر، علی، طلحہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کے نام کی جعلی مہریں لگا کر ان کی طرف سے (مختلف علاقوں کے عوام کی طرف) جعلی خطوط لکھے جن میں حضرت عثمان پر تنقید اور ان کی سیاست سے بیزاری کا اظہار ہوتا۔

اس دور میں آج کل کی طرح ماڈرن آلات تو ہوتے نہ تھے کہ ان کے ذریعے تصدیق کی جاتی اور جن کو خطوط پڑھ کر سنائے جاتے وہ دیہاتی لوگ تھے۔ ان کے پاس جیسی تیسری خبریں پہنچتیں وہ ان کی تصدیق کرتے اور انہیں قبول کر لیتے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا:

”تم نے حضرت عثمان کو میل کچیل سے صاف کیے ہوئے کپڑے کی طرح (معصوم) چھوڑا پھر تم نے اسے قریب کیا اور اسے یوں ذبح کیا جیسے مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔“
حضرت مسروق نے جواب دیا کہ: ”یہ آپ کا کیا دھرا ہے، آپ ہی نے لوگوں کی طرف خطوط لکھے اور لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم دیا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم جس پر مومنین ایمان لائے اور کافروں نے کفر کیا میں نے ان کی طرف سرے سے کوئی تحریر لکھی ہی نہیں۔ میں نے آج کی اس مجلس تک ان کی طرف سفید چیز پر کوئی سیاہ چیز نہیں لکھی۔“

حضرت سلیمان بن مہران اعمش فرماتے ہیں کہ (تابعین کرام) سمجھتے تھے کہ ملعون ابن سبائے ام المومنین کے اسلوب (تحریر) پر سازشی خطوط لکھے تھے۔“
(امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ: ”اس اثر کی سند صحیح ہے۔“)^①

اس طرح کے تمام خطوط جو صحابہ رسول ﷺ کے نام سے ان (صوبوں، فوجی

چھاؤنیوں اور بدوی علاقوں کے لوگوں) کی طرف لکھے جاتے تھے، ان میں حضرت عثمان بن عفان کی مذمت کی جاتی تھی اور عبداللہ بن سبا یہودی کے مختلف صوبوں میں ایجنٹ بھی تھے اور وہ اپنے صوبوں سے اس طرح کے جعلی خطوط بھیجتے، اور یہ بھی ان کی طرف اس طرح کے خطوط بھیجتا، اور وہ باہم ایک دوسرے کی طرف بھی اس طرح کے خطوط لکھتے، کہ فلاں گورنر نے حضرت عثمان کے حکم سے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور فلاں گورنر نے اس کے حکم سے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ چنانچہ ہم عثمان کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، عثمان نے اصحاب محمد کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہمارے پاس حضرت زبیر کا خط آیا۔ ہمارے پاس حضرت علی کا خط آیا اور ہمارے پاس حضرت عائشہ کا خط آیا ہے۔ ہمارے پاس فلاں کا خط آیا ہے۔ چنانچہ وہ بدوی اور دیہاتی جو اللہ کے دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور ان کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ [رضی اللہ عنہ]



حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں امت مسلمہ کی خوشحالی:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خوش حالی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: ”شاید ہی لوگوں پر کوئی ایسا دن آیا ہو جس میں وہ مال تقسیم نہ کر رہے ہوں اور یہ صدانہ آ رہی ہو کہ:

”اللہ کے بندو آؤ اور اپنے اپنے حصے کا شہد لے جاؤ، اللہ کے بندو آؤ، اپنے اپنے حصے کا مال لے جاؤ۔“^①

اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چاروں طرف جہاد جاری تھا اور خوشحالی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نامقبولیت اور ناراضی اور نازک مزاجی

① تحقیق مواقف الصحابه ۳۶۰/۱

کا خوگر بنا دیتی ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اس طرح کے عوائل کا سبب بنتی ہے۔

﴿.....تیسرا سبب.....﴾

امیر المؤمنین عثمانؓ، اور امیر المؤمنین عمرؓ فاروق کی طبع میں تفاوت:

امیر المؤمنین سیدنا عمرؓ فاروق رضی اللہ عنہ سخت گیر انسان تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے بردبار اور نرم دل انسان تھے۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپؓ کمزور آدمی تھے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں بلکہ آپؓ حلیم الطبع تھے۔ اسی بنا پر جب سبائیوں نے آپؓ کا گھر میں محاصرہ کیا تو آپؓ نے فرمایا:

تم جانتے ہو کہ تمہیں کس چیز نے میرے اوپر جرأت دلائی؟

تمہیں میرے حلم نے ہی مجھ پر چڑھائی کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔^①

اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ: ”اللہ کی قسم جن کاموں کی وجہ سے وہ حضرت عثمانؓ سے رنجیدہ ہوئے اگر وہی کام حضرت عمرؓ کرتے تو کوئی نہ بولتا۔

تو پھر وہ لوگ حضرت عثمانؓ پر حرف گیر کیوں ہوئے؟

کیونکہ حضرت عثمانؓ درگزر کرتے تھے اور ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کر کے معاف کر دیا کرتے تھے۔

﴿.....چوتھا سبب.....﴾

بعض قبائل کا قریش کی حکومت کو بوجھل سمجھنا:

اسلام میں داخل ہونے والے چند عرب قبائل اس بات سے نالاں تھے کہ حکومت ہمیشہ قریش کے پاس رہے۔ ان میں خاص طور پر وہ قبائل شامل تھے جن

میں سے کچھ افراد دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، پھر وہ زبردست لڑائی کے بعد تلوار کی قوت سے خائف ہو کر طوعاً و کرہاً اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اسلام کی طرف لوٹ تو آئے لیکن ان کے دل میں قلق تھا اور یہی لوگ اس بات سے نالاں اور رنجیدہ تھے کہ حکومت ہمیشہ سے قریش کے ہاتھ میں کیوں چلی آ رہی ہے اور قریش کے پاس حکومت ہمیشہ کیوں رہے؟

چنانچہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ:

”بعض عربی قبائل، قریش میں حکومت رہنے سے ناخوش تھے اور ان کے دل ان کے خلاف نفرت سے بھر چکے تھے۔ اس لیے وہ گورنروں پر معترض رہتے اور ان کی عیب گیری میں لگے رہتے۔ جب انہوں نے حضرت عثمان میں نرمی دیکھی تو چڑھ دوڑے۔“

یہ ہیں وہ اہم اور بنیادی اسباب، جو فتنے کا باعث بنے، ان کے علاوہ کچھ دیگر اسباب بھی تھے لیکن میں طوالت کے خوف سے انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات

اب میں اختصار کے ساتھ ان اعتراضات کا تذکرہ کرتا ہوں جو حضرت عثمان کی حکومت پر کیے گئے تھے، پھر ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ ان کا جائزہ لوں گا۔

پہلا اعتراض: انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر تعینات کیا۔

دوسرا اعتراض: انہوں نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو ربذہ کی طرف جلا وطن کیا۔

تیسرا اعتراض: انہوں نے مروان بن حکم کو افریقہ کا خمس دیا۔

چوتھا اعتراض: انہوں نے مصاحف جلا دیئے اور لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کیا۔

پانچواں اعتراض: انہوں نے عبداللہ بن مسعودؓ کو اتنا مارا کہ ان کی انتڑیاں پھٹ گئیں اور حضرت عمار بن یاسرؓ کو اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔

- چھٹا اعتراض: انہوں نے چراگاہ وسیع کر دی۔
- ساتواں اعتراض: انہوں نے سفر میں پوری نماز ادا کی۔
- آٹھواں اعتراض: وہ غزوہٴ اُحد کے دن میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔
- نانواں اعتراض: وہ غزوہٴ بدر میں حاضر نہ تھے۔
- دسواں اعتراض: وہ بیعت رضوان میں شریک نہ ہوئے تھے۔
- گیارہواں اعتراض: انہوں نے ہرمزان کے بدلے میں عبید اللہ بن عمر کو قتل نہ کیا۔
- بارہواں اعتراض: انہوں نے جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا جبکہ نبی کریم ﷺ اور شیخین کے دور خلافت میں صرف ایک اذان ہوتی تھی۔
- تیرہواں اعتراض: حضرت نبی کریم ﷺ نے مروان کے والد حکم بن العاص کو جلا وطن کیا تھا اور انہوں نے واپس بلا لیا۔

علاوہ ازیں دیگر اعتراضات بھی کیے مثلاً وہ منبر پر حضرت نبی کریم ﷺ والی سیڑھی پر چڑھے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ پہلی سیڑھی پر خطبہ دیتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو وہ دوسری پر اتر آئے اور جب حضرت عمر آئے تو وہ تیسری پر اتر آئے۔ اور جب حضرت عثمان کا دور آیا تو وہ پہلی سیڑھی پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے اور آج تک یہی طور طریقہ چلا آ رہا ہے۔^①

① متوکل علی اللہ عباسی نے ایک دفع اپنے ہم نشینوں کے سامنے حضرت عثمان پر سبائیوں کے چند اعتراضات بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق منبر نبوی پر خطبہ دیتے تو حضرت نبی کریم ﷺ والی سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ابو بکر والی سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر خطبہ ارشاد فرماتے جب حضرت عثمان آئے تو انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ والی سیڑھی پر خطبہ دینا شروع کر دیا تھا، تو اس کے ہمنشین عباد نے یہ سن کر کہا، اے امیر المؤمنین! حضرت عثمان سے بڑھ کر اور کوئی آپ کا محسن نہیں ہو سکتا! اس نے کہا وہ کیسے؟ تیرے لیے خرابی ہو! اس نے کہا اگر شیخین کی طرح ہر غلیفہ نیچے اترتا رہتا تو آج آپ نے ہمیں کنوئیں میں کھڑے ہو کر خطبہ دینا تھا! یہ سن کر متوکل علی اللہ اور سارے درباری کھلکھلا کر ہنس دیئے۔ بحوالہ ایقاظ اولی الہمم العالیہں: ۳۰۰ مولفہ عبدالعزیز محمد سلمان (مترجم)

اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق درہ لگاتے تھے لیکن انہوں کے کوڑا لگانا شروع کر دیا۔

اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپؐ نے صحابی رسولؐ حضرت ابو درداءؓ کو تکلیف دی۔ علاوہ ازیں دیگر اعتراضات بھی جن میں سے اکثر تو ان پر جھوٹ اور باقی غلط فہمی پر مبنی تھے اور لیجئے اب ان کا تفصیلی جائزہ۔

حضرت عثمانؓ پر اعتراضات کا تفصیلی جائزہ

پہلا اعتراض: قرابت داروں کو حاکم بنانا:

حضرت عثمانؓ نے اپنے کون سے قرابتی رشتہ داروں کو حاکم مقرر کیا؟ حضرت عثمانؓ نے اپنے جن رشتہ داروں کو حاکم مقرر کیا۔ ان میں سے پہلے حاکم حضرت معاویہؓ، دوسرے عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، تیسرے ولید بن عقبہ، چوتھے سعید بن العاص، پانچویں عبداللہ بن عامر یہ پانچ حاکم تھے اور یہ آپ کے قرابتی رشتہ داروں میں سے تھے۔

اور ان کے خیال میں ان کا تقرر حضرت عثمانؓ پر اقربا پروری کا دھبہ ہے، اس لیے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے دیگر حاکم کون کون سے تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟

اور وہ تھے (۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری، (۲) قعقاع بن عمرو، (۳) جابر مزنی، (۴) حبیب بن مسلمہ، (۵) عبدالرحمن بن خالد بن ولید، (۶) ابوالاعور سلمی، (۷) حکیم بن سلامہ، (۸) اشعث بن قیس، (۹) جریر بن عبداللہ بکلی، (۱۰) عتبیبہ بن نھاس، (۱۱) مالک بن حبیب، (۱۲) نسیر عجلی، (۱۳) سائب بن اقرع، (۱۴) سعید بن قیس، (۱۵) سلمان بن ربیعہ، (۱۶) خنیس بن حیش۔

یہ تھے حضرت عثمانؓ کے غیر اموی گورنر، اگر ہم ان میں امویوں کو شامل

کریں تو ان کی تعداد اکیس بنتی ہے۔

کیا ان میں سے بنی امیہ کے پانچ حاکموں کا مستحق ولایت ہونا صحیح نہیں؟
جو کہ کل حاکموں کا ایک چوتھائی بھی نہیں بنتے۔۔

جبکہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ اور ان کی
بہ نسبت بنو امیہ کو زیادہ تر حاکم مقرر کرتے تھے۔

مزید برآں یہ کہ یہ پانچ اموی حاکم بیک وقت (مختلف صوبوں پر) تعینات
نہ تھے، بلکہ حضرت عثمانؓ نے ولید بن عقبہ اموی کو حاکم بنایا پھر اسے معزول کر کے
اس کی جگہ سعید بن العاص اموی کو مقرر کیا تو یہ ایک وقت میں پانچ تو نہ ہوئے۔

علاوہ ازیں حضرت عثمانؓ اپنی شہادت سے قبل سعید بن العاص کو بھی
معزول کر چکے تھے تو گویا جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بنو امیہ میں سے فقط تین
حاکم تھے۔ ایک حضرت معاویہؓ، دوسرے عبداللہ بن سعد اور تیسرے عبداللہ بن عامر۔
حضرت عثمانؓ نے ولید بن عقبہ اور سعید بن العاص کو معزول کر دیا لیکن
ان کو کہاں سے معزول کیا؟ کوفہ سے۔

وہ کوفہ کہ جس سے حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کیا
تھا۔ اس کوفہ سے کہ جو کسی حاکم سے کبھی خوش نہ رہا۔

اس بنا پر حضرت عثمانؓ کا ان حاکموں کو معزول کرنا ان میں کسی عیب کا سبب نہ قرار
دیا جائے گا بلکہ یہ اس شہر کا عیب سمجھا جائے گا جس پر انہیں حاکم مقرر کیا گیا۔ (آٹھویں
صدی کے مجدد اور شہرہ آفاق مصلح) شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

کہ ہمارے علم کے مطابق قریش کے کسی قبیلہ سے حضرت نبی کریم ﷺ کے
اتنے حاکم نہ تھے جتنے بنو امیہ سے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے
اور ان میں شرافت اور سرداری اور معاملات کو سلجھانے کی خوبیاں بھی نسبتاً زیادہ تھیں۔^①

اور جن اموی حاکموں کو حضرت رسول کریم ﷺ نے (مختلف صوبوں پر) حاکم مقرر کیا تھا وہ تھے (۱) عتاب بن اسید اموی، (۲) ابوسفیان بن حرب اموی، (۳) خالد بن سعید اموی، (۴) عثمان بن سعید اموی، (۵) ابان بن سعید اموی۔ یہ پانچ حاکم تھے اور ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی حضرت عثمانؓ کے اموی حاکموں کی تھی حالانکہ دور نبوی کی نسبت دور عثمانی میں مملکت اسلامی کی وسعت اور صوبوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حاکموں نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا یا نہیں؟ عنقریب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان حاکموں کی کارگردگی اور اہلیت کے متعلق، اہل علم کی شہادتیں بیان کی جائیں گی۔

البتہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کو حاکم مقرر کیا^① اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا اور ہم بھی اعتراض نہیں کرتے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے رشتہ داروں کو حاکم بنانے پر دو قسم کے شخص معترض ہیں۔ سنی یا شیعہ۔

شیعی کو تو یہ جواب دیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاکم بنایا۔ اس لیے معاملہ برابر ہوا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاکم بنانا قابل اعتراض ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاکم بنانا بھی قابل اعتراض ہے اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیوں؟

بلکہ جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حاکم مقرر کیا تھا، وہ سب کے سب ان حاکموں سے افضل تھے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاکم بنایا۔ سوائے حضرت ابن عباس کے۔ (رضی اللہ عنہ)

① حضرت علیؓ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباسؓ، عبید اللہ بن عباسؓ، قثم بن عباسؓ، تمام بن عباسؓ اور اپنے ریب بنیہ محمد بن ابوبکر کو حاکم مقرر کیا تھا۔ دیکھئے تاریخ خلیفہ بن خیاط: ۲۰۰ تا ۲۰۱

اور اگر حضرت عثمان پر اعتراض کرنے والا سنی ہے تو ہم اسے جواب دیں گے کہ: آپ اپنے اعتراض کی بنا پر دو باتوں میں سے کسی ایک بات اعتراض کریں گے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان نے ان کو اس بنا پر حاکم بنایا کہ..... وہ ان کے رشتہ دار تھے جبکہ وہ گورنری کے لائق نہ تھے۔

اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان انہیں گورنری کے اہل سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو گورنر بنایا۔

اور اصل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ اس کے بعد ہم ان گورنروں کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حاکم (گورنر) بنایا تھا۔ تو آئیے ہم، ان حاکموں کے متعلق اہل علم کے اقوال ملاحظہ کریں۔ پہلے حاکم، حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہترین حاکم ہونے میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں۔ بلکہ اہل شام ان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ [رضی اللہ عنہ] امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں یہاں کا حاکم مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا اور دیگر صوبے بھی ان کی امارت کے ماتحت کر دیئے۔ علاوہ ازیں آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے کاتب بھی تھے اور بہترین حاکم بھی۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« خَيْرُ أئِمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ » ①

”کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت

کریں اور تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں۔“
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی (مقبول ترین) حاکم تھے۔

دوسرا حاکم، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی السرح:

یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، پھر یہ مرتد ہو کر میلہ کذاب کے ساتھ مل گیا۔ بعد ازاں توبہ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی:

”کہ اے اللہ کے پیارے رسول اس سے بیعت لے لیجئے یہ توبہ کر کے آیا ہے، لیکن آپ نے بیعت نہ لی۔ حضرت عثمان نے پھر درخواست کی، آپ نے پھر بھی بیعت نہ لی۔ حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ پھر درخواست کی تو آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔“^①

چنانچہ اس نے اپنے طرز عمل سے رجوع کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا۔ اور اسی کے ہاتھوں افریقہ فتح ہوا۔ اس کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں:

”اس نے نہ تو حدود سے تجاوز کیا اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس پر گرفت کی جا

نوٹ = طبقات حنابلہ جلد دوم صفحہ: ۱۶۵ پر شہرہ آفاق محدث اور زاہد امام ابو اسحاق ابراہیم بغدادی حربی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے درج ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے پر مندرجہ ذیل احادیث اور آثار سے استدلال فرمایا کہ:

حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ:

”اے اللہ! معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا۔“

اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عذاب سے بچ گئے ہیں تو پھر وہ

جنت میں ہیں۔ [مترجم] (طبقات حنابلہ جلد دوم ص ۱۶۵)

① ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم من ارد: ۴۳۵۹

سکے اور یہ گورنر بڑا دریا دل اور عقلمند انسان ثابت ہوا۔ افریقہ میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں وہ ساری کی ساری اسی کے ہاتھ پر ہوئیں۔ [رضی اللہ عنہ]

تیسرے حاکم، سعید بن العاص اموی

یہ حضرت رسول کریم ﷺ کے برگزیدہ اور پسندیدہ صحابہ میں تھے۔ ان کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”كَانَ أَمِيرًا شَرِيفًا جَوَادًا مَمْدُوحًا حَلِيمًا وَ قُورًا ذَا حَزْمٍ وَ عَقْلٍ
يَصْلُحُ لِلْخَلَاةِ“^①

”کہ یہ بڑا عزت دار اور دریا دل، ہر دل عزیز، بردبار، باوقار اور مستقل مزاج اور عقلمند امیر تھا۔ اور خلافت کے لیے موزوں تھا۔“^②

چوتھے حاکم، عبداللہ بن عامر بن کریز :

انہوں نے کسرائے ایران کے مقبوضات اور خراسان کو فتح کیا۔ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسی کے ہاتھ پر مملکت فارس کی فتح مکمل ہوئی اور انہوں نے بھتان اور کرمان وغیرہ علاقوں کو فتح کیا۔ ان کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

① سیر اعلام النبلاء: ۳/۴۴۵

② حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم العرب قرار دیا تھا حالانکہ یہ اس وقت نو سال کے بچے تھے، یہ بڑے دریا دل اور فیاض انسان تھے، سائل کو خالی نہ لوٹاتے اگرچہ قرض اٹھا کر دینا پڑتا، ان کی اسی روش کی وجہ سے ان پر اسی ہزار دینار قرض چڑھ گیا، جوان کے بیٹے نے ان کی وفات کے بعد ادا کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور ایک لاکھ درہم حق مہر وصول بھی کر لیا تھا اور حضرت حسن بن علی ان کے ولی بننے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن آپ نے حضرت حسین بن علی کی پاسداری کرتے ہوئے نکاح سے معذرت کر لی، کیونکہ وہ اپنی اس بہن کا نکاح اپنے عم زاد سے کرنا چاہتے تھے البتہ آپ نے حق مہر کی رقم واپس نہ لی۔ (تاریخ اسلام امام ذہبی) [مترجم]

”كَانَ مِنْ كِبَارِ أَمْرَاءِ الْعَرَبِ وَ شُجْعَانِهِمْ وَ أَجْوَادِهِمْ“^①
 ”کہ یہ عرب کے بڑے دولت مند اور دلیر ترین اور سخی انسانوں میں سے تھا۔“

پانچویں حاکم، ولید بن عقبہ:

امام عامر بن شراحیل شعمی رضی اللہ عنہ کے پاس، حبیب بن مسلمہ اور ان کے
 جہاد اور ان کی فتوحات کا تذکرہ ہونے لگا، تو انہوں نے فرمایا:

”کاش کہ تم ولید اور اس کے غزوات اور امارت کا دور پالیتے۔“

ولید بن عقبہ، پانچ سال تک کوفے پر امیر رہے اور باوجود امیر ہونے کے
 ان کے گھر پر کوئی دروازہ نہ تھا، جس کا جی چاہتا وہ اس کے پاس جاتا اور گفتگو کرتا
 اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن کوفہ والوں کی تلون مزاجی مشہور ہے۔ ولید
 بن عقبہ پر دو چیزوں کا الزام لگایا جاتا ہے۔

پہلا الزام تو یہ ہے کہ مفسرین کے بقول اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان
 نازل ہوا ہے۔

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
 بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ۶]

”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی قسم کی خبر لائے تو اس کی
 تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بغیر تحقیق کیے (غلط فہمی میں) نقصان

① سیرا اعلام النبلاء ۲/۳

نوٹ = حضرت عبداللہ بن عامر باپ کی طرف سے اموی اور ماں کی طرف سے ہاشمی تھے، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو
 انہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ نے اپنا لب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا، یہ
 غٹ عٹ کر کے نوش کرنے لگے، آپ نے فرمایا: ”اے امویو! تمہارا یہ بچہ تمہاری بہ نسبت ہم سے زیادہ مشابہ
 ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسے سیرابی نصیب ہوگی۔ یہ صحابی بڑا بہادر اور سخی انسان تھا، ایک دفعہ ایک سائل نے
 ان سے دوائی کے طور پر چند روز کے لیے گائے کا دودھ مانگا، تو انہوں نے اسے سات سو گائیں بہہ کر دی
 تھیں۔ [اصابہ منہاج القاصدین] (مترجم)

پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانا بیٹھ جاؤ۔“

تفاسیر میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت نبی کریم ﷺ نے ولید بن عقبہ کو بنی مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ ان کی طرف گیا تو انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا اور حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف لوٹ آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول:

وہ تو میرے قتل کے ارادے سے آ رہے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ بڑے غضبناک ہوئے اور خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجنا چاہا، یا بھیج بھی دیا۔ بعد ازاں آپ ﷺ کو خبروں کی تحقیق اور چھان بین کر لینے کا حکم دیا گیا تو اس سلسلے میں اللہ کا فرمان نازل ہوا:

”کہ اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی قسم کی خبر لائے تو اس کی

تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بغیر تحقیق کے نقصان پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے

کیے پر پچھتانا بیٹھ جاؤ۔“

جب صحابہ نے چھان بین کی تو انہوں نے کہا: ”ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صدقات لے کر آئے تھے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا نمائندہ لیٹ ہو گیا تھا۔

دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ نشے کی حالت میں فجر کی نماز پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے فجر کی چار رکعات پڑھا کر سلام پھیرا اور کہا، اور پڑھاؤں؟

انہوں نے اس سے کہا کہ تم تو اتنے دنوں سے زیادہ پڑھا رہے ہو، پھر لوگ حضرت عثمان کی طرف گئے اور ان کی شکایت کی، تو حضرت عثمان نے ان کو شراب نوشی کی حد لگائی۔^①

مقصد یہ ہے کہ ولید بن عقبہ پر دو الزام لگائے گئے۔ پہلا الزام تو مفسرین کے ہاں مشہور ہے اور مسند احمد میں حسن سند سے مروی بھی ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے قصے میں نازل ہوئی۔^② لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ولید ہی فاسق

① مسلم کتاب الحدود نمبر ۳۸،

② احمد: ۲۷۹/۴

ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو عام حکم دیا ہے کہ وہ خبر لانے والے کی تحقیق کر لیا کریں (نہ خاص ولید بن عقبہ کی خبر کی)

اور اگر اللہ نے انہیں فاسق کہا تھا تو کیا وہ ساری عمر فاسق رہا؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ۴]

”اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر (اس الزام کی صداقت پر)

چار گواہ پیش نہ کریں تو انہیں اسی (۸۰) دڑے لگائے جائیں۔ اور آئندہ کبھی

ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔“ پھر فرمایا:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

”مگر وہ لوگ بعد ازیں توبہ کر لیں اور اصلاح کا رویہ اختیار کر لیں تو یقیناً اللہ

معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی

تو کیا اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ جبکہ اس کی زندگی قابل رشک تھی۔

رہا شراب نوشی کا معاملہ! تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے

تاہم صحیح حدیث کی تکذیب بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں شراب نوشی کی حد ضرور لگائی

گئی جیسے کہ بخاری و مسلم میں منقول ہے لیکن کیا اس کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ

اس نے شراب پی تھی؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔

(ان کو حد لگانے کا واقعہ اس طرح ہے) کہ جب ولید بن عقبہ کوفہ کے گورنر تھے

تو دوفوفی، کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کے سامنے

یہ بات کہی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو نشے کی حالت میں نماز فجر پڑھاتے دیکھا ہے۔

ایک نے کہا کہ: ”میں نے اسے نشے میں دیکھا۔“ اور دوسرے نے کہا: ”میں نے اسے قے کرتے دیکھا۔“

حضرت عثمان نے فرمایا: ”اس نے قے کی ہے تو شراب پینے کے بعد ہی کی ہے۔“ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن بن علی اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے، تو حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو حد لگوائی اور پھر کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا۔

لیکن کچھ اہل علم نے ان گواہوں کی گواہی مشکوک قرار دی ہے۔ حد والا واقعہ تو صحیح ہے کیونکہ وہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لیکن کیا دونوں کو فی گواہ سچے تھے یا نہیں؟ جو کوئی اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث پڑھنا چاہتا ہے اسے محبت الدین الخطیب کے حاشیے والی کتاب العواصم من القواصم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے ان کو فی گواہوں پر جرح کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کو فی ثقہ گواہ نہیں تھے (بلکہ محض سازشی تھے۔) ^①

اگر ان کی گواہی سچی بھی ہو تو حضرت عثمان پر کوئی گرفت نہیں، ان کے سامنے شراب نوشی کی گواہی پیش ہوئی تو انہوں نے اسے حد لگوا کر معزول کر دیا، کیا حضرت عثمان نے غلطی کی؟ نہیں، بلکہ عین انصاف کیا۔

عثمان نے غلطی نہیں کی بلکہ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حد لگوائی اور کوئی قرابت داری آڑے نہ آئی اور اسے معزول بھی کر دیا۔ اور کیا ولید بن عقبہ معصوم تھا؟

ہم ابتداء میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت دری کے قائل نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک صحابی حضرت قدامہ بن مظعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو جواز بنا کر شراب نوشی کر لی۔

① العواصم من القواصم: ۱۰۷-۱۰۸

کہ اس نے فرمایا ہے:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيمَا طَعُمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ [المائدہ: ۹۳]

”کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے کھانے پینے پر کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں پھر بھی ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں پھر بھی ڈرتے رہیں اور اچھے کام کریں اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو درست مطلب سمجھایا، پھر انہیں معزول کر دیا اور ولید بن عقبہ کے معزول کرنے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی قریبی کی غلطی پر گرفت کی اور اسے گورنری سے معزول کر دیا اور اس پر حد نافذ کر دی۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر، ان میں سے صرف اکیلے ولید بن عقبہ ہیں جن پر انگشت نمائی ہو تو ہو، حضرت عثمان پر نہیں ہو سکتی، اگر کوئی قابل اعتراض بات ہے تو اس کا ولید بن عقبہ ذمہ دار ہے نہ کہ حضرت عثمان [رضی اللہ عنہ]

﴿..... دوسرا اعتراض﴾

کہ انہوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بزدہ کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں سیف بن عمر کے حوالے سے تاریخ طبری وغیرہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف سا ہو گیا، تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ابوذر نے لوگوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو، تو حضرت ابوذر کو حضرت عثمان کی طرف بھیج دیا گیا۔

چنانچہ آپ نے انہیں ملامت کی تو وہ ربذہ کی طرف نکل گئے۔^①

یہ ہے سیف بن عمر (متہم بالکذب اور متروک راوی) کی روایت۔ لیکن ہمارے پاس اس قضیہ کے متعلق اس سے زیادہ مستند اور صحیح روایات ہیں۔ جنہیں امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن وہب سے بیان کیا ہے:

”میں ربذہ سے گذرا تو وہاں مجھے ابوذر ملے، میں نے ان سے کہا: ”کہ آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں شام میں تھا کہ میرا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، ان لوگوں کے متعلق جھگڑا ہو گیا، جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں کہتا تھا کہ یہ ہمارے متعلق بھی نازل ہوئی ہے اور ان کے متعلق بھی، اور اس مسئلے میں میرے اور ان کے درمیان بحث طول پکڑنے لگی، تو انہوں نے حضرت عثمان کی خدمت میں میری شکایت کر دی، کہ یہ اس طرح کے مسائل میں بحث کرتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔“^②

تو امیر المومنین نے مجھے خط لکھ کر مدینہ منورہ چلے آنے کا حکم دے دیا۔ تو میں مدینے آ گیا، چنانچہ لوگ مجھے یوں دیکھنے آئے کہ گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ میں نے اس بات کا حضرت عثمانؓ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا:

① تاریخ طبری ۳/۳۳۵،

② سب جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت ابوذر کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھے، جبکہ صحابہ کرام کی اکثریت اس نظریے کے خلاف تھی اور آج کل اس مسئلہ پر تقریباً جماع ہو گیا ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر کے یہ چیزیں اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اسی لیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ جس چیز کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز میں داخل نہیں۔ اور اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے نیز حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن ابوذر کہتے تھے کہ خواہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے پھر بھی ضرورت سے زائد سونا چاندی رکھنا منع ہے۔ حضرت معاویہ اسی مسئلے پر ان سے اختلاف رکھتے تھے۔

”اگر آپ چاہیں تو یہاں سے منتقل ہو جائیں تو میں یہاں قریب ہی رہنے لگا ہوں اس وجہ سے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ پر جنبشی کو بھی امیر بنا دیں تو میں اس کی بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔“^①

(اس مستند اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر کو ربنذہ کی طرف جلاوطن نہیں کیا تھا اور نہ ہی حضرت معاویہ نے انہیں شام سے بے عزت کر کے مدینہ بھجوایا (ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں) سفید جھوٹ ہیں [رضی اللہ عنہم]۔ یہ تھا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا قصہ (لیکن کذاب راویوں نے اسے رائی سے پہاڑ بنا دیا)

بلکہ (شہرہ آفاق محدث اور مؤرخ) ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ جب وہ ربنذہ کی طرف نکلے تو فرمایا:

میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

”کہ جب آبادی سلع (پہاڑ) تک پہنچ جائے تو یہاں سے نکل جانا.....“^② اس بنا پر ان کا (مدینہ سے) نکلنا گویا نبی کریم ﷺ کے حکم کی بنا پر تھا اور آنحضرت ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ:

”کہ اللہ ابوذر پر رحم فرمائے وہ تن تنہا چلے گا اور تن تنہا ہی مرے گا اور تن تنہا ہی اٹھے گا۔“^③ رضی اللہ عنہ وارضاه

تیسرا اعتراض

مروان کو افریقہ کے مال غنیمت سے پانچواں حصہ

① صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث: ۱۴۰۶

② طبقات ابن سعد ۴/۲۲۶

③ حاکم: ۵۰/۳ و صحیحہ مگر ذہبی نے اسے مرسل کہا ہے۔ نیز کہا کہ اس کی سند میں ایک انتہائی ضعیف راوی ”برید بن سفیان“ ہے۔

جبکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان سے ایسا کرنا ثابت نہیں کیا جاسکا۔ سید قطب (شہید) مصری نے بھی سبائیوں کے کوڑے کرکٹ سے ایسی مکذوبہ اور بے سند روایات اکٹھی کر کے، اس بہتان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں؟ (مترجم)

﴿.....چوتھا اعتراض.....﴾ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا

(اس کی حقیقت یہ ہے کہ) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ بات پہنچائی کہ لوگ قرآن (کی مجوزہ قرأت کے معاملے) میں تفرقہ بندی کا شکار ہو کر آپس میں شدید اختلاف کرنے لگے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان پر قرآن سے کفر کا اندیشہ ہونے لگا ہے اور انہوں نے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ لوگوں کو قرآن کی ایک قرأت پر اکٹھا کیا جائے اور قرآن کو دوسری مرتبہ جمع کیا جائے۔^①

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تھا ان میں کچھ آیات منسوخ التلاوة بھی تھی، جنہیں چند صحابہ کرام نے باقی رہنے دیا تھا، اور پھر وہ نسخے اس ترتیب کے خلاف تھے، جو آخری مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، اور بعض نسخوں میں چند صحابہ کرام کی اپنی تفسیریں شامل تھیں، اس لیے انہوں نے ان نسخوں کو جلا دینے کا حکم دے دیا اور ایک مصحف شریف لکھوایا اور اس میں (تمام) قرأتیں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی قرأت کو لغو قرار نہیں دیا۔

امام ابن العربی مالکی رحمہ اللہ ایک مصحف کے سوا باقی مصاحف کو جلانے اور ایک اسی نسخے پر لوگوں کو جمع کرنے کے متعلق، فرماتے ہیں:

① صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن: ۴۹۸۷

کہ یہ ان کی عظیم ترین نیکی اور بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ انہوں نے اختلاف کی جڑ ختم کر دی اور اللہ نے آپؐ کے ہاتھ سے قرآن کی حفاظت کی۔^① مگر (دیکھئے) انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس عظیم نیکی اور خوبی کو (کس طرح) آپ کی غلطی اور جرم ٹھہرایا ہے! (کسی نے سچ کہا ہے)

وَ عَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

”کہ محبت و خوشی کی آنکھ ہر عیب سے بند رہتی ہے۔ لیکن ناراضی کی آنکھ عیوب برائیاں اچھالتی ہے (اور اچھائیوں پر پردہ ڈالتی ہے)۔“

﴿.....پانچواں اعتراض.....﴾

وہ کہتے تھے کہ: ”کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کی انتڑیاں پھٹ گئیں اور حضرت عمار بن یاسر کو اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔“ اور یہ بھی سفید جھوٹ ہے، اگر ان کی انتڑیاں پھٹ جاتیں تو وہ زندہ نہ رہتے۔ حضرت عثمان پر یہ اعتراض محض کذب و بہتان ہے۔ [رضی اللہ عنہ]۔ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ انہیں پیٹنا محض باطل دعویٰ ہے، جو ثابت نہیں ہو سکا۔

﴿.....چھٹا اعتراض.....﴾

وہ کہتے تھے کہ: ”انہوں نے چراگاہ کو وسعت دی (اور چراگاہ سے مراد وہ قطعہ زمین جو مرکزی حکومت نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے مخصوص کر لیا ہو) حضرت رسول اللہ ﷺ کی بھی مخصوص چراگاہ تھی اور آپ ﷺ نے فرمایا: کہ ”إِنَّمَا الْحَمَى حَمَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“^② کہ چراگاہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ہی حق ہے۔“

① العواصم من القواصم: ۸۰

② البخاری = کتاب المساقات، باب لا حمى الا لله و لرسوله الحديث: ۲۳۷۰

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے چراگاہ مخصوص کی اور ان کے لیے خاص علاقہ مقرر کر دیا، تاکہ اس میں صرف صدقہ کے اونٹ چریں اور جب وہ موٹے تازے ہو جائیں تو لوگوں کے کام آسکیں۔ جب حضرت عثمان کے دور میں صدقات بڑھ گئے تو انہوں نے اس مناسبت سے چراگاہ کو بھی وسیع کر دیا۔ تو مفسدین نے ان پر نکتہ چینی شروع کر دی اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ:

”یہ جو تو نے چراگاہ کو وسیع کیا ہے اس کا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے یا تو اللہ پر افترا باندھتا ہے؟“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”مجھ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے قطعہ زمین مخصوص کیا۔ جب میں خلیفہ بنا تو صدقہ کے اونٹ بڑھ گئے، اس لیے میں نے چراگاہ وسیع کر دی۔“

امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے۔^①

﴿﴾ سا تو اں اعتراض ﴿﴾

وہ کہتے تھے کہ: ”انہوں نے سفر میں پوری نماز پڑھی۔“

(اس میں کوئی شک نہیں) کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے سفر میں دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکر نے بھی سفر میں دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت عمر نے بھی سفر میں دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت عثمان نے بھی اپنی خلافت کی ابتداء میں دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ نے پوری پڑھنی شروع کر دی۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فقہی واجتہادی مسئلہ ہے، اس میں حضرت عثمانؓ نے اجتہاد کیا لیکن خطا ہوگئی تو کیا ہوا؟ جب اس اجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی تو کیا یہ خطا

ان کے خون کو حلال کر سکتی ہے؟ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ معصوم کون ہے؟ پھر اہل علم کے درمیان اس مسئلہ پر اختلاف بھی ہے بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ نماز قصر مستحب سنت ہے۔^①

حضرت عثمان نے صرف یہی کیا تھا کہ انہوں نے مستحب عمل کو چھوڑ دیا اور جواز پر عمل کر لیا یا انہوں نے رخصت چھوڑ دی اور عزیمت کو اپنا لیا۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے پوری نماز کیوں پڑھی؟

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسا دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے کیا۔

1- کیونکہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے شہر مکہ میں ہیں اس لیے وہاں پوری نماز ادا کی۔

2- وہ اس بات سے ڈر گئے ہوں کہ (حج کے موقع پر آئے ہوئے) دیہاتی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ اپنے ملکوں میں جا کر (ہمیشہ) قصر پڑھنا شروع کر دیں۔ لہذا آپ ﷺ نے اس لیے نماز پوری پڑھی کہ ان کو آگاہ کر سکیں کہ اصلاً نماز کی چار رکعتیں ہیں۔ تاہم اس کا اصل سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔

جب سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے سفر میں پوری نماز ادا کی تو لوگوں نے حضرت عروہ بن زبیرؓ سے اس کا سبب پوچھا تو آپؓ نے فرمایا:
کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح تاویل کر لی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان نے تاویل کی تھی۔^②

① مالک، شافعی، اوزاعی، احمد کا یہی مذہب ہے، مغنی ابن قدامہ ۵۴/۲

② حضرت ابو عبد اللہ جعفر الصادق سے کلینی کی کتاب الکافی میں روایت ہے کہ حرین میں پوری نماز پڑھنا افضل

﴿..... آٹھواں، نانواں اور دسواں اعتراض.....﴾

”کہ آپؐ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے۔“

”اور احد کے دن فرار ہو گئے تھے اور بیعت رضوان میں حاضر نہ ہوئے تھے۔“

صحیح بخاری میں حضرت عثمان بن موہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”ایک مصری باشندہ (ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا: ”تم کون سے قبیلہ سے ہو؟“ ان لوگوں نے کہا: ”قریش سے۔“ وہ کہنے لگا: ”تم میں وہ بزرگ آدمی کون صاحب ہیں؟“ لوگوں نے کہا: ”حضرت عبداللہ بن عمر“ تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”اے عبد اللہ بن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتا دیجئے۔“

1- کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن فرار ہوئے تھے؟ فرمایا: ”ہاں“

2- کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر سے بھی غائب تھے؟ فرمایا: ”ہاں“

3- آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غائب تھے؟“ فرمایا: ”ہاں“

مصری کہنے لگا: ”اللہ اکبر، (یعنی اس کے خیال میں حق واضح ہو گیا)، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کہا: ”آؤ میں تمہیں ان کی وجوہات بیان کرتا ہوں۔“

احد کے دن ان کا فرار ہونا: تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف

کر دیا تھا اور ان کی بخشش کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ إِنَّ الدِّينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ النَّفْيِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾

”تم میں سے جو لوگ دو جماعتوں کی مڈبھیڑ (جنگ احد) کے دن روگرداں ہو

گئے تھے ان کو محض شیطان نے پھسلا یا تھا ان کے کسی عمل کی وجہ سے اور اللہ نے

ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔“

بدر کے دن، ان کا غائب ہونا: اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کے نکاح میں حضرت نبی کریم ﷺ کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں اور وہ مریضہ تھیں تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ آپ کو اس آدمی جتنا اجر ملے گا جو بدر میں شامل ہو اور اس کے برابر مال غنیمت بھی (بنا بریں وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور آپ ﷺ نے انہیں جنگ بدر سے ان کے حصہ کا مال غنیمت بھی دیا تھا)

باقی رہا ان کا بیعت رضوان سے غائب رہنا: اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو آپ ﷺ ان کی بجائے اسے بھیج دیتے^① چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ نے انہیں بھیج دیا اور بیعت رضوان، حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد منعقد ہوئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنے داہنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: 'یہ بیعت عثمان کی ہے۔ (اتنا کچھ بتانے کے بعد)

حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا: یہ جوابات بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔^②

﴿﴾ گیارہواں اعتراض ﴿﴾

وہ کہتے تھے کہ: آپ نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہرمزان کے بدلے میں قتل کیوں نہ کیا؟۔

کتب تاریخ میں مشہور ہے کہ جب ابوہریرہؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کر خاک و خون میں تڑپا دیا تو لوگوں نے اس پر گارن نما ایک کپڑا پھینک دیا تو اس نے (اپنے آپ کو گرفتار

① حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت عثمان کو مکہ والوں کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ انہیں بتادیں کہ حضرت رسول مقبول ﷺ عمرہ ادا کرنے آئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوگئی، بلکہ سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے کہ یہ بیعت حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے منعقد ہوئی تھی کیونکہ آپ کو افواہ ملی تھی کہ عثمان شہید کر دیئے گئے ہیں، تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ لیکن یہ محض افواہ تھی۔

② صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب عثمان: ۳۶۹۸

ہوتا دیکھ کر) خودکشی کر لی۔^① جب صبح ہوئی تو عبید اللہ بن عمر نے مجوسی سے مسلمان بننے والے شخص ہرمزان کو قتل کر دیا۔ جب اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا:

کہ امیر المؤمنین کے قتل سے تین دن پہلے یہ ابولؤلؤ مجوسی کے ساتھ تھا^② اور اس وقت ابولؤلؤ کے پاس وہی خنجر تھا جس سے اس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ عبید اللہ بن عمر نے یہ سمجھ کر کہ ہرمزان بھی اس جرم میں ابولؤلؤ کے ساتھ شریک ہے، اسے جا کر قتل کر دیا۔

چنانچہ عبید اللہ بن عمر کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر قید کر دیا گیا اور حضرت عثمان نے اصحاب رسول ﷺ کو اکٹھا کر کے ان کی رائے لی۔ ان میں سے کسی نے کہا: ”قصاصاً قتل کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔“

کسی نے کہا: دو دن قبل حضرت عمر قتل ہو گئے اب ہم ان کے بیٹے کو قتل کر دیں تو آل خطاب پر کیا گزرے گی؟

کسی نے کہا: ”کہ اس نے تائباً قتل کیا ہے (یعنی اپنے باپ کا شریک قاتل سمجھ کر) یہاں ہرمزان کے بدلے عبید اللہ کو قتل نہ کرنے کی تین توجیہات سامنے آئیں:

پہلی توجیہ:

عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق کے مشاہدے کے مطابق حضرت عمر کے قتل میں ہرمزان، ابولؤلؤ کا معاون، اس بنا پر وہ قتل کا مستحق تھا۔ جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان درج ہے کہ اگر صنعاء کے تمام باشندے کسی آدمی کے قتل میں شریک ہوں تو میں سب کو قتل کر دوں گا۔^③

① صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ باب قصة البيعة نمبر: ۳۷۰۰

② سیف بن عمر کذاب کے حوالے سے طبری میں مذکور ہے کہ عبدالرحمن بن ابوبکر نے ان کو دیکھا تھا اور عبید اللہ کو اس کی خبر دی تھی۔ طبری ۳/۳۰۳

③ صحیح بخاری کتاب الديات: ۶۸۹۶

دوسری توجیہ:

یہ کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے بھی حضرت اسامہ بن زید کو ایک ایسے آدمی کے قتل کرنے کی پاداش میں قتل نہ کیا تھا، جس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے بچاؤ کے لیے درخت کی پناہ لی اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ البتہ آپ ﷺ نے اسامہ بن زید کو بلا کر یہ بات ضرور کہی کہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے؟

اسامہ نے جواب دیا: اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔
 آپ نے فرمایا: کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ چنانچہ آپ ﷺ مسلسل یہ کہتے رہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد قتل کر دیا؟
 اسامہ کہتے ہیں کہ میں آرزو کرنے لگا، کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔^①
 الغرض حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت اسامہ پر اس لیے حد قائم نہ کی کہ وہ متاثر تھے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان نے بھی عبید اللہ پر حد قائم نہ کی کیونکہ وہ متاثر تھے۔

تیسری توجیہ:

یہ کہ ہرمزان کا سر پرست کوئی نہ تھا اور جس مقتول کا کوئی سر پرست نہ بنے اس کا سر پرست حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، لہذا وہ قصاص سے دستبردار ہو گئے اور دیت ادا کر دی اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قائد بان تھا اور وہ دعویٰ قصاص سے دستبردار ہو گیا تھا۔^②
 لیکن اس کی سند صحیح نہیں البتہ یہ بات تاریخ میں مشہور بہت ہے، اس لیے ہم نے اس کے جواب میں تاریخی کتب کا مشہور واقعہ ذکر کر دیا ہے۔

① صحیح بخاری کتاب المغازی: ۴۲۶۹، مسلم کتاب الایمان/ ۱۵۹

② طبری ۳/۳۰۵، اس قسے کا انحصار کذاب راوی سیف بن عمر پر ہے۔

﴿﴾ بارہواں اعتراض ﴿﴾

”کہ انہوں نے جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي»^①

”کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے بعد (میرے) خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔“

اور یہ اضافہ، خلفاء راشدین کی سنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور انہوں نے مصلحت سمجھی کہ لوگوں کو نماز جمعہ کے وقت کی نزدیکی سے آگاہ کرنے کے لیے اذان کہی جائے، کیونکہ مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس مسئلہ پر اجتہاد کیا اور تمام صحابہؓ نے موافقت کی اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہا اور اس میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے دور سے لے کر بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک یہی دستور جاری رہا اور ہمارے آج کے دور تک کسی مسلمان نے اس کی مخالفت نہیں، لہذا یہ مسلمانوں کے اجماع سے سنت قرار پائی۔ اور یہ ایسی سنتوں میں سے ہے جن کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي»

علاوہ ازیں اس اذان کا اصل شرع میں موجود ہے اور وہ ہے سحری کی

اذان۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اس اذان پر جمعہ کی اذان کو قیاس کر لیا۔

① سنن ابو داؤد، کتاب السنة ۴۶۰۷، سنن ترمذی کتاب العلم: ۲۶۷۶

﴿.....تیرھواں اعتراض.....﴾

انہوں نے حکم بن العاص کو واپس بلا لیا حالانکہ حضرت رسول کریم ﷺ نے اسے جلاوطن کر دیا تھا۔ اس بہتان کے تین جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔
 پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح سند ہے۔
 دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم، فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والوں میں سے ہے اور اس کا تعلق طلقاء سے ہے اور طلقاء مکہ کے رہنے والے تھے، وہ مدینہ میں بستے ہی نہ تھے، اس کو آپ ﷺ کس طرح جلاوطن کر سکتے تھے، جبکہ وہ اصلاً مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں سے نہ تھا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جلاوطنی کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک سال ہے اور ساری زندگی جلاوطن کرنے کا ثبوت اللہ کی شریعت میں نہیں ہے اور وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا یہ ہو کہ انسان کو ساری زندگی جلاوطن کر دیا جائے؟

جلاوطنی، حکمران کی طرف سے تعزیری سزا ہوتی ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے واقعی اسے جلاوطن کیا تھا اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کی زندگی میں بھی اور پھر خلافت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں بھی جلاوطن رہا ہو، پھر حضرت عثمان نے واپس بلا لیا ہو تو کتنے سالوں بعد؟ تقریباً پندرہ سال بعد اور اس میں کیا حرج ہے؟ اور یہ بھی اس وقت ہے جب یہ بات ثابت ہو جائے حالانکہ یہ تو ثابت ہی نہیں۔

علاوہ ازیں حضرت نبی مکرم ﷺ نے عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کے متعلق حضرت عثمان کی سفارش کو قبول کر لیا تھا، حالانکہ وہ مرتد ہو گیا تھا، تو حکم نے

اس سے بڑا جرم تو نہ کیا تھا کہ حضرت رسول کریم ﷺ، عبداللہ بن سعد کو تو معاف کر دیں اور اسے معاف نہ کریں۔

یہ تھے حضرت عثمانؓ پر اعتراضات! جن میں کچھ تو سفید جھوٹ تھے۔

اور کچھ تھے تو محاسن لیکن انہیں عیب بنا دیا گیا۔

اور کچھ اجتہادی امور تھے جن میں آپ سے غلطی ہوئی یا آپ درست رہے۔

اور کچھ غلطیاں واقعی ہوئیں لیکن وہ غلطیاں ان کی نیکیوں کے سمندر میں غرق

ہو گئیں۔ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح کے فتنہ انگیز پروپیگنڈے کے بعد ۳۵ھ میں کوفہ اور بصرہ کے بدو اور مصر کے بدفطرت اوباش، بظاہر حج کرنے اور دراصل حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کے لیے (مدینہ منورہ کی طرف) چل پڑے۔ ان کی تعداد کے متعلق مختلف اندازے لگائے گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار مصر سے، دو ہزار کوفہ سے اور دو ہزار بصرہ کے باشندے تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد مجموعی طور پر دو ہزار تھی۔ علاوہ ازیں دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ کیونکہ باقاعدہ اعداد و شمار تو تھے نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ دو ہزار سے کم اور چھ ہزار سے زیادہ نہ ہوں گے۔

چنانچہ وہ مدینہ میں سے داخل ہو گئے اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان سے منصب خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کر دیا۔ یہ لوگ اپنے اپنے قبائل کے جنگجو بد معاش تھے اور دھمکی وزور بازو سے حضرت عثمان کو معزول کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ۱۸ اٹھارہ ذی الحجہ تک آپ کو محاصرے میں رکھا، اور یہی دن آپ کی شہادت کا دن تھا۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محاصرہ چالیس (۴۰) دن جاری رہا۔ اس سلسلے میں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن یہ محاصرہ بہر حال اکتالیس (۴۱) دن سے زیادہ نہ تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر کے (مسجد نبوی میں) نماز سے بھی روک دیا گیا، بلکہ پانی بھی بند کر دیا گیا تو ان کے دفاع کی خاطر چند صحابہ کرام ان کے پاس چلے گئے اور جو لوگ آپ کے گھر میں آپ کی حفاظت کی خاطر بیٹھے رہے ان میں مشہور ترین صحابہ یہ تھے۔

سیدنا حسن بن علیؓ، سیدنا حسین بن علیؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، ابو ہریرہؓ، محمد بن طلحہ بن عبید اللہ (السجاد)، عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم)۔

انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے باغیوں کے سامنے تلواریں سونت لیں، لیکن حضرت عثمان نے ان کو لڑائی کرنے سے روک دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دفاع کے لیے آنے والے صحابہ کرام کے بیٹوں کی تعداد سات سو سے متجاوز تھی لیکن ان سات سو افراد کی تعداد ان باغیوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو کم از کم دو ہزار تھے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا، آپ نے فرمایا جو کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر (امیر المؤمنین کی) اطاعت فرض ہے تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ اور تلوار کو روک لے۔^①

حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: ”انصار آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ

① مصنف ابن ابی شیبہ بسند صحیح ۲۴/۱۵ حدیث نمبر ۱۹۵۰۸

اجازت دیں تو ہم دوبارہ انصار اللہ بن جائیں؟ اور جس طرح ہم حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اسی طرح ہم آپ کا ساتھ بھی دیں؟ آپ نے فرمایا: میں (اس شہر میں) لڑائی کی اجازت نہیں دیتا۔^①

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عثمان کے پاس گئے، تو انہوں نے آپ سے کہا: اے ابن عمر! دیکھیے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو دستبردار ہو جا اور اپنی جان نہ گنوا!۔ ابن عمر نے جواب دیا: اگر جب آپ اس منصب سے دستبردار ہو جائیں گے تو کیا دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟

حضرت عثمان نے فرمایا: ”نہیں“

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”اگر آپ دستبردار نہ ہوئے تو یہ لوگ آپ کو شہید کرنے سے بڑھ کر اور کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا: کچھ نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا وہ جنت اور دوزخ کے مالک بن جائیں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا: ”نہیں۔“

تو آپ نے فرمایا: ”میں آپ کو یہ رائے نہ دوں گا کہ آپ اس قمیص کو اتاریں جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے، ورنہ یہ دستور بن جائے گا کہ جب بھی کوئی قوم اپنے خلیفہ یا امام کو برا سمجھنے لگے گی تو اسے دستبردار کر دے گی۔“^②

(علاوہ ازیں) حضرت عثمان نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ جو کوئی اپنے ہتھیار پھینک دے، وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ چنانچہ آپ نے خود ہی لوگوں کو لڑائی سے روک دیا۔

① مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰۵/۱۵، حدیث نمبر ۱۹۸۵۰۹

② احمد فضائل الصحابہ بسند صحیح ۴۷۳/۱ نمبر ۷۶۷

حضرت عثمان کو کن لوگوں نے شہید کیا؟

حضرت عثمانؓ کے محاصرے کے بعد وہ لوگ دیواریں پھاند کر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اس حال میں قتل کیا کہ آپ مصحف شریف سامنے رکھ کر تلاوت میں مصروف تھے۔

خلیفہ بن خیاط کی تاریخ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا گیا: کیا حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں انصار و مهاجرین کا کوئی فرد بھی شامل تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ مصر کے اجد قسم کے اوباش تھے۔^① (حضرت حسن بصریؒ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیونکہ آپ کبار تابعین میں سے تھے)

اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کارروائی میں کن لوگوں نے براہ راست حصہ لیا، کیونکہ جو لوگ ان کے گھر داخل ہوئے تھے وہ جتھے کی صورت میں تھے۔ لیکن اس فتنہ کے مشہور سرغنے یہ تھے، (۱) کنانہ بن بشر، (۲) رومان یمانی، (۳) جبلیہ، (۴) سودان بن حمران، (۵) بنو سدوس کا ایک آدمی جس کا لقب موت الاسود تھا، اور (۶) مالک بن اشتر نخعی۔ حضرت عمرہ بنت ارطاة فرماتی ہیں کہ:

جس سال حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا اس سال میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مکہ گئی تھی، چنانچہ ہم مدینہ پہنچیں تو ہم نے وہ مصحف شریف بھی دیکھا جو آپؐ کی شہادت کے وقت آپ کی گود میں تھا۔ چنانچہ آپ کے خون کے قطروں میں پہلا قطرہ اس آیت کی ابتداء میں گرا ہوا تھا۔

﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرہ ۱۳۷]

”حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ: ان میں سے کوئی آدمی بھی اپنی موت آپ نہ مرا (بلکہ سب قتل ہوئے)“^②

① تاریخ خلیفہ ص: ۱۷۶

② احمد فضائل الصحابہ ۱/۵۰۱، حدیث نمبر: ۸۱۷۔ علاوہ ازیں دیکھئے ۷۶۵/۷۶۶

حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک آدمی یوں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ! مجھے بخش دے! لیکن میرے خیال میں تو مجھے بخشے گا نہیں!
فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرنے لگا۔ چنانچہ میں نے کہا:
”اے بندہ خدا! میں نے کسی کو تیری طرح دعا مانگتے نہیں دیکھا۔“

اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں عثمان کو تھپڑ ماروں گا چنانچہ جب وہ قتل کیے گئے اور چار پائی پر لٹائے گئے اور لوگ ان کے گھر میں ان پر نماز جنازہ پڑھ کر جا رہے تھے، میں بھی نماز کے بہانے داخل ہو گیا۔ جب میں نے اطمینان کر لیا کہ اب گھر میں کوئی نہیں (دیکھ رہا) تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس پر تھپڑ مارا، بس اسی وقت میرا ہاتھ مفلوج ہو کر خشک ہو گیا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ

میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو وہ خشک ٹہنی کی طرح تھا۔^①

حضرت عثمان کس طرح شہید ہوئے اور صحابہ نے ان کا دفاع کیوں نہ کیا؟

پہلی وجہ:

اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ہی انہیں روک دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اپنی تلواریں میان میں کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر کو تسلیم کرنے پر تیار ہو گئے۔
اور ان کے اس حکم کی دو وجوہات ہیں:

پہلی وجہ: شجاعت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و ارضاء۔

① البدایة والنہایة ۲۰۰/۷، رجالہ ثقات غیر عیسی بن المنہال و ذکرہ ابن حبان فی الثقات و ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل: ۲۸۸/۶ و سکت عنہ و کذا ذکرہ البخاری فی التاریخ الکبیر: ۳۹۹/۶ و سکت عنہ ایضاً

❁ دوسری وجہ: امت محمدیہ پر شفقت۔

انہوں نے دیکھا کہ وہ بدوی اجڈ قسم کے اوباش لوگ ہیں اور فساد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ صحابہ نے لڑائی شروع کر دی تو فساد بڑھ جائے گا اور بہت سے صحابہ کے قتل ہونے کی بجائے ایک آدمی کا قتل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اور بسا اوقات فساد یوں کے ہاتھ حرماتیں پامال کرنے اور مال بھی لوٹنے لگتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ وہ خود ہی قتل ہو جائیں اور کوئی صحابی قتل نہ ہو اور مدینہ الرسول کی حرمت بھی پامال نہ ہو۔ [رضی اللہ عنہ]

دوسری وجہ:

یہ تھی کہ ان باغیوں کی بہ نسبت صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی کیونکہ اصحاب رسول ﷺ چار جگہوں پر تھے۔

_____ مکہ: کیونکہ حج کا موسم تھا اور بہت سے صحابہ کرام حج کے لیے مکہ میں موجود ہونے کی وجہ سے مدینہ میں حاضر نہ تھے اور حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن عباس (ہاشمی قرشی) کو امیر حج بنایا تھا۔

_____ بعض صحابہ کرام مکہ سے اقامت گزریں ہو چکے تھے اور، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تھے۔ کچھ کوفہ میں اور کچھ بصرہ اور مصر و شام وغیرہ شہروں میں رہائش پذیر تھے۔

_____ جہاد: بہت سے صحابہ کرام سرحدوں پر جہاد میں مصروف تھے۔

_____ مدینہ منورہ: لیکن ان کی تعداد، باغیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔

تیسری وجہ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اولاد کو حضرت عثمان کا دفاع کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن یہ بات ان کے وہم و گمان میں نہ تھی کہ صورت حال قتل تک جا پہنچے گی وہ

سمجھتے تھے کہ یہ محض محاصرہ اور عناد ہے، یہ لوگ ڈرا دھمکا کر واپس چلے جائیں گے۔
 باقی رہا ان کا سر چڑھنا اور حضرت عثمان کو قتل کرنا، یہ بات صحابہ کے وہم
 وگمان سے باہر تھی، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔
 لیکن ان سب اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود
 ہی بلوایوں سے لڑنے سے روک دیا تھا۔



خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب

۳۵ھ تا ۴۰ھ

آپ کا نام علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے چچا زاد اور آپ کی لخت جگر سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے جو اسد بن ہاشم بن عبدمناف کی بیٹی تھیں۔^①

آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، حضرت نبی کریم ﷺ نے آپ کی کنیت ابو تراب رکھی، آپ بچپن میں مسلمان ہوئے اور ایک مشہور قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔^②

حضرت محمد بن علی بن ابی طالب (ابن الحنفیة) سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت عثمان کے بعد ان کے گھر آئے، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اپنا دروازہ بند کر لیا، لوگوں نے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہنے لگے:

یہ شخص تو قتل ہو چکا اور لوگوں کے لیے خلیفہ کا وجود لازمی ہے اور ہم آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اس منصب کا حق دار نہیں سمجھتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ میرا خیال چھوڑ دو، تمہارے حق میں میرا وزیر بننا، امیر بننے سے بہتر ہے۔

① معرفة الصحابة ۱/ ۲۷۸،

② معرفة الصحابة ۱: ۲۸۷۔ حضرت علیؑ کے مزید فضائل و مناقب باب ”رسول اللہ کے بعد خلیفہ کون؟“ میں

ملاحظہ کیجیے۔ صفحہ نمبر: ۲۴۸

انہوں نے کہا: ”اللہ کی قسم! ہم آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اس منصب کا حق دار نہیں سمجھتے، آپ نے فرمایا: ”اگر تمہارا اصرار ہے تو میری بیعت یہاں خفیہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں مسجد کی طرف نکلتا ہوں، پھر وہاں اگر تم میں سے کوئی شخص میری بیعت کرنا چاہے تو کر لے۔ چنانچہ آپ مسجد نبوی میں چلے گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ ①

مدینہ منورہ میں رہنے والے تمام مہاجرین اور انصار نے آپ کی بیعت کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اس موقع پر بیعت نہ کی تھی مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، محمد بن مسلمہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی اور یہی قول مشہور ہے البتہ حضرت سعدؓ، عبداللہ بن عمرؓ، محمد بن مسلمہؓ نے جنگ میں آپ کا ساتھ نہ دیا تھا، جبکہ بیعت تو انہوں نے (اس وقت ہی) کر لی تھی۔

امام احمد بن حنبلؒ نے فضائل الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ حضرت عوف بن ابی جمیلہ فرماتے ہیں، کہ میں حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ شہادت عثمان کے وقت مدینہ میں موجود تھے، چنانچہ لوگوں نے صحابہ رسولؐ کا تذکرہ شروع کر دیا تو ابن جوشن غطفانی حضرت حسن بصریؒ سے کہنے لگا:

اے ابو سعید!، حضرت ابو موسیٰؓ (اشعری) پر حضرت علیؓ کی اتباع کی وجہ سے عیب لگایا گیا ہے۔ ②

یہ سن کر حضرت حسن بصریؒ اس قدر غضب ناک ہوئے کہ غصے کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہونے لگے اور فرمایا تو پھر اس وقت کس کی اتباع کی جاتی؟! امیر المؤمنینؓ کو ظلماً شہید کیا گیا، تو لوگوں نے اپنے میں سے بہتر انسان کی طرف رجوع کیا اور اس کی بیعت کر لی۔ (اگر ان کی بیعت نہ کرتے) تو کس کی

① احمد فضائل صحابہ باسناد صحیح ۵۷۳/۲/رقم ۹۶۹

② احمد، ۵۷۶/۲، رقم: ۹۷۶

اس شخص کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ پر اس وجہ سے طعن کیا کہ انہوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا تھا جبکہ اس کے خیال میں انہیں حضرت علیؓ کا ساتھ نہیں دینا چاہئے تھا۔

اتباع کی جاتی! حسن بصری رضی اللہ عنہ اس بات کو بار بار دہراتے رہے۔
اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ سے افضل ہیں۔^①

امام ابو العباس احمد بن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے اس شخص کو بدعتی قرار دینا منصوص ہے جو حضرت علی کی خلافت میں توقف کرے، آپ نے فرمایا (کہ ان کی خلافت میں توقف کرنے والا) اپنے گھریلو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے اور انھوں نے ایسے شخص سے بایکٹ کا حکم دیا ہے۔
ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد سمیت تمام اہل السنۃ، حضرت علی بن ابی طالب کو خلافت کا مستحق سمجھنے میں تردد نہیں کرتے اور نہ ہی وہ آپ کے خلیفہ برحق ہونے میں شک کرتے ہیں۔^②

چنانچہ اہل السنۃ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں سے افضل صحابی حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان اور علی کے مابین فضیلت میں ان کا اختلاف ہے، لیکن اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے افضل ہیں تاہم ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے برحق خلیفہ ہیں۔

① (اور اس بات کی تصدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود کر دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: «أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ» [دیکھئے طبقات حنابلہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۶])

② مجموع فتاویٰ: ۴/۴۳۸

① معرفة الصحابة: ۱/۲۷۸

جنگِ جمل [۳۶ھ]

جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے آپ سے مکہ معظمہ جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ دونوں وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے جبکہ انہیں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ یہ سب حضرات مکہ میں جمع ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کا عزم کیا۔ ادھر بصرہ سے یعلیٰ بن مہبہ اور کوفہ سے عبد اللہ بن عامر بھی آگئے اور انہوں نے بھی مکہ میں اکٹھے ہو کر حضرت عثمانؓ کے قصاص کا فیصلہ کر لیا۔

چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ سے بصرہ کی طرف، قاتلین عثمان سے انتقام لینے کے لیے نکل پڑے انھیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان سے حضرت عثمانؓ کا دفاع کرنے میں تقصیر ہوئی۔

دوسری طرف حضرت علیؓ بن ابی طالب مدینہ میں تھے اور حضرت عثمان بن حنیف ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ جب یہ لوگ بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ: ”تم لوگ کیا چاہتے ہو؟“ انہوں نے کہا: ”ہم قاتلین عثمان (سے انتقام لینے) کا عزم لے کر آئے ہیں! حضرت عثمان بن حنیف نے جواب بھیجا کہ جب تک حضرت علیؓ نہ آئیں (ہم اس کی اجازت نہ دیں گے) اور انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔

اس کے بعد قاتلین عثمان کا سرغنہ جبلہ اپنے سات سو (۷۰۰) جنگجوؤں کو لے کر نکلا اور ان پر حملہ آور ہوا۔ لیکن اس جھڑپ میں حضرت عثمان کے حامیوں کو فتح

حاصل ہوئی اور انہوں نے اس کے بہت سے جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔
اس کے نتیجے میں بصرہ کے بہت سے لوگ حضرت طلحہ وزبیر اور سیدہ عائشہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر سے مل گئے۔

جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سنا کہ بصرہ میں ان کے گورنر عثمان
بن حنیف، اور حضرت طلحہ وزبیر و ام المومنین عائشہ کے لشکروں میں لڑائی چھڑ چکی
ہے تو سرعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچے اور دس ہزار (۱۰۰۰۰) کی تعداد میں
ایک لشکر جرار تیار کیا اور حضرت طلحہ وزبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے
ہوئے۔^①

بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقداد بن اسود اور قعقاع بن عمرو کو
حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیج دیا۔
چنانچہ حضرت مقداد اور قعقاع نے ایک طرف سے اور حضرت طلحہ اور
زبیر رضی اللہ عنہما نے دوسری طرف سے جنگ نہ کرنے پر اتفاق کر لیا اور ہر فریق نے اپنا اپنا
نقطہ نظر بیان کیا۔

حضرت طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو چھوڑنا
مناسب نہیں ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظر یہ تھا کہ ابھی قصاص لینا مناسب نہیں
بلکہ اس وقت لیا جائے جب حالات درست ہو جائیں (اور حکومت مستحکم ہو جائے)
چنانچہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر تو اتفاق ہو گیا لیکن یہ بات طے کرنا
باقی رہ گئی، کہ قصاص کب لیا جائے؟

① یہاں ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی
تھی جبکہ حضرت طلحہ وزبیر کا ان سے لڑائی کرنے کا ارادہ نہ تھا اور نہ ہی انہوں نے ان پر چڑھائی کی البتہ شیعہ
صاحبان اور ان سے متاثرین یہی تاثر دیتے ہیں کہ حضرت طلحہ وزبیر نے چڑھائی کی تھی۔

اس اتفاق کے بعد فریقین کے لشکروں نے بہترین رات گزاری اور پر لطف نیند سوائے جبکہ سبائیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں کیونکہ ان سے قصاص لینے پر اتفاق ہو گیا تھا چنانچہ اس معرکے کی تاریخ لکھنے والے مؤرخین امام طبری^①، ابن کثیر^②، ابن الاثیر^③، ابن حزم^④، وغیرہ نے اپنی تواریخ میں لکھا ہے، کہ

اس موقع پر سبائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ معاہدہ قصاص پورا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سحری کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے کہ سبائیوں کے ایک جتھے نے حضرت طلحہؓ وزبیرؓ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور کچھ افراد کو قتل کر کے بھاگ گئے۔ حضرت طلحہؓ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت حضرت علیؓ نے ان سے بدعہدی کی ہے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت علیؓ کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔

ادھر حضرت علیؓ کے لشکر نے یہ سمجھ کر کہ حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، جواباً تیر اندازی شروع کر دی، چنانچہ دو پہر تک دونوں فریق ایک دوسرے پر تیر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد گھمسان کارن پڑ گیا، دونوں لشکروں کے بڑوں نے جنگ روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، حضرت طلحہؓ بار بار کہتے۔ اے لوگو! میری بات سنو! لوگو! تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟

لیکن وہ کسی کی نہ سنتے تھے چنانچہ حضرت طلحہؓ نے افسوس سے فرمایا:

أَفِّ أَفِّ فَرَّاشَ نَارٍ وَ ذَبَّانَ طَمْعٍ^⑤ (یعنی افسوس کہ لوگ جنگ میں یوں کود رہے ہیں جیسے شیرے میں لالچی مکھیاں اور آگ میں احمق پتنگے گرتے ہیں)

① تاریخ طبری: ۱۷/۳

② البداية والنهاية: ۲۵۰/۷

③ الكامل فی التاريخ ۱۲۰/۳

④ الفصل فی الملل والاهواء والنحل ۲۳۸/۴

⑤ تاریخ خلیفہ بن خیاط ۱۸۲

دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے لوگوں کو روکتے رہے لیکن ان کی بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ آخر امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لڑائی روکنے کے لیے کعب بن مسور کو مصحف شریف دے کر بھیجا مگر سبائیوں نے اس پر بھی تیر پھینکنے شروع کر دیئے حتیٰ کہ انہیں شہید کر ڈالا۔

در اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ (عیاذ باللہ) جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو کوئی آدمی اسے روک نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتنہ میں اس سلسلے میں امراء القیس کے اشعار ذکر کیے ہیں کہ

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فُتْيَةً
تَسْعَى بِزَيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُولٍ
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَ شَبَّ ضَرَامُهَا
وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلٍ
شَمَطَاءَ يُنْكِرُ لَوْنَهَا وَ تَغَيَّرَتْ
مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَ التَّقْبِيلِ ①

”کہ لڑائی، ابتداء میں تو ایک نوعمر بچی کی طرح جوان ہوتی ہے اور انجام سے بے خبر لوگوں کے درمیان، پوری زیبائش کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔“
”جب وہ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں تو ایک مکروہ بوڑھی بیوہ بن جاتی ہے۔“

”جس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، رنگ بدلا ہوتا ہے، مکروہ اور بد شکل ہونے کی بنا پر سو گھننے اور بوسہ لینے کے قابل بھی نہیں رہتی۔“

معرکہ جمل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتداء میں ۳۶ھ میں ظہر

② صحیح بخاری، باب الفتنۃ التي تموج كموج البحر

کے بعد شروع ہوا اور اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد دس ہزار (۱۰۰۰۰) تھی اور اہل جمل کی
 تعداد پانچ اور چھ ہزار کے درمیان تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا جھنڈا محمد بن علی بن
 ابی طالب، (ابن الحنفیہ) کے ہاتھ تھا اور اہل جمل کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن
 زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ اس دن بہت سے مسلمان مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ
 سے ہماری تلواروں کو سلامت رکھا، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور ان کے لیے
 خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔

اس معرکہ میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت محمد بن طلحہ (السجاد) رضی اللہ عنہم
 شہید ہو گئے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی حضرت
 طلحہ رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت زبیر کو دیکھا تو فرمایا:
 کیا آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے تمہیں کہا تھا کہ تم
 مجھ (علی) سے لڑو گے اور تمہارا یہ فعل میرے (علی) کے حق میں ظلم ہوگا، چنانچہ
 حضرت زبیر واپس پلٹ گئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔
 اتنی بات تو صحیح ہے کہ آپ نے جنگ نہ لڑی، لیکن کیا واقعی ان کے اور
 حضرت علیؑ کے درمیان مندرجہ بالا گفتگو ہوئی؟

اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس روایت کی سند مضبوط نہیں لیکن کتب
 تاریخ میں بہت مشہور ہے اور اس سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ حضرت زبیرؓ اس
 معرکہ میں شریک نہیں ہوئے اور آپؓ ابن جرموز نامی شخص کے ہاتھوں دھوکے سے
 شہید ہوئے۔

حضرت طلحہ (الفیاض) رضی اللہ عنہ لوگوں کو لڑائی سے روکتے پھرتے تھے کہ آپ کو

اپنے پاؤں کے پرانے زخم پر کوئی اجنبی تیرا لگا، تو آپ اس صدمے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔

اس معرکہ میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا اونٹ ان کے لشکر کا علامتی نشان تھا اور ناموس رسالت کے فدائی اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں پر کھیل رہتے تھے اور جب تک اونٹ نہ گرا اس وقت تک یہ معرکہ گرم رہا اور بہت سے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے، جب اونٹ گر پڑا تو معرکہ ختم گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح یاب ہوئے، مگر حقیقت میں کوئی بھی فتحیاب نہیں ہوا کیونکہ اس معرکہ میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوا۔

جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتولین کے درمیان پھرنے لگے جب آپ نے حضرت طلحہ (الفیاض) بن عبید اللہ کو پایا تو انہیں (اپنی گود میں) بٹھا کر ان کے منہ سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا: اے ابو محمد! تیرا آسمان کے تاروں تلے مٹی میں لت پت ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اس کے بعد آپ رو دیئے اور فرمایا:

اور فرمایا: کاش کہ میں بیس سال قبل فوت ہو چکا ہوتا!۔^①

جن صحابہ کرام نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ سب کے سب اس واقعے پر پریشان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہوں نے محمد بن طلحہ کو مقتولین میں پایا تو رو دیئے۔ محمد بن طلحہ کو کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کا لقب دیا گیا تھا۔ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔

ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے ابن جرmoz (ملعون) حضرت زبیرؓ کی تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ کہتا ہوا پیش ہونے لگا کہ: میں

① مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۰۷/۱۱، أسد الغابة ۳/۸۸، رجالہ ثقات، حافظ

ابن حجر نے المطالب العالیہ جلد ۴/۳۰۲ پر تھوڑے سے تغیر کے ساتھ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔

نے زیرِ قتل کیا ہے، میں نے زیرِ قتل کیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا:
اس تلوار نے کتنے عرصے تک حضرت نبی کریم ﷺ کی مشکلات کو دور ہٹایا
اس کے بعد فرمایا:

ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی آگ کی بشارت دو (حضرت زبیر، حضرت نبی کریم
علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے تھے) اور اسے اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی۔^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے قصاص کیوں نہ لیا؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ، مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ
مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص کو مؤخر کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے قصاص
کو صرف مؤخر کر دیا تھا، ترک نہیں کیا تھا۔

جس طرح حضرت نبی کریم ﷺ نے افک کے موقع پر کیا تھا کہ چند لوگوں
نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا اور حضرت حسان بن ثابت، حمنہ بنت جحش اور
مسطح بن اثاثہ نے اس میں نمایاں حصہ لیا لیکن اس سلسلے میں عبد اللہ بن ابی (ابن
سلول) نے بڑا کردار ادا کیا۔ چنانچہ حضرت رسول کریم ﷺ منبر پر تشریف لائے
اور فرمایا: ”مجھے اس شخص (یعنی عبد اللہ بن ابی سلول) سے کون نجات دلائے گا جس
کی ایذا میرے گھر تک پہنچ گئی؟“

چنانچہ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا:
اے اللہ کے پیارے رسول میں آپ کو اس سے نجات دلاؤں گا، اگر وہ ہمارے
اوس قبیلے کا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور اگر اس کا تعلق ہمارے ان بھائیوں سے ہے
جو خزرج قبیلے سے ہیں تو آپ ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیں، ہم بجالائیں گے۔
اس پر حضرت سعد بن عبادہ انصاری خزرجی کھڑے ہوئے اور ان کو سخت جواب دیا۔

اس کے بعد حضرت اسید کھڑے ہوئے تو انہوں نے سعد بن عبادہ کا رد کیا۔
یہ صورت حال دیکھ کر حضرت نبی اکرم ﷺ انہیں خاموش کرانے لگے۔^①

آپ کو معلوم تھا کہ معاملہ بڑا نازک ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری سے قبل، اوس اور خزرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنا حکمران بنا لیں، چونکہ اس کا ان کے ہاں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اور یہی وہ شخص تھا جو جنگ احد کے دن لشکر کا تیسرا حصہ واپس لے آیا تھا۔

چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر اس شخص کو کوڑے لگوانے سے گریز کیا۔ اس شخص کو کوڑے کیوں نہ لگائے؟ صرف مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھ کر کیونکہ آپ نے بھانپ لیا کہ اس کو کوڑے نہ لگانے کی بہ نسبت کوڑے لگوانا زیادہ خطرناک ہے۔

اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی بھانپ لیا کہ قصاص میں جلدی کی بجائے دیر کرنے میں فساد بہت کم ہوگا۔ بلکہ درحقیقت آپ رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان کو (فوری طور پر) قتل کرنے پر قادر ہی نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امن و امان کی حالت تسلی بخش نہ تھی اور فتنہ دبا نہیں تھا اور قاتلین عثمان کے قبائل اپنے اپنے مجرموں کا دفاع کرنے پر تلے بیٹھے تھے، اور پھر فوری قصاص لینے کی صورت میں کون ضمانت دیتا کہ وہ حضرت علیؑ کو بھی قتل نہ کر دیتے؟ جبکہ آخر کار انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد قتل کر دیا تھا۔

اسی بنا پر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی قاتلین عثمان سے قصاص نہ لیا۔

کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس حقیقت کو دیکھنے لگے تھے جو حضرت علیؑ دیکھ چکے تھے، البتہ حضرت علیؑ اس صورت حال کو حقیقتاً دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت معاویہؓ

① صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث افک حدیث نمبر: ۴۱۴۱، مسلم کتاب التوبة: ۵۶

اسے نظری طور پر دیکھتے تھے۔ اور جب خود ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہیں بھی اصل صورتحال وہی نظر آئی جو حضرت علیؓ کو نظر آئی تھی، یہ درست ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے دورِ امارت میں مختلف آدمی بھیج کر بعض قاتلین عثمان سے قصاص لے بھی لیا تھا۔ لیکن دوسرے بہت سے قاتلین حجاج بن یوسف کے دور یعنی عبدالملک بن مروان کی خلافت تک زندہ رہے، حتیٰ کہ اس دور میں آخری قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔^①

مقصد یہ ہے کہ حضرت علیؓ کسی کمزوری کی بنا پر قصاص میں تاخیر نہ کر رہے تھے بلکہ امت پر شفقت کی بنا پر ایسا ہوا تھا۔ جب یہ معرکہ جمل ختم ہوا تو حضرت علی المرتضیٰؓ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کو سنبھالا اور انہیں حضرت رسول کریم ﷺ کے حکم کے مطابق عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا کیونکہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت رسول کریم ﷺ نے خبر دی تھی کہ:

تیرے اور عائشہ کے درمیان اختلاف ہوگا۔

تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! (اس صورت) میں سب سے زیادہ بد بخت ہوں گا۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہیں بلکہ جب یہ موقع آئے تو اسے اس کے محفوظ مقام پر بھیج دینا۔^②

چنانچہ آپ نے وہی کیا جس کا آپ کو رسول کریم ﷺ نے حکم دیا تھا۔

① جب حجاج بن یوسف ثقفی نے گورز عراق کی حیثیت سے کوفہ میں خطبہ دیا اور لوگوں کو محاذ جنگ پر پہنچنے کا حکم دیا تو اس وقت ایک بوڑھا کوئی پیش خدمت ہوا اور اپنی جگہ اپنے بیٹے کو محاذ جنگ پر بھیج کر خود گھر میں رہنے کی درخواست کرنے لگا۔ چنانچہ حجاج نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ جب وہ واپس پلٹا تو کسی نے حجاج سے کہا: اے امیر! آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ عمیر بن صابی ہے جس نے امیر المؤمنین عثمانؓ کی لاش کو ٹھوکرا کر اُن کی پسلیاں توڑ دی تھیں۔ یہ سن کر حجاج نے اسے واپس بلایا اور اس سے پوچھا: «أنت الذی کسر ضلعنی امیر المؤمنین عثمانؓ؟» یہ خاموش ہو گیا تو اس نے جلا سے کہا: اس منافق کی گردن اُڑا دے تو اس نے تلوار سے اس کی گردن اُڑادی۔ [مترجم]

② مسند احمد ۶/۳۹۳، قال الحافظ فی الفتح و سندہ حسن ۱۳/۶۰

جنگ صفین [۳۷ھ]

جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل شام کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

اب ضروری ہے کہ معاویہؓ میری بیعت کریں۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا (اور اس جنگ سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی) کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کریں لیکن وہ بیعت کا مطالبہ مسترد کر چکے تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک لاکھ افراد پر مشتمل لشکر لے کر شام کے اندر صفین کے مقام پر پہنچ گئے۔

جب حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کی چڑھائی کے متعلق سنا تو منبر پر تشریف لائے اور کہا: حضرت علی، عراق سے ایک لشکر لے کر تمہاری طرف نکلے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے اپنی ٹھوڑیاں اپنے سینوں پر رکھ لیں اور سر تسلیم خم کر دیے۔ چنانچہ حضرت ذوالکلاع حمیری کھڑے ہوئے اور کہا:

رائے آپ دیں اور عمل ہم کریں گے اور باقی تمام حاضرین خاموشی سے بیٹھے رہے! یہ تھا شامی لشکر کا نظم و ضبط!

ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: معاویہ شام سے ایک لشکر لے کر تمہاری طرف آرہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جو اباً پوری مسجد شور شرابے سے بھر گئی اور کچھ کہنے لگے امیر المومنین، مشورہ یہ ہے..... اور کچھ کہتے ہیں امیر المومنین مشورہ وہ ہے..... حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے شور شرابے کی وجہ سے ان کی کوئی بات سمجھ نہ پا رہے تھے، جب شور شرابا زیادہ ہونے لگا

تو آپ منبر سے اتر آئے اور اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگے۔^①
 وہ تھا حال اہل شام کا! اور یہ تھی کیفیت اہل عراق کی! اسی لیے عبد اللہ بن
 زبیر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان سے لڑائی کے دوران کہا تھا کاش کہ
 میرے پاس یہاں کے دس آدمیوں کی بجائے ایک شامی ہوتا۔ کیونکہ اہل شام
 ثابت الاقدام اور جنگ باز تھے جبکہ اہل عراق انارکسٹ اور شوریدہ سر تھے۔ (اس
 کی تفصیل آگے آرہی ہے) اس کے بعد انہوں نے ہی خود حضرت علی
 المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور انہوں نے ہی آپؐ کو شہید کر دیا۔ (اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ
 رَاجِعُونَ) رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ماہ صفر ۳۷ھ کو صفین میں پہنچے۔

تاریخ اسلام میں صبح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا:
 آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کے بارے تنازع کیوں کرتے ہیں؟ کیا
 آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہیں؟

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضرت
 علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن تم نہیں جانتے کہ
 حضرت عثمان کو ظماً قتل کر دیا گیا؟ اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں اور ان کے
 قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں..... تم حضرت علیؑ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ قاتلین
 عثمان کو میرے حوالے کر دیں اور میں یہاں کا انتظام ان کے سپرد کر دوں گا۔

چنانچہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کی
 لیکن انہوں نے قاتلین عثمان کو ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔^②

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے تھے اور نہ کبھی آپ نے حضرت

① تاریخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدين ص: ۵۴۰

② تاریخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدين ص: ۵۴۰

علیؑ سے خلافت کے معاملے میں جھگڑا کیا اور جب ان میں جنگ صفین ہوئی (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے) اور پھر تحکیم پر اتفاق ہو گیا تو حضرت علیؑ نے اس موقع پر یہ عبارت لکھی۔

”هَذَا مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ“

”یہ تحریر ہے جس کے مطابق امیر المؤمنین علیؑ نے معاویہ بن ابوسفیانؓ سے معاہدہ کیا ہے۔“

تو اس پر حضرت معاویہ نے کہا: امیر المؤمنین کا لفظ نہ لکھو، اگر میں آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیتا تو آپ کی بیعت کر لیتا اور آپ سے جنگ نہ کرتا۔ البتہ آپ فقط اپنا اور میرا نام لکھئے۔

پھر حضرت معاویہؓ نے کاتب کی طرف رخ کیا اور کہا: ان (حضرت علیؑ) کا نام میرے نام سے پہلے لکھو کیونکہ ان کو فضیلت حاصل ہے اور آپ سابق الاسلام ہیں۔ حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علی المرتضیٰؑ کے درمیان اس طرح کبھی جنگ نہیں ہوئی کہ ایک خلیفہ المسلمین، دوسرے خلیفہ المسلمین سے لڑ رہا ہے۔ بلکہ لڑائی کا سبب یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰؑ، حضرت معاویہؓ کو معزول کرنا چاہتے تھے اور حضرت معاویہؓ اپنی معزولی کو اس وقت تک قبول کرنے پر تیار نہ تھے جب تک ان کے چچا زاد بھائی کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لیا جائے، یا وہ آپ کے سپرد نہ کر دیئے جائیں۔

ورنہ خلافت کے موضوع پر ایسا کوئی تنازعہ نہ تھا جس کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ حضرت علیؑ کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ اور حضرت معاویہؓ کے لشکر کی تعداد ستر ہزار افراد پر مشتمل تھی اور تین دن اور رات لڑائی ہوتی رہی، جو بہت سے لوگوں کے مارے جانے کے بعد ختم ہوئی (جس طرح کہ آگے آ رہا ہے) اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسرؓ بھی شہید ہو گئے جو حضرت علیؑ کے لشکر میں تھے اور جن سے حضرت رسول کریم ﷺ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ: ”ويحك يا عمار! تقتله الفئة الباغية“ اے عمار! تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔^①

① صحیح بخاری کتاب الصلوة، باب التعاون فی بناء المسجد رقم: ۴۴۷، مسلم۔ کتاب الفتنہ: ۷۰

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث « تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ » کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”میں اس کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، اسے چھوڑ دینا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے، اور آپ نے فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں باغی گروہ نے قتل کیا اور خاموش ہو گئے۔^①

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

جمہور علمائے اہل السنۃ ان لوگوں کے برحق ہونے کے قائل ہیں، جنہوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ حضرت علیؓ کے خلاف لڑے وہ باغی تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس موقف پر بھی متفق ہیں کہ ان میں سے کسی کی مذمت نہ کی جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا لیکن غلطی کھا بیٹھے۔^②

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اہل السنۃ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے باہمی تنازعات کی بنا پر کسی صحابی پر زبان درازی یا نکتہ چینی کرنا منع ہے خواہ یہ پتہ بھی چل جائے کہ ان میں فلاں گروہ حق پر ہے، کیونکہ وہ اجتہاد کی بنا پر لڑے تھے۔^③.....

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کے طرفداروں کے مذہب کو مضبوط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

① السنۃ للخلال ص: ۶۳-۷۲۲
 ② فتح الباری ۱۳/۷۲
 ③ فتح الباری ۱۳/۳۷۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں اسی باغی گروہ نے قتل کیا ہو جس نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی حضرت علیؓ سے صلح کو سبوتاژ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں تیر برسائے تھے۔
 * سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے کوفہ والو! میری گردن میں ایک چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں رکھ دوں۔ جان لو کہ ایک مرتبہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے پاس معاویہؓ بھی تھے۔ اسی دوران وحی الہی کا نزول ہونے لگا چنانچہ آپ نے میرے ہاتھ سے قلم لے کر معاویہؓ کے ہاتھ میں تمہا دیا۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے اپنے دل میں ذرہ برابر ملال نہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبردار! آگاہ رہنا کہ مسلمان وہی ہے جو میرے اور ان کے تنازعے میں اپنے آپ کو سلامت رکھے۔ [طبقات حنابلہ جلد دوم: ص ۱۶۵]

”اگر مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کے اختلاف کے وقت گھروں میں دیک جانا واجب ہوتا، تو نہ کوئی حد قائم کی جاتی، اور نہ کسی باطل کو روکا جاسکتا تھا اور فاسقوں کو محرمات کے ارتکاب کے لیے کھلا راستہ مل جاتا۔“^①

میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت صحیح ہے جب معاملہ واضح اور آشکارا ہو۔ لیکن جب صورتحال مشتبہ ہو تو اس وقت فتنوں سے دور رہنا ہی واجب ہے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس معرکہ میں شرکت سے باز رہے۔

لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اسی موقف پر ایمان رکھیں کہ حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ، اسی طرح حضرت علیؓ اور ان حضرات کے طرفدار محض اجتہاد کی بنا پر لڑے کیونکہ صورتحال بڑی پرفتن تھی اور خاص طور پر معرکہ جمل کے لیے کوئی تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ لڑنا چاہتے تھے۔

امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ پر جمہور علمائے امت سے نقل کیا ہے کہ اس پر بحث ہی نہ کی جائے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”اگر کوئی کہنے والا کہے کہ حضرت علیؓ نے ان سے لڑائی میں پہل کی تو اسے جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے حضرت علیؓ کی بیعت اور ان کی اطاعت سے انکار کرنے میں پہلو تہی کی اور آپ کو حضرت عثمانؓ کے قتل میں شریک اور ظالم ٹھہرایا اور ان کے متعلق جھوٹی شہادت قبول کی۔ کیونکہ اہل شام میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ حضرت علیؓ قتل عثمانؓ پر راضی تھے۔“

اور اہل شام کے ہاں یہ جھوٹی شہادت مندرجہ ذیل چار وجوہات کی بنا پر سند قبولیت حاصل کر گئی تھی۔

- ① امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے انتقام نہ لینا۔
- ② جنگ جمل
- ③ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دار الخلافہ بنانا، جبکہ کوفہ، قاتلان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی چھاؤنی تھی۔
- ④ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان لوگوں کا موجود ہونا، جو قتل سیدنا عثمانؓ میں ملوث تھے۔

مذکورہ بالا چاروں وجوہات کی بنا پر شام کے (ان پڑھ) عوام کو شک ہو گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں حضرت علی المرتضیٰؓ کا ہاتھ ہے، حالانکہ حضرت علیؓ کا ان کے قتل میں کوئی ہاتھ نہ تھا، بلکہ آپ قاتلین عثمان پر لعنت کرتے تھے۔

اگر کہا جائے کہ صرف اتنی بات پر (شامیوں کے خلاف) لشکر کشی جائز نہ تھی (بلکہ ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی) تو جواب دیا جائے گا کہ: اہل شام کے لیے بھی جائز نہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بنا پر لڑتے کہ وہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے میں بے بس ہیں، بلکہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قاتلان عثمانؓ سے قصاص لینے کی طاقت رکھتے بھی ہوتے اور انہیں تاویل کی بنا پر یا خطاً چھوڑ بھی دیتے تو ان کی اس کوتاہی پر جماعت میں تفریق ڈالنے اور ان کی بیعت سے انکار کرنے کی گنجائش نہ تھی بلکہ آپ کی بیعت، ہر حال میں دین الہی کے لیے درست ترین اور مسلمانوں کے لیے نفع مند تھی۔

ان معرکوں میں کون کون سے صحابہ رسول شریک ہوئے؟

جنگ جمل یا جنگ صفین میں شریک ہونے والے صحابہ کرام یہ تھے۔
حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت عبداللہ

بن زبیرؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت معاویہؓ،
 حضرت عمرو بن العاصؓ، حضرت قیس بن سعدؓ، حضرت قعقاع بن عمروؓ، حضرت
 جریر بن عبداللہؓ، حضرت خزیمہ بن ثابتؓ، حضرت ابوقنادہؓ، حضرت ابوالہشیم بن
 التیہانؓ، حضرت سعد بن سہلؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت عبداللہ بن جعفرؓ،
 حضرت عدی بن حاتمؓ، حضرت اشعث بن قیسؓ، حضرت جاریہ بن قدامہؓ،
 حضرت فضالہ بن عبیدؓ، حضرت نعمان بن بشیرؓ۔ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ)

اور جن صحابہ نے ان جنگوں میں حصہ نہ لیا وہ یہ تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص (فاتح ایران)، حضرت سعید بن زیدؓ، حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ، حضرت محمد بن مسلمہؓ، حضرت اسامہ بن زیدؓ، حضرت ابو ہریرہؓ،
 حضرت احنف بن قیسؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عمران بن حصینؓ، حضرت انسؓ
 بن مالکؓ، حضرت ابوبکر ثقفیؓ، حضرت ابویوب انصاریؓ، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ،
 حضرت ابوسعود انصاریؓ، حضرت ولید بن عقبہؓ، حضرت سعید بن العاص (اموی)
 حضرت عبداللہ بن عامر (اموی)، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت ابو ہریرہؓ سلمیؓ،
 حضرت اہبان بن صفیؓ، حضرت سلمہ بن اکوعؓ۔



تحکیم (ثالثی) کا واقعہ

معرکہ صفین تحکیم (ثالثی) پر ختم ہو گیا۔ چونکہ نیزوں پر مصاحف (قرآن کے نسخے) بلند کر دیئے گئے تھے اور فریقین جنگ سے رک گئے اور یہ بات طے کر کے کہ رمضان المبارک میں تحکیم (ثالثی کونسل کا اجلاس) ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فہ اور حضرت معاویہ شام چلے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو اپنے اپنے ثالثی نمائندے کے طور پر مقرر کر دیا۔ اور تحکیم (ثالثی کونسل) کا قصہ اس طرح مشہور ہے کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کی معزولی پر اتفاق کر لیا۔ چنانچہ پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری منبر پر چڑھے اور کہا میں حضرت علیؓ کو معزول کرتا ہوں، (اور انہیں خلافت سے یوں جدا کرتا ہوں) جس طرح اپنی اس انگوٹھی کو انگلی سے جدا کرتا ہوں، پھر انہوں نے اپنی انگوٹھی (انگلی سے) نکال دی۔ پھر عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور کہا: میں بھی حضرت علیؓ کو یوں ہی خلافت سے معزول کرتا ہوں جس طرح ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا اور میں بھی حضرت ابو موسیٰؓ کی طرح حضرت علیؓ کو اس طرح خلافت سے جدا کرتا ہوں جس طرح اپنی اس انگوٹھی کو جدا کر رہا ہوں اور حضرت معاویہؓ کو اس طرح برقرار رکھتا ہوں جس طرح اپنی اس انگوٹھی کو! چنانچہ شور اٹھا اور حضرت ابو موسیٰؓ غصے ہو کر حضرت علیؓ کے پاس کوفہ جانے کی بجائے مکہ چلے گئے اور عمرو بن العاص شام کی طرف لوٹ گئے۔^①

① تاریخ طبری ۵۱/۴، کامل فی التاريخ ۱۶۸/۳

المختصر یہ من گھڑت داستان ہے اور اسے ابو مخنف جیسے کذاب راوی نے گھڑا ہے اور ہم ایک سے زائد مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ شخص کذاب اور داستان گو ہے جبکہ صحیح واقعہ وہی ہے جو اہل حق نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ تحکیم (ثالثی) کے موقع پر حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰؓ سے ملے اور کہا:

اس قضیے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت ابو موسیٰؓ نے جواب دیا:

میرا خیال یہ ہے کہ: وہ (علیؓ بن ابی طالب) اس گروہ سے ہیں جس پر حضرت نبی کریم ﷺ تادم واپسیں راضی رہے۔^①

حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا:

آپ مجھے اور معاویہؓ کو کہاں چھوڑ رہے ہیں؟

حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا:

اگر تم دونوں سے تعاون طلب کیا جائے تو تم میں تعاون کی صلاحیت ہے اور اگر تم سے مستغنی ہو جائے تو عرصہ تک اللہ کا دین تم سے مستغنی رہا ہے۔ پھر یہاں پر بات ختم ہو گئی اور حضرت عمرو بن العاص، حضرت معاویہؓ کی طرف، لوٹ آئے۔ اور ان کو خبر دی اور حضرت ابو موسیٰؓ حضرت علیؓ کی طرف لوٹ آئے۔^②

پہلی روایت بلاشبہ تین وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔

① ”العواصم من القواصم بحوالہ دارقطنی (مصنف نے یہاں تاریخ کبیر امام بخاری ۵/۳۹۸) کا حوالہ دیا ہے جبکہ یہ روایت وہاں موجود نہیں البتہ العواصم من القواصم“ میں سنن دارقطنی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور محبت الدین الخطیب نے اس کے حاشیے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی مراد یہ بیان کی ہے کہ امر خلافت اس گروہ پر چھوڑ دیا جائے جس پر حضرت نبی کریم ﷺ تادم واپسیں راضی رہے۔ [ع-ج-س]

② تحکیم کی تفصیلات یحییٰ الجبلی کی کتاب مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری میں پڑھیے جو دار العاصمہ، الریاض، نے شائع کی ہے۔

- ① اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو مخنف کذاب ہے۔
- ② خلیفۃ المسلمین کو ابو موسیٰ وغیرہ معزول نہیں کر سکتے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اس سہولت کے ساتھ وہ معزول نہیں کیے جاسکتے اور محض دو آدمی امیر المؤمنین کی معزولی پر کس طرح اتفاق کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جبکہ تحکیم (ثالثی کونسل) میں جو کچھ طے ہوا، وہ یہ تھا کہ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ میں خلیفۃ المسلمین کے منصب جلیلہ پر فائز رہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں گورنر کے منصب پر برقرار رہیں۔

③ صحیح روایت وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔



جنگ نہروان [۳۷ھ]

حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے واپسی پر آپ ہی کے لشکر کے ایک باغی گروپ (خوارج) نے آپ کے خلاف خروج کر دیا اور ”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں) کا نعرہ بلند کر کے تحکیم (ثالثی) کو مسترد کر دیا اور انہوں نے آپ کے خلاف اس قدر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کر چیختے کہ ”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ حضرت علی (یہ سن کر) فرماتے ”كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلُ“ ”کہ برحق کلمے سے باطل مراد لیا جا رہا ہے۔“

اس کے بعد انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خبابؓ کو قتل کر دیا اور ان کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا حالانکہ وہ بیچاری اس ماہ زچگی کی حالت میں تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (اس ظلم کی) خبر پہنچی تو انہوں ان کی طرف پیغام بھیج کر پوچھا کہ:

انہیں کس نے قتل کیا ہے؟

خوارج نے جواب دیا کہ: ہم سب نے اسے قتل کیا ہے۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف دس ہزار کا لشکر لے کر نکلے اور نہروان میں ان کے خلاف جنگ لڑی۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن عیسیٰ الطباع نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن سلیم نے عبداللہ بن عثمان بن عقیق سے اور اس نے عبید اللہ بن عیاض بن عمرو القاری سے بیان کیا کہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن شداد، اپنی عراق سے واپسی پر ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی عرصہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق میں خارجیوں سے جنگ لڑی تھی اور یہ وہیں سے واپس آرہے تھے تو آپ نے اس سے کہا:

اے عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں، اس کے متعلق سچ بتاؤ گے؟ مجھے اس قوم کے متعلق بتاؤ جس کو حضرت علیؑ نے قتل کیا؟
اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سچ سچ نہ بتاؤں۔
آپ نے فرمایا: تو مجھے ان کا قصہ سناؤ۔

اس نے کہا کہ: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہؓ سے معاہدہ کیا اور دو آدمیوں کو ثالث مقرر کیا تو آٹھ ہزار قراء نے آپ کے خلاف خروج کیا۔ چنانچہ وہ لوگ کوفہ کے ایک طرف حروراء کے مقام پر جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ پر طعنہ زنی کرنے لگے کہ:

تو نے اس قیص کو اتار دیا جو اللہ نے تجھے پہنائی تھی اور اس نام (امیر المومنین) سے دست برداری اختیار کی جو اللہ نے تیرا رکھا تھا، پھر تو نے مزید غلطی یہ کی کہ اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنایا، جبکہ اللہ کے سوا اور کوئی حکم نہیں۔

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان باتوں کی خبر پہنچی، جن کی بنا پر وہ آپ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کر رہے تھے اور آپ سے جدا ہو رہے تھے، تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، کہ امیر المومنین کے پاس ہر آدمی قرآن لے کر حاضر ہو۔ جب سارا گھر قراء سے بھر گیا تو آپ نے بڑا مصحف منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے: اے مصحف، لوگوں کو بتا!

لوگوں نے کہا۔ اے امیر المومنین آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو محض

ورق پر سیاہی ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے ہم بولتے ہیں (نہ کہ یہ بولتا ہے) آپ کیا چاہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا، میرے اور تمہارے ان ساتھیوں (خوارج) کے درمیان، جو (کوفہ سے باہر) نکلے ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ، اپنی کتاب میں مرد اور عورت کے جھگڑے کی صورت میں فرماتا ہے۔

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ۳۵]

”کہ اگر تم لوگ ان دونوں (میاں، بیوی) کے درمیان ناچاقی سے ڈرو تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے بھیجو، اگر وہ دونوں ان کے درمیان صلح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔“

غور کیجئے! محمد ﷺ کی امت کے خون کی حرمت، مرد اور عورت کی ناچاقی سے کہیں بڑھ کر ہے اور وہ مجھ پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے معاویہ سے معاہدہ کرتے وقت صرف کَتَبَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ کیوں لکھا۔ (یعنی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں نہیں لکھا؟)

حالانکہ جب حضرت رسول کریم ﷺ اپنی قوم قریش سے مصالحت کی غرض سے حدیبیہ میں تشریف فرما تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس سہیل بن عمرو (قریش کا کمشنر معاہدہ بن کر) آیا جب رسول کریم ﷺ نے (مصالحت کے معاہدے پر) بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو، وہ کہنے لگا: بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، آپ نے فرمایا: ہم کیسے لکھیں؟ وہ کہنے لگا: لکھو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ “ بعد ازاں حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا: لکھو محمد رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا۔ اگر میں جانتا کہ آپ

اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کی مخالفت نہ کرتا۔

چنانچہ آپ نے لکھا: «هَذَا مَا صَالِحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا»

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿[الاحزاب: ۲۱]

”کہ تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور آخرت کے دن اچھائی کی

امید رکھتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ (کا طرز عمل) بہترین نمونہ ہے۔“

چنانچہ حضرت علی نے ان کی طرف عبد اللہ بن عباسؓ کو بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا جب ہم ان کے لشکر کے درمیان پہنچے تو ابن الکواء نے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا اور کہا:

اے قرآن کے حاملین، یہ شخص عبد اللہ بن عباسؓ ہے، اگر تم میں سے کوئی اسے نہ جانتا ہو تو میں کتاب اللہ سے اس کا تعارف کرواتا ہوں، یہ وہ ہے، جس کے متعلق اور جس کی قوم کے متعلق ﴿قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾^① کے الفاظ نازل ہوئے ہیں، اسے اس کے ساتھیوں کے پاس واپس بھیج دو، اور اس کے ساتھ کتاب اللہ سے مباحثہ نہ کرنا۔

لیکن اس کی قوم کے خطباء کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اللہ کی قسم، ہم اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس سے گفتگو کریں گے، اگر اس نے ہمارے علم کے مطابق حق پیش کیا تو اس کی پیروی کریں گے اور اگر باطل پیش کیا تو ہم اسے لاجواب کر دیں گے۔

چنانچہ انہوں نے تین دن تک عبد اللہ بن عباسؓ سے کتاب اللہ کے حوالے سے بحث کی، تو ان میں سے چار ہزار (۴۰۰۰) افراد توبہ تائب ہو کر واپس لوٹ گئے

① جھگڑا کرنے والی قوم۔

جن میں ابن الکواء بھی تھا اور وہ انہیں لے کر کوفہ میں حضرت علی کے پاس آ گیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی خارجیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے مخالفین کے درمیان جو کچھ طے ہوا ہے اس کا تمہیں پتہ چل چکا ہے لہذا امت محمدیہ کے درمیان اتفاق ہو جانے تک تم جہاں چاہو، سکونت اختیار کرو اور ہم اس وقت تک تم سے جنگ نہ کریں گے، جب تک تم بے گناہوں کے قتل کرنے اور ڈاکہ زنی کرنے اور ذمہ توڑنے سے باز رہے، اگر تم مذکورہ بالا جرائم کرو گے تو ہم تمہارے جرائم کے مطابق تم سے لڑیں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے ابن شداد! کیا پھر آپ ان سے لڑے؟ تو عبداللہ بن شداد نے کہا: ”اللہ کی قسم! انہوں نے اس وقت تک ان کی طرف فوج کشی نہ کی جب تک انہوں نے راہزنی نہ کی اور ناحق خون نہ کیا اور اہل ذمہ کے مال و جان کو حلال نہ سمجھا۔“

حضرت عائشہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! کیا واقعی ایسا ہوا؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ایسا ہی ہوا۔ آپ فرمانے لگیں: وہ کیا بات ہے جو اہل ذمہ کی زبانی مجھ تک پہنچی ہے؟ وہ کہتے ہیں ذوالثدی، ذوالثدی (یعنی پستان والا شخص) اس نے کہا: میں نے اسے دیکھا اور اس وقت میں حضرت علیؑ کے ساتھ مشق تو لیں کے درمیان کھڑا تھا، چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو؟

تو ان میں سے ہر کوئی صرف اتنا ہی بتا رہا تھا کہ میں نے اسے فلاں فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا تھا، میں نے اسے فلاں قبیلے کی مسجد

میں نماز ادا کرتے دیکھا تھا، اور اس کے متعلق کوئی یقینی خبر بیان نہیں کر رہا تھا۔
حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا فرمایا: اہل عراق کے بقول وہ کیا بات تھی جو حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر کھڑے ہو کر کہی؟

عبداللہ بن شداد نے کہا: میں نے آپ کو وہاں پر کہتے ہوئے سنا: ”صَدَقَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ (اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا)

ام المؤمنین نے کہا: ”کیا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہتے ہوئے سنا؟
عبداللہ بن شداد نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم!

ام المؤمنین نے فرمایا: اللہ حضرت علیؑ پر رحم فرمائے۔ ”صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“
ان کا تکیہ کلام تھا کہ وہ جب کسی تعجب انگیز چیز کو دیکھتے تو فرماتے تھے: ”صَدَقَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ لیکن اہل عراق ان کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے کلام میں
اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں۔^①

اور خارجیوں کی تعداد ایک ہزار (۱۰۰۰) تھی جو موت کے گھاٹ اتر گئی جبکہ
حضرت علی کے لشکر میں صرف چار اور بعض روایات میں سات افراد شہید ہوئے۔^②
اور ان کے درمیان وہ پستانوں والا ٹنڈا (حرقوص بن زہیر) بھی تھا جسے حضرت علیؑ
نے مقتولین میں تلاش کیا تھا۔

اور یہ واقعہ بعینہ اسی طرح ہوا جس طرح حضرت رسول مقبول ﷺ نے
پیشگی بتایا تھا، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا:

« أَنَّهُ تَخْرُجُ فِرْقَةٌ عَلَى حِينِ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى
الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ »^③

① مسند احمد تحقیق احمد شاکر ۶۵۶ وقال اسنادہ صحیح

② البداية والنهاية ۲۹۸/۷

③ مسلم کتاب الزکوٰۃ ۱۴۸ وما بعد دیکھئے صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة: ۳۶۰۱

”کہ وہ فرقہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے وقت نکلے گا، اسے وہ
 گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔“
 ایک اور حدیث میں ہے کہ ((اِنَّ فِيْهِمْ ذُو الثَّدِيَّةِ))^① کہ ان کے مقتولین
 میں پستانوں والا بھی ہوگا۔“ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسے مقتولین میں تلاش کر
 رہے تھے، جب وہ مل گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر اللہ کو سجدہ کیا۔^② کیونکہ وہ
 جان گئے کہ آپ حق پر ہیں۔



.....
 ① مسلم کتاب الزکوٰۃ ۱۴۸، صحیح بخاری کتاب المناقب: ۳۶۰۱
 ② مسند احمد تحقیق احمد شاکر ۱۵۴/۲ اسنادہ صحیح: ۷۴۸

شہادت امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب [۴۰ھ]

جنگ نہروان کے تقریباً دو سال بعد جبکہ حالات قدرے معمول پر آ رہے تھے، کہ تین خارجی (کوفہ سے نکل کر) مکہ میں جمع ہوئے اور باہمی معاہدہ کیا کہ وہ علیؑ بن ابی طالب اور معاویہؓ بن ابوسفیان اور عمرو بن العاص کو قتل کر دیں۔ وہ اپنے (فاسد عقیدے کے مطابق) کہنے لگے کہ ہم ان تینوں کو قتل کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے اور پھر لوگوں کو ان کے قتل سے سکون مل جائے گا۔ چنانچہ عبدالرحمن بن ملجم مرادی کہنے لگا کہ میں علی بن ابی طالب کا قتل اپنے ذمہ لیتا ہوں۔

برک تیمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: ”میں معاویہؓ کا قتل اپنے ذمہ لیتا ہوں۔

عمرو بن بکر تیمی کہنے لگا: ”میں عمرو بن العاص کو ٹھکانے لگاؤں گا۔

چنانچہ یہ تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ سترہ (۱۷) رمضان المبارک کی رات کو اس پلان پر عمل کیا جائے۔

حضرت عمرو بن العاص، مصر میں تھے اور حضرت معاویہؓ شام میں تھے اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے۔ چنانچہ ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے لیے نکلتے وقت اس خنجر سے قتل کیا جسے وہ ہفتہ بھر زہر میں بجھاتا (پان دیتا) رہا تھا۔

جب حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ زخمی تھے تو آپ نے فرمایا: اگر میں بچ گیا تو میں اس پر دلیل سے غالب آؤں گا اور اگر میں شہید ہو گیا، تو اسے میرے بدلے

میں قتل کر دینا ، یہ سن کر یہ ملعون کہنے لگا: ”اللہ کی قسم یہ بیچ نہ سکے گا کیونکہ میں نے اس خنجر کو ایک جمعہ تک زہر میں بچھایا ہے۔ (یعنی یہ ملعون پورا ہفتہ اپنے خنجر کو زہر کی پان دیتا رہا)

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور تو لوگوں نے اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیئے اور اس کی آنکھوں میں انگاروں جیسی سلائیاں پھیر دیں، لیکن یہ بے حس و حرکت پڑا رہا اور کسی طرح کی آہ و بکا اور گریہ زاری نہ کی۔ جب انہوں نے اس کی زبان، کاٹنے کا ارادہ کیا تو یہ ڈر گیا۔

انہوں نے کہا: کیوں؟ کیا وجہ ہے اب کیوں رو رہے ہو، کیا اب تکلیف ہوگی؟ کہنے لگا: میں ڈرتا ہوں کہ میں ایسی گھڑی بسر کروں جس میں اللہ کا ذکر نہ کر سکوں۔ سبحان اللہ! اس صریح گمراہی پر غور کرو کہ (عمیادُ ابا اللہ) یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کے خون کو مباح سمجھتا ہے پھر اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو!۔

دوسری طرف برک تمیمی بھی فجر کی نماز کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نکلا اور آپ کو تلوار سے زخمی کر دیا، لیکن آپ علاج کے بعد تندرست ہو گئے، البتہ آپ کی رگ تناسل کٹ گئی۔

جبکہ عمرو بن بکر تمیمی، عمرو بن العاص کے ارادے سے نکلا لیکن اس روز وہ پیٹ میں خرابی کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اس نے قائم مقام امام خارجہ بن ابی حبیب کو عمرو بن العاص سمجھ کر نماز میں شہید کر دیا۔

جب وہ پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا: تو نے کیا کیا؟

اس نے کہا: ”میں نے لوگوں کو عمرو بن العاص سے آرام پہنچایا ہے۔“

انہوں نے کہا: ”تو نے عمرو کو نہیں بلکہ خارجہ کو قتل کیا ہے۔“
 وہ کہنے لگا: ”میں نے تو عمرو کا کام تمام کرنا تھا، لیکن اللہ نے خارجہ کا کام تمام
 کر دیا۔“^①

چنانچہ عبدالرحمن بن ملجم مرادی کی طرح عمرو بن بکر تمیمی اور برک تمیمی کو بھی
 موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔^②



① اس کی یہ بات ضرب المثل بن گئی۔

② الطبقات الكبرى ۳/۳۵، البداية والنهاية: ۷/۳۳۸

صحابہؓ کے درمیان اختلاف کے اسباب

حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت طلحہ، زبیر، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف کا مشہور سبب یہ ہے :

حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے نکلے تھے، جبکہ حضرت معاویہ نے اس غرض سے خروج نہیں کیا تھا بلکہ ان کے خروج کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی تو انہوں نے حضرت عثمان کے مقرر کیے ہوئے بعض گورنروں کو معزول کر دیا جن میں حضرت خالد بن سعید بن العاصؓ اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان بھی شامل تھے۔

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزولی کا حکم پہنچا تو انہوں نے معزولی کے حکم کو مسترد کر دیا اور کہا میں کس کی طرف سے معزول سمجھا جاؤں؟ انہوں نے کہا: حضرت علیؓ کی طرف سے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے چچا زاد بھائی کے قاتل کہاں ہیں؟ حضرت عثمانؓ کے قاتل کہاں ہیں؟

انہوں نے کہا: پہلے ان کی بیعت کرو پھر حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کا مطالبہ کرو۔ آپ نے کہا: نہیں! بلکہ وہ حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو میرے سپرد کریں پھر میں ان کی بیعت کروں گا۔

شائد اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس شام کے صوبہ کی قوت ہے اور اس قوت کے بل بوتے پر حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے

دباؤ بڑھایا جاسکتا ہے۔

اس لیے آپ نے فرمایا: ”میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لیا جائے۔ لیکن حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ پہلے بیعت کرو اور پھر عثمانؓ کے قاتلوں سے انتقام پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ بیعت پہلے کی جائے یا حضرت عثمانؓ کا قصاص پہلے لیا جائے۔ حضرت علیؓ سمجھتے تھے کہ پہلے وہ بیعت کریں پھر جب حالات پرسکون ہو جائیں گے اور امن و امان بحال ہو جائے گا تو پھر قاتلان عثمان کے مسئلہ پر غور کیا جائے گا۔

جبکہ حضرت معاویہؓ کی رائے اس کے برعکس تھی، ان کا خیال تھا کہ منصب خلافت پر فائز ہونے والوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قاتلان عثمان سے قصاص لیں، اس کے بعد خلافت کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان اولیت پر اختلاف تھا کہ پہلے کون سا کام کیا جائے۔ قاتلان عثمان سے قصاص یا خلافت کو تسلیم کرنا۔

حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کی رائے بھی حضرت معاویہؓ کے موافق تھی کہ قاتلان عثمانؓ سے جلد از جلد قصاص لیا جائے۔ البتہ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان فرق یہ تھا کہ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ حضرت علیؓ کی بیعت کر چکے تھے جبکہ حضرت معاویہؓ نے ابھی تک ان کی بیعت نہ کی تھی۔



ان جنگوں کے متعلق صحابہ کرام کا موقف

صحابہ کرام اس مسئلہ پر تین گروہوں میں بٹ گئے۔

پہلا گروہ: حضرت طلحہ وزبیر اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم

یہ گروہ سمجھتا تھا کہ قاتلان عثمان سے جلدی قصاص لیا جائے۔

دوسرا گروہ: حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے رفقاء کرام، اس گروہ کا خیال تھا کہ

پہلے منصب خلافت کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔

تیسرا گروہ: حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت محمد

بن مسلمہ، احنف بن قیس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو بکرہ ثقفی

(رضی اللہ عنہم) جیسے صحابہ پر مشتمل تھا یہ طبقہ سمجھتا تھا کہ اس موقع پر دونوں

گروہوں سے علیحدگی اختیار کی جائے۔

ان جنگوں اور اختلافات کا سبب یہ تھا کہ معاملات مشتبہ تھے اور فتنہ کا دور

دورہ تھا۔ اس لیے کوئی بھی اس مسئلے پر تسلی بخش غور نہیں کر سکتا تھا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ احنف بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ

انہوں نے فرمایا: کہ حضرت عثمان کے محاصرے کے بعد، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما

سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان دونوں سے کہا:

تم دونوں مجھے کیا حکم دیتے ہو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قتل ہو جائیں گے؟

دونوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل جانا!

اور پھر جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو میں مکہ مکرمہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملا، تو ان سے پوچھا: کہ آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں؟
 آپ نے فرمایا: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جاؤ۔“
 (اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ طاہرہ، رضی اللہ عنہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کبھی معترض نہ ہوئے، کیونکہ وہ خلافت پر ان کی بیعت کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت احنف کوان کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں۔ مگر اس مسئلہ (قصاص قتل عثمانؓ) میں انہوں نے اجتہاد کیا کہ اس کو اولیت دی جانی چاہیے۔
 اور جب صحابہ کرام معرکہ جمل کی طرف نکل رہے تھے، تو حضرت احنف بن قیسؓ ان سے ملے اور ان سے کہا: ”اللہ کی قسم میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تمہارے ساتھ ام المومنین ہے، اور نہ ہی اس آدمی (حضرت علیؓ) سے لڑوں گا جس کی بیعت کا حکم، آپ نے ہی مجھے دیا تھا۔“^①
 حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ
 ”اے علیؓ: ”تیرے اور عائشہؓ کے درمیان تنازعہ ہوگا، لہذا اس سے نرمی کرنا۔“
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”پھر تو میں بد بخت انسان ہوں گا، اے اللہ کے رسول (ﷺ)۔“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! البتہ جب ایسا ہو تو اسے امن والی جگہ پہنچا دینا۔“^②



① فتح الباری ۱۳/۳۸، نیز دیکھئے تاریخ طبری

② فتح الباری ۱۳/۶۰

قاتلان صحابہ کے متعلق اہل سنت کا موقف

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کہ ہمارے نزدیک ابن جہم (ملعون) ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم جہنم کی امید رکھتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے درگزر کر لے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا کوئی فیصلہ بھی نہیں ٹھونس سکتے اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو قاتل عثمانؓ اور قاتل زبیرؓ اور قاتل طلحہؓ اور قاتل سعید بن جبیرؓ اور قاتل عمارؓ اور قاتل خارجہؓ اور قاتل حسینؓ کا ہے۔^①

ہم ان سب سے برأت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ان سے نفرت رکھتے ہیں اور ان کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔^②

صحابہ کے درمیان اختلافی معاملات میں حق کہاں ہے؟

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ کے بارے فرمایا تھا: ”کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور آپ نے خارجیوں کے متعلق فرمایا: کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے وقت نکلیں گے اور انہیں وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔

چنانچہ یہ دونوں حدیثیں صریح ہیں کہ حق، حضرت علیؓ کے قریب تھا کیونکہ حدیث میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں:

”تَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ“

”ان (خارجیوں) کو دونوں میں سے وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کی طرف

زیادہ قریب ہوگی۔“..... اور ایک روایت میں ہے:

”أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ“

”دونوں جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ لائق ہوگی۔“

لہذا یہ دونوں حدیثیں اس بات پر نص ہیں کہ حضرت علیؓ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے مخالفین سے حق کے زیادہ قریب تھے۔ لیکن مکمل طور پر حق پر نہ تھے۔ کیونکہ حضرت

① ان سب کے متعلق ایک ہی حکم ہے کہ یہ ملت سے خارج نہیں، اور ہم ہزم کے ساتھ انہیں کفار بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجرم اور فاسق ہیں الایہ کہ ان میں کوئی توبہ کر گیا ہو۔

② تاریخ اسلام، عصر خلفاء راشدین ۶۵۴، ترجمہ عبد الرحمن بن ملجم

رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا: «الْأَقْرَبُ إِلَيَّ الْحَقُّ» (حق کے زیادہ قریب) «الْأَوْلَى بِالْحَقِّ» (حق کے زیادہ لائق) یہ نہیں فرمایا کہ وہ جماعت مکمل طور پر برحق ہوگی۔

یہ تجزیہ کوئی حضرت علیؑ پر تنقید و طعن نہیں ہے بلکہ اس بات سے وضاحت کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ اس فتنہ میں الگ تھلگ تھے دراصل وہی حق پر تھے، جبکہ حضرت علیؑ کے لیے بھی سلامتی اسی بات میں تھی کہ وہ لڑائی سے رک جاتے کیونکہ نتائج دیکھ کر ہی رائے قائم کی جاتی ہے، اسی لیے جب حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو مقتول پایا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور پشیمان ہوتے ہوئے فرمایا:

”کاش کہ میں بیس سال قبل مر گیا ہوتا!“

اور جب جنگ صفین کے بعد حضرت حسن نے کشت و خون کی تفصیل سنائی تو حضرت علیؑ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، اس لیے وہ ان معرکوں میں شریک ہونے پر شرمندہ ہوئے۔“

دوسری طرف حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت حسنؑ کے صلح جو یا نہ کردار کی پیش گوئی فرماتے ہوئے ان کی تعریف بیان کی تھی اور فرمایا تھا:

«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^①

”کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور شاید کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرادے۔“

چنانچہ حضرت رسول کریم ﷺ نے صلح کرانے کی پیش گوئی فرماتے ہوئے حضرت حسنؑ کی تعریف بیان کی جبکہ ان کے باپ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان نہیں کی کیونکہ انہوں نے جنگ کی تھی۔ البتہ نہروان میں خارجیوں سے لڑائی کی وجہ سے ان کی تعریف بیان کی، کیونکہ اس وقت آپؐ مکمل طور پر حق پر تھے اور آپؐ نے ان سے لڑائی پر کسی طرح کا غم بھی نہیں کیا، بلکہ عام طور پر مسلمان، خارجیوں کے اس قتل پر خوش ہوئے اور حضرت علیؑ نے جب انہیں قتل کیا تو خود سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن جب اہل جمل سے لڑائی لڑی تو روپڑے اور اسی طرح جب صفین میں جنگ لڑی تو بھی سخت غمگین ہوئے۔

① صحیح بخاری، باب مناقب الحسن والحسين حديث نمبر: ۳۷۴۶

خلافت امیر المؤمنین سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما [۵۴۰ھ]

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفیوں نے حضرت حسن بن علی، رضی اللہ عنہما کی بیعت کر لی اور آپ اپنی بیعت کے بعد شامیوں سے لڑنے کے لیے کوفہ سے شام کی طرف چل پڑے کیونکہ اہل شام ابھی تک امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور ان کے بعد امیر المؤمنین حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اطاعت تسلیم کرنے سے روگرداں تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما جب کوفہ سے نکلے تو آپ کی نیت میں صلح کی خواہش تھی اور آپ کشت و خون کو پسند بھی نہ کرتے تھے بلکہ آپ اس بات کے حق میں بھی نہ تھے کہ ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل شام سے جنگ کریں۔^①

اور آپ کی نیت صلح کی علامات میں سے یہ بات بھی نمایاں تھی کہ آپ نے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو لشکر کی قیادت سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کو سپہ سالار بنا دیا۔^②

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فوجی دستوں کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے تو حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ سے کہا:

”میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک نہیں پھرے گا جب تک اس کا آخری حصہ میدان سے نہ پھرے گا۔“

تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ مسلمانوں کی اولاد کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں!

① البداية والنهاية ۲۴۵/۷

② فتح الباری ۶۷/۱۳

حضرت عبدالرحمن بن عامر اور عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: کہ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور صلح کی درخواست کرتے ہیں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکرہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، تو آپ نے فرمایا:

«إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^①

”کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور شاید کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔“

مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سفید کاغذ کے نیچے مہر لگا کر اسے حضرت حسن کی طرف بھیج دیا اور فرمایا: اس پر آپ جو چاہیں لکھ دیں وہ آپ کو ملے گا۔

عمرؤ بن العاص کہنے لگے: ”بلکہ ہم جنگ کریں گے، تو حضرت معاویہ نے فرمایا: ٹھہریے اے ابو عبد اللہ: ”(زہری کہتے ہیں اور آپ دونوں میں سے بہتر آدمی تھے) آپ ان کے قتل سے اس وقت تک خلاصی حاصل نہ کریں گے جب تک، اتنے اہل شام قتل نہ ہو جائیں۔ ان کے بعد جینے میں کوئی خیر نہ ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تو اس وقت تک لڑائی سے گریز کروں گا جب تک اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔“^②

اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملے تو آپ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے، اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے اور اس سال کا نام عام الجماعة پڑ گیا۔

① صحیح بخاری کتاب الفتنۃ حدیث: ۷۱۰۹

② مصنف عبد الرزاق ۵/۴۶۲

خلافت امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما

۶۲۰ھ تا ۶۸۰ھ

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو معاملہ خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔

سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے خادم ابو عبد الرحمن سفینہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا:

« خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُوتِي اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ »

”کہ خلافت نبوت تیس سال رہے گی پھر اللہ جسے چاہے گا اسے بادشاہی عطا

کرے گا۔“

پھر حضرت سفینہ نے فرمایا: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت دو سال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دس سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بارہ سال، حضرت علی کی چھ سال (یعنی خلافت کے یہی کل تیس سال بنتے ہیں)، اس روایت کو ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔^① مگر جب ہم کتب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں لکھا نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو سال تین ماہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس سال اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بارہ سال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چار سال نو ماہ اور حضرت حسن نے چھ ماہ خلافت فرمائی (یعنی اس طرح خلافت کل ساڑھے انتیس سال ہوئی) حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عامر بن جراح بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

« أَوَّلُ دِينِكُمْ نَبْوَةٌ وَرَحْمَةٌ - ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ ثُمَّ مُلْكٌ »

① ابو داؤد، کتاب السنة، باب فی الخلفاء حدیث ۴۶۶۶، مسند احمد ۴/۲۷۳/۵۰۲۴۴/۵۰۲۴۴

① « وَ جَبْرُوتٌ »

”کہ تمہارے دین کا ابتدائی دور نبوت اور رحمت کا دور ہے۔ پھر بادشاہت

اور رحمت کا دور ہوگا۔ پھر پست درجہ کی بادشاہت۔ پھر بے رحم بادشاہت۔“

آپ کا یہ فرمان کہ **أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَ رَحْمَةٌ** (تمہارے دین کا ابتدائی دور نبوت اور رحمت کا دور ہے) سے مراد مومنین کے لیے حضرت نبی کریمؐ کی امامت اور پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی امامت مراد ہے۔

پھر فرمایا: **« ثُمَّ مُلْكٌ وَ رَحْمَةٌ »** (پھر بادشاہت اور رحمت کا دور ہوگا) اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے۔

پھر **مَلِكٌ اَعْفَرٌ** فرمایا، اس سے مراد پست درجہ کی بادشاہت ہے۔ (اعفر کا لفظ تعفیر سے نکلا ہے اور اس کا مٹی سے لت پت ہونا ہے اور یہ کلمہ اس بادشاہت کی مذمت پر منطبق ہے جیسے عرب لوگ محاورہ بولتے ہیں **تَرَبَّتْ يَدَاكَ** کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو ہوں اور یہ کلمہ رفعت و علو کا متضاد ہے۔) اور اس کا اطلاق حضرت معاویہ کے بعد کا دور ہے خواہ وہ یزید کا دور ہو یا اس کے بعد والوں کا یعنی اموی دور خلافت۔

پھر فرمایا: **« ثُمَّ مَلِكٌ وَ جَبْرُوتٌ »** اس سے مراد بے رحم بادشاہت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے سربراہ بن گئے اور تقریباً ۲۰ سال خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز رہے۔ اور آپ کے دور امارت میں جو ۴۰ ہجری سے لے کر ۶۰ ہجری تک جاری رہا، امن و امان کی حالت تسلی بخش رہی اور فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع

① سنن دارمی کتاب الاشریہ ۱۱۴/۲ باب ما قیل فی المُسکِرِ، رجالہ ثقات إلا انه قیل ان

مکحولاً لم یسمع من ابی ثعلبۃ الخُشَنبِیِّ

② اس کا اطلاق خلافت بنو عباس اور بعد والی بادشاہتوں پر ہوتا ہے کیونکہ بنو عباس نے زبردست خونریزی سے انقلاب برپا کیا تھا اور سیاسی مخالفین کو گھروں سے نکال کر بڑی بیدردی سے قتل کیا تھا حتیٰ کہ پہلے عباسی بادشاہ کا نام ہی سفاح (خونریزی کرنے والا) پڑ گیا۔

تر ہوتا چلا گیا۔ اور اسی عرصے میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے زہر سے وفات پائی اور بعض لوگوں نے دیگر وجوہات ذکر کی ہیں۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ اس سلسلے میں صحیح سند سے کوئی خبر منقول نہیں، کہ جس سے پتہ چل سکے کہ زہر والی بات صحیح ہے یا دوسری باتیں درست ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ ۴۹ھ میں فوت ہوئے۔ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و عن ابیہ

یزید بن معاویہ کی بیعت:

۵۶ھ ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی بیعت کریں۔

حضرت معاویہ نے اس موقع پر اپنے پیش رو خلفاء کی سنت سے عدول کیا کیونکہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد خلافت کے معاملے کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا، یا حضرت ابوبکرؓ کو خلیفۃ المسلمین نامزد کر گئے۔

پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا۔

پھر حضرت عمرؓ آئے اور انہوں نے چھ افراد کو نامزد کر دیا اور اپنے بیٹے عبد

اللہ بن عمرؓ اور چچا زاد بھائی سعید بن زیدؓ کو خارج کر دیا۔

پھر حضرت عثمانؓ آئے اور انہوں نے کسی کو نامزد نہ کیا۔

پھر حضرت علیؓ آئے اور انہوں نے کسی کو نامزد نہ کیا۔

اور حضرت حسنؓ، حضرت معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یا تو آپ امر خلافت کو اس طرح رہنے

دیں جس طرح حضرت نبی کریم ﷺ نے رہنے دیا تھا۔

یا پھر ایسے کرو جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ اپنے بعد اس شخص کو خلیفہ

بناؤ جو آپ کے گھرانے سے نہ ہو۔

یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کر دو کہ انہوں نے معاملہ چھ آدمیوں پر چھوڑ دیا تھا جو ان کے گھرانے سے نہ تھے۔

یا پھر اس معاملے کو (حضرت عثمانؓ کی طرح) یوں ہی رہنے دیں۔ تاکہ مسلمان جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔

لیکن انہوں نے اسی بات پر اصرار کیا کہ یزید ہی ان کے بعد خلیفہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس موقع پر افضل طریقہ چھوڑ دیا۔ شاید آپ ڈرتے تھے کہ اس مسئلہ کو شوریٰ پر چھوڑنے سے دبے ہوئے فتنے کی چنگاری پھر بھڑک اٹھے گی نیز آپ کو اندازہ تھا کہ اطاعت، امن اور قوت اس گروہ کے پاس ہے جس میں ان کا بیٹا یزید ہے۔^①

یزید بن معاویہ کی بیعت کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف:

اہل السنۃ والجماعۃ کہتے ہیں کہ یہ بیعت صحیح تھی لیکن انہوں نے دو چیزوں کی بنا پر اس بیعت کو ناپسند کیا ہے۔

① وہ کہتے ہیں کہ یہ جدید بدعت تھی کیونکہ انہوں نے خلافت کو اپنی اولاد (کی تحویل میں) دے دیا۔ گویا اب وہ وراثت بن گئی حالانکہ اس سے پہلے وہ شوریٰ کی صوابدید پر تھی، اور اس بات پر نص تھی کہ یہ اس کے سپرد کی جائے جو قریبی رشتہ دار نہ ہو، تو پھر بیٹے جیسے قریبی رشتہ دار کو کس طرح خلافت سونپ دی جائے۔ اس قاعدے کی بنا پر بیٹے کی شخصیت خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس منصب کے لیے اس کی بیعت لینا ٹھیک نہیں۔ اس لیے اہل سنت بنیادی طور پر خلافت کو وراثت تسلیم نہیں کرتے۔

② اس وقت وہ لوگ بھی موجود تھے جو یزید سے زیادہ اہل اور خلافت کے حق دار تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین بن علیؓ اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام۔

① دیکھئے مقدمہ ابن خلدون، فصل ولی عہد کے بارے میں، ص: ۱۶۶

یہ تو ہے اہل السنۃ کا نقطہ نظر جیسے کہ امام ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے افضل طریقہ کو چھوڑ دیا (انہیں چاہیے تھا) کہ وہ اسے شوریٰ کی صوابدید پر چھوڑتے اور اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یہ منصب نہ سونپتے۔ لیکن جب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے لی اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی لہذا یہ شرعاً منعقد ہو گئی۔^①

رہے شیعہ صاحبان تو وہ امامت اور خلافت کو صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ صرف یزید کی بیعت کو ہی برا نہیں سمجھتے، بلکہ ہر اس بیعت کو برا سمجھتے ہیں، جو حضرت علی اور ان کی اولاد کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ پر ہو۔ لہذا وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہم سب کی بیعت کو برا جانتے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ مَبَايِعُ لَهُ (بیعت کیا جانے والا شخص) کیسا ہی صاحب کمال کیوں نہ ہو۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نص کے اعتبار سے حضرت علی اور ان کی اولاد ہی قیامت تک کے لیے خلافت کی حقدار ہے۔

امیر یزید بن معاویہؓ، خلافت کے لیے موزوں تھا یا نہیں؟

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی، سیدنا محمد بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب (ابن الحنفیۃ برادر سیدنا حسن و حسین) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ یزید کی بیعت توڑ دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

عبداللہ بن مطیع کہنے لگا: ”یزید بن معاویہ شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے۔“ محمد بن علی المرتضیٰ فرمانے لگے: ”جو کچھ تم بیان کرتے ہوں، میں نے اس میں نہیں دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور وہاں قیام کیا میں نے اسے نماز کا پابند اور خیر کا متلاشی پایا ہے، وہ دین کے مسائل پوچھتا ہے اور سنت کی پیروی کرتا ہے۔“

① العواصم من القواصم: ۲۲۸

وہ کہنے لگے: ”وہ آپ کو دکھلانے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا۔“
 محمد بن علی المرتضیٰ نے جواب دیا: اسے میرا کیا ڈر تھا، یا مجھ سے کیا لالچ تھا؟“
 بھلا جو کچھ تم بتا رہے ہو، وہ تمہیں اطلاع دے کر کرتا ہے؟
 وہ کہنے لگے: ”اگرچہ ہم نے اسے یہ سب کچھ کرتے نہیں دیکھا لیکن ہمارے نزدیک یہ سچ ہے۔
 حضرت محمد بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے:
 ”اللہ تعالیٰ نے شہادت والوں کی ایسی شہادت کو رد کر دیا ہے پھر آپ نے
 حق تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا:

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ۸۶] ①

”ہاں! مگر جو حقیقی شہادت دیں اور انہیں معلوم ہو۔“

لہذا یزید کی شخصیت پر چیتوں، بندروں سے کھیلنے اور شراب نوشی یا دیگر فسق و فجور
 کے الزامات صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکے، اس لیے ہم ان کی تصدیق نہیں کر سکتے
 (اور ہر مسلمان کے متعلق) اصل یہ ہے کہ (اسے) بے گناہ سمجھا جائے، جب تک کہ
 اس کے متعلق یقینی شہادت سامنے نہ آجائے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ سبحانہ و
 تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن محمد بن علی المرتضیٰ (ابن الحنفیہ) کی مذکورہ روایت سے تو یہ
 بات اظہر من الشمس ہے کہ اس میں یہ عیب نہ تھے۔

یزید کے حالات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں
 کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس نے اپنے ذاتی افعال کا جواب اپنے رب کو دینا ہے، اگر ہم
 فرض کر لیں کہ یزید واقعی فاسق تھا تو پھر بھی اس طریقے سے اس کے خلاف خروج کرنا
 واجب نہ تھا، (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

خلافت امیر یزید بن معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما

۶۰ھ تا ۶۴ھ

۶۰ھ میں امیر یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی، اس وقت اس کی عمر چونتیس (۳۴) برس تھی۔ البتہ حضرت حسین بن علی اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کی بیعت نہ کی، یہ دونوں بزرگ اس وقت مدینہ میں تھے اور جب ان دونوں کو یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں اس رات غور کر کے تمہیں اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔“

انہوں نے کہا: ”ٹھیک ہے۔“

جب رات ہوئی تو آپ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے آئے اور بیعت نہ کی۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا: ”میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، بلکہ لوگوں کے سامنے علانیہ بیعت کروں گا۔“

انہوں نے کہا: ”ٹھیک ہے، لیکن رات ہوئی تو آپؑ بھی حضرت عبد اللہ بن زبیرؑ کے پیچھے چلے گئے۔“

عراقی، حضرت حسینؑ سے خط و کتابت کرتے ہیں:

عراقیوں کو خبر پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی اور عراقی خود بھی یزید بن معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنانا پسند

کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین بن علیؑ کو خطوط لکھے اور ان میں یہ لکھا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے اور ہماری گردنوں میں یزید کی بیعت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہے۔ اور ان کی طرف سے اس قدر خطوط آئے کہ ان کی تعداد پانچ صد (۵۰۰) سے بڑھ گئی۔ یہ سارے خطوط کوفہ والوں کی طرف سے تھے اور وہ آپ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے۔

اس موقع پر سیدنا حسین بن علیؑ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہ وہ وہاں جا کر حالات کا مکمل جائزہ لیں اور حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، جب آپ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہاں کے لوگ یزید کی بجائے حضرت حسین بن علیؑ کو پسند کرتے ہیں تو وہ ہانی بن عروہ کے پاس ٹھہر گئے اور لوگ یکے بعد دیگرے آپ کے ہاتھ پر حضرت حسینؑ کی بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ بیعت مکمل ہو گئی۔

اور (ان دنوں) حضرت نعمان بن بشیرؓ، یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب انہیں اطلاع پہنچی کہ یہاں کوفہ میں مسلم بن عقیل موجود ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر حضرت حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے چشم پوشی کا اظہار کیا اور اس معاملے کو اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ اس کے چند حاشیہ بردار کوفی، شام میں یزید بن معاویہ کے پاس شکایت لے کر گئے اور اسے کوفہ کی صورت حال سے آگاہ کیا، کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور نعمان بن بشیرؓ اس معاملے کو اہمیت نہیں دے رہے، تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ پر گورنر مقرر کر دیا۔ اور یہ اس سے پہلے بصرے پر گورنر تھا۔ یزید نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اسے کوفہ کی گورنری بھی سونپ دی۔

چنانچہ عبید اللہ بن زیاد منہ پر کپڑا لپیٹ کر رات کو کوفہ میں داخل ہوا، جب وہ لوگوں پر گذرتا تو انہیں سلام کہتا اور وہ اسے یوں جواب دیتے وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ ﷺ (اے نواسا رسول، آپ پر سلام ہو)

دراصل وہ اسے حضرت حسینؑ سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ رات کو چھپ کر داخل ہو رہا تھا اور منہ پر عمامہ لپیٹے ہوئے تھا، جب عبید اللہ بن زیادہ کو معلوم ہوا کہ معاملہ خطرناک ہے اور لوگ حضرت حسینؑ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ قصر امارت میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے عقیل نامی غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائے اور اس معاملے کا پتہ چلائے اور یہ بھی بتلائے کہ اس معاملے میں کون سی شخصیت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور اپنے آپ کو حمص کا باشندہ ظاہر کر کے لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ حضرت حسینؑ کی مدد کے لیے تین ہزار دینار لایا ہے۔ کچھ عرصہ پوچھ گچھ کے بعد اسے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کر کے ان کی بیعت کی اور انہیں تین ہزار دینار دیئے اور کئی دن ان کے پاس آتا جاتا رہا، چنانچہ وہ معاملے کا مکمل پتہ چلا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لوٹ گیا اور اسے پوری پوری خبر دی۔

حضرت حسینؑ کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی:

جب حالات سازگار ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی تو انہوں نے حضرت حسینؑ کی طرف پیغام بھیجا کہ حالات سازگار ہیں لہذا اب آپ تشریف لے آئیں، تو حضرت حسین بن علیؑ ترویحہ (آٹھ ذی الحجہ) کے دن، مکہ سے نکل پڑے۔

ادھر عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے پروگرام کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے حکم دیا: کہ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لاؤ۔

جب اسے لایا گیا تو عبید اللہ نے پوچھا۔

مسلم بن عقیل کہاں ہے؟

ہانی بن عروہ نے کہا: ”میں نہیں جانتا۔“

عبید اللہ بن زیاد نے اپنے غلام عقیل کو بلایا، جب وہ آیا تو اس سے کہا: کیا تو

اسے جانتا ہے؟

اس نے کہا: ”ہاں۔“

تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کیونکہ یہ غلام اسے جانتا تھا اور اس نے

اس کے گھر، مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کی تھی۔ اور ہانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ (اس

کی بیعت اور دیناروں کا معاملہ) تو عبید اللہ بن زیاد کا دھوکہ تھا۔

چنانچہ ابن زیاد نے پھر پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟

ہانی نے کہا: ”اللہ کی قسم! اگر وہ میرے قدم کے نیچے بھی ہوتا تو میں اسے نہ

اٹھاتا۔“

یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد نے اسے پٹا اور اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔

جب مسلم بن عقیل کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے چار ہزار افراد کا لشکر لے کر عبید

اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا اور اہل کوفہ بھی اس کے ساتھ نکل پڑے۔ اس

وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا

کہ لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے باز رکھو، مزید برآں انہیں روپے پیسے کا

لاٹچ بھی دیا اور انہیں شام کے لشکر کا ڈراوا بھی دیا۔

چنانچہ کوفی سردار لوگوں کو مسلم بن عقیل سے جدا کرنے لگے۔

مسلم بن عقیل کے ساتھ چار ہزار کا لشکر تھا اور ان کا شعار (کوڈ ورڈ Code

Word) تھا يَا مَنْصُورُ اَمْتُ۔ (اے منصور مار دو!)

چنانچہ کوئی سرداروں کے ڈرانے دھمکانے اور لالچ دینے کی بنا پر عورتیں آتیں اور اپنے بیٹوں کو لے جاتیں اور مرد آ کر اپنے بھائیوں کو لے جاتے اور قبائل کے سربراہ اپنے اپنے لوگوں کو اس شورش میں حصہ لینے سے روکنے لگے۔ حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ چار ہزار میں سے صرف تیس (۳۰) آدمی باقی رہ گئے اور سورج ابھی غروب نہ ہونے پایا تھا، کہ وہ بھی چلے گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور آپ کو فہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرنے لگے، آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائیں۔ چنانچہ آپ نے بنو کندہ کی کسی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔

اس نے آپ کو اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟

آپ نے فرمایا: ”میں مسلم بن عقیل ہوں اور اسے یہ بھی خبر دی کہ لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور یہ کہ حضرت حسینؑ بھی آ رہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آ جائیں۔“

چنانچہ اس عورت نے آپ کو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل کر لیا اور انہیں روٹی اور پانی دیا۔ لیکن اس کے بیٹے نے عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی، تو اس نے ستر آدمیوں کو بھیج کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑے۔ بالآخر انہوں نے آپ کو امان کے وعدے پر گرفتار کر لیا اور عبید اللہ کے محل میں لے گئے۔

چنانچہ اس نے مسلم بن عقیل سے سوال کیا، کہ بتاؤ تم نے کس وجہ سے ہمارے خلاف چڑھائی کی؟

آپ نے فرمایا: حضرت حسینؑ بن علی کی بیعت کی وجہ سے، جو ہماری گردنوں میں ہے۔

اس نے کہا: ”میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”مجھے وصیت کر لینے دو۔“

اس نے کہا: ”ہاں وصیت کر لو۔“

آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر بن سعد بن ابی وقاصؓ کھڑے تھے آپ نے فرمایا، تم ان تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے قریبی رشتہ دار ہو، آؤ، میں تمہیں وصیت کر لوں۔

چنانچہ مسلم بن عقیل، عمر بن سعد کو گھر کے ایک کونے میں لے گئے اور وصیت کی کہ حضرت حسین کو پیغام پہنچا دیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس موقع پر اپنی وصیت میں مشہور فقرہ ارشاد فرمایا:

”اپنے اہل و عیال سمیت واپس لوٹ جاؤ! اور اہل کوفہ سے دھوکہ نہ کھاؤ!، کیونکہ کوفہ والوں نے مجھ سے اور آپ سے کذب بیانی کی اور جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں!“

چنانچہ عمر بن سعد نے ایک آدمی کو ان کا پیغام دے کر بھیجا کہ منصوبہ بنا کام ہو گیا ہے اور کوفہ والوں نے اسے (عین موقع پر) دھوکہ دے دیا!
چنانچہ مسلم بن عقیل کو عرفہ والے دن اسی وقت قتل کر دیا گیا!!
ادھر حضرت حسین بن علیؑ ان کے قتل سے ایک دن قبل یعنی آٹھ ذی الحجہ کو مکے سے نکل چکے تھے!!!

صحابہ کرامؓ کا حضرت حسینؑ کو کوفہ جانے سے روکنا

بہت سے صحابہ کرام نے حضرت حسینؑ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی (لیکن وہ آپ کو روکنے میں ناکام رہے) جن صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ان کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، اور آپ کے برادر حضرت محمد بن علی بن ابی طالبؓ۔ (ابن الحنفیۃ)

ان سب نے آپ کے ارادے کا پتہ چلنے پر آپ کو کوفہ جانے سے روکا، ان میں سے چند ایک کے اقوال یہ ہیں۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہاشمی قریشی:

جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت حسینؑ کوفہ جانے والے ہیں تو آئے اور کہا، کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اور آپ کو برا کہیں گے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں میں آپ کے سر کے بال پکڑ لوں اور اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک آپ اپنا پروگرام ملتوی نہ کر دیں۔^①

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما:

امام عامر بن شریحہ شعمیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت حسینؑ عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو

① البدایۃ والنہایۃ: ۱۶۱/۸

آپ نے تین راتوں کی مسافت طے کر کے آپ کو راستہ میں جالیا اور پوچھا :
 ”کہاں جا رہے ہو؟“

آپ نے فرمایا: عراق جا رہا ہوں اور آپ نے ان کو عراقیوں کے بھیجے ہوئے خطوط دکھا کر فرمایا کہ یہ ہیں ان کے خطوط اور ان کی بیعت!
 اور ان خطوط میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت کا اعلان تھا (آہ! ظالموں نے آپ کو کس طرح دھوکا دیا!)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”آپ ان کے پاس نہ جائیں۔“

لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے پر اصرار کیا (اور اپنی رائے نہ بدلی)
 چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ:

حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سے ایک چیز پسند کرنے کا اختیار دیا تو آپ نے آخرت کو پسند کیا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی۔

اور آپ بھی ان کا ٹکڑا ہیں اور اللہ کی قسم! آپ میں سے کوئی شخص بھی سلطنت کو ہاتھ میں نہیں لے سکے گا اور اللہ نے محض اس لیے آپ کو دنیا سے دور دور رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز (یعنی آخرت کا گھر) عطا فرمانے والا ہے۔

لیکن آپ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ سے گلے لگ کر رونے لگے۔

اور فرمایا:

”میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک مقتول ہونے والے کی صورت میں“،^①

۳۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما:

آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کیا اس قوم کی طرف جا رہے ہو جس نے آپ کے باپ کو قتل کیا اور آپ کے بھائی کو نیزہ مارا، حسین! ان کے پاس نہ جاؤ!^②
لیکن حضرت حسینؑ نے جانے پر اصرار کیا۔

۴۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ:

آپ نے فرمایا: اے ابو عبداللہ! میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں اور مجھے آپ سے بڑی شفقت ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شیعوں نے خط و کتابت کی ہے اور وہ آپ کو ادھر اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف نہ جائیں کیونکہ میں نے کوفہ میں آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ:
”اللہ کی قسم! میں ان سے اکتا گیا ہوں اور مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔

اور یہ بھی مجھ سے اکتا گئے ہیں اور مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں اور ان میں وفاداری کبھی نہ ہوگی۔ اور جس کسی نے ان کے ذریعے کامیابی کی منزل حاصل کر لی، اسے تیرنیم کش کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، اللہ کی قسم! نہ تو ان کی نیتیں (صحیح) ہیں اور نہ کسی مسئلہ پر فیصلہ کن عزم ہے اور نہ ہی یہ تلوار پر صبر کر سکتے ہیں۔^③

۵۔ مشہور شاعر فرزدق:

حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کوفہ کی راہ میں ال رسول کے مداح شاعر فرزدق سے

① البداية والنهاية ۸/۱۶۲

② البداية والنهاية: ۸/۱۶۳

③ البداية والنهاية ۸/۱۶۳

ملے اور اس سے پوچھا: ”کہاں سے آرہے ہو؟۔“

اس نے کہا: ”عراق سے۔“

آپ نے پوچھا: ”عراقیوں کا کیا حال ہے؟۔“

اس نے جواب دیا: ”ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔“

تو آپ نے فرمایا: « وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ » (اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے) اور اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا۔^①

ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کو عمر بن سعد بن ابی وقاصؓ کے قاصد کے ذریعے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر مل گئی، تو آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں مسلم بن عقیل بن ابوطالب کے بیٹوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: ”اللہ کی قسم! ہم اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر نہ لوٹیں گے، تو آپ نے ان کی رائے کا احترام کیا۔“

جب عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکلنے کی اطلاع ملی تو اس نے حر بن یزید تمیمی کو ایک ہزار (1000) سپاہیوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ وہ راستے میں حضرت حسینؓ سے ملے۔ چنانچہ وہ قادسیہ کے قریب آپ سے ملا اور آپ سے پوچھا۔

اے رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کے لخت جگر کہاں جا رہے ہو؟

آپ نے فرمایا: ”عراق کی طرف۔“

اس نے کہا: ”میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے متعلق کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں لوٹ

جائیں یا شام چلے جائیں جہاں یزید بن معاویہ ہے لیکن کونے نہ جائیں۔
لیکن حضرت حسینؑ نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آپ نے عراق کی
طرف چلنا شروع کر دیا جبکہ حر بن یزید آپ کے سامنے آتا اور آپ کو منع کرتا رہا،
آخر حضرت حسینؑ نے اسے کہا: ”ابتعد عنی ، ثکلتک امک!“

”مجھ سے دور ہو جا، تیری ماں تجھے گم پائے۔“

حر بن یزید نے کہا: ”اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب مجھے یہ بات
کہتا تو میں اس سے اور اس کی ماں سے قصاص لیتا، لیکن میں کیا کہوں؟ کیونکہ آپ
کی ماں، پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔“

کر بلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا داخلہ

یہاں پہنچ کر حضرت حسینؑ نے عراق جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اس
کے بعد عمر بن سعد (بن ابی وقاص) کی قیادت میں چار ہزار کی تعداد میں کوئی سپاہ کا
آخری دستہ بھی آن پہنچا۔ اس وقت سیدنا حسین بن علیؑ کر بلا نامی جگہ پر قیام
پذیر تھے۔

آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟

لوگوں نے بتایا، کر بلا۔

آپ نے فرمایا: ”کَرْبٌ وَ بَلَاءٌ“ (یعنی دکھ اور آزمائش۔)

جب عمر بن سعد کا لشکر آیا اور اس نے حضرت حسینؑ سے گفتگو کی اور
انہیں اپنے ساتھ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے انکار
کر دیا، جب آپ کو معاملہ سنگین نظر آیا تو آپ نے عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ:
میں تجھے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، لہذا ان میں سے جو
بات تمہیں پسند ہو اس کے متعلق مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرو۔

اس نے پوچھا وہ کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا:

- ① ایک تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو،
 - ② یا پھر مجھے مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر جانے دو۔
 - ③ یا پھر مجھے شام میں یزید کے پاس جانے دو تا کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں۔
- عمر بن سعد نے کہا: ہاں! آپ یزید کی طرف پیغام بھیجیں اور میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف اطلاع بھیجتا ہوں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ لیکن حضرت حسین نے یزید کی طرف پیغام نہ بھیجا جبکہ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیج دیا۔

جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمہیں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد راضی ہو گیا اور کہا کہ حضرت حسین جو بات بھی پسند کریں وہ مجھے قبول ہے۔ اس وقت اس کے پاس شمر بن ذی الجوشن (نامی ملعون و مردود) بیٹھا ہوا تھا اور وہ ابن زیاد کا بڑا مقرب تھا۔ اس نے کہا: ”اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے۔“

چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی (خوشامدانہ) بات سے دھوکا کھا گیا اور کہنے لگا: ہاں وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کرے۔ (یعنی وہ میرے پاس کوفہ میں حاضر ہو اور میں اسے شام بھیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیج دوں)

چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کھڑا ہو گیا اور شمر بن ذی الجوشن کو کربلا کی طرف روانہ کر کے کہنے لگا کہ:

تو جا اور حضرت حسین کو اپنا آپ میرے سپرد کرنے (یعنی گرفتاری دینے) کا

حکم سنا دے۔ اگر عمر بن سعد (اسے گرفتار کرنے) پر آمادہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تو اس کی جگہ فوج کا افسر ہے۔

عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو چار ہزار فوجیوں کا یہی لشکر دے کر رہے بھیجنا تھا۔ چنانچہ اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ حضرت حسین کے معاملے سے فارغ ہو کر رہے چلا جائے کیونکہ اس نے عمر بن سعد سے رہے کی گورنری کا وعدہ کر رکھا تھا

چنانچہ شمر بن ذی الجوشن اس جگہ پر جا پہنچا جہاں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور حر بن یزید تمیمی اور عمر بن سعد موجود تھے۔

جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ ان کی قسمت کا فیصلہ عبید اللہ بن زیاد نے کرنا ہے۔ اور ان پر لازم ہے کہ وہ اسے گرفتاری دے دیں تو آپؑ اسے مسترد کر دیا اور فرمایا:

اللہ کی قسم! میں کبھی بھی عبید اللہ بن زیاد کی کو گرفتاری نہ دوں گا۔ حضرت حسین کے پاس بہتر (۷۲) شہسوار تھے اور کوفی لشکر پانچ ہزار افراد پر مشتمل تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کے کوفی لشکر سے کہا۔
 ”اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو! کیا میرے جیسے انسان سے تمہارا لڑائی لڑنا درست ہے؟ اور میں تمہارے رسولؐ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی شخص نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے اور اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا:

کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔^①

① ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين: ۳۷۶۸

اور آپ نے انہیں ابن زیاد کے حکم کو تسلیم نہ کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ چنانچہ تم میں افراد آپ کے ساتھ مل گئے۔ ان میں ابن زیاد کے لشکر کے ہراول دستے کا امیر حُز بن یزید بھی تھا۔

حُز بن یزید سے کہا گیا: ”یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ ہراول دستے کا امیر بن کر آئے ہو اور اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہے ہو؟“ اس نے کہا: ”تم پر افسوس، اللہ کی قسم! میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم! میں کسی قیمت پر جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا اگرچہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں یا جلا دیا جاؤں۔“

اس کے بعد حضرت حسینؑ نے اپنے ساتھیوں اور ابن زیاد کے سپاہیوں کو جمعرات کے روز ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھائیں، آپ نے انہیں کہا تھا کہ تمہارا امام تم سے ہو اور ہمارا امام ہم سے، لیکن انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔

چنانچہ انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کیں، جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے لگے۔

اور اس وقت حضرت حسینؑ اپنی تلوار کی ٹیک پر آرام حاصل کر رہے تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو اپنے ہمراہیوں سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔

آپ نے فرمایا: ان کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو! کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ چنانچہ میں شہوار ان کی طرف گئے، ان میں حضرت عباسؑ بن علیؑ بن ابی

طالب بھی تھے، انہوں نے ان سے گفتگو کی اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟
وہ کہنے لگے کہ:

یا تو حضرت حسین، ابن زیاد کی مرضی قبول کریں (یعنی گرفتاری دے دیں) یا پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔

انہوں نے کہا ہم ابو عبد اللہ (حسین) کو خبر دینے تک کچھ نہیں کہہ سکتے، چنانچہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ وہ ہمیں اس رات مہلت دیں اور ہم کل کو انہیں بتائیں گے تاکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لوں کیونکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں۔

چنانچہ آپ اور آپ کے تمام جانثار اس رات اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ [رضی اللہ عنہم]



سانحہ کربلا

جمعۃ المبارک کے روز صبح سویرے فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، کیونکہ حضرت حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد گورنر کوفہ کو گرفتاری دینے سے انکار دیا تھا۔ فریقین کی عددی اور فوجی طاقت میں بڑا فرق تھا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جانثاروں نے اندازہ لگا لیا کہ ان میں اس خونخوار لشکر کو فتح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت حسینؑ کے سامنے شہید ہونے کا عزم صمیم کر لیا۔ چنانچہ وہ یکے بعد دیگرے حضرت حسینؑ کے سامنے مردانہ وار مقابلے کے بعد شہید ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے سوا کوئی نہ بچا۔

بعد ازاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دن کے طویل عرصے تک میدان میں گھومتے رہے اور کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی جسارت پر آمادہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ شمر بن ذی الجوشن آ گیا اور اس نے کوفی جنگجوؤں سے چیخ کر کہا:

افسوس! تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، اسے گھیرے میں لے لو اور قتل کر دو!
چنانچہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ اپنی تلوار سونت کر شیر کی طرح ان پر یلغاریں کرتے رہے اور ان غداروں کے سراڑاتے رہے، بسا اوقات عددی کثرت شجاعت پر غالب آ جاتی ہے۔ (اور ہزاروں کتے، بالآخر شیر کو نڈھال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں)

اسی دوران شمر بن ذی الجوشن (سیدنا حسین کا سوتیلا ماموں) اپنے فوجیوں سے چلا کر کہنے لگا:

تم پر افسوس! تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟! آگے بڑھو!
 چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔
 (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اور جس شخص نے آپ کو قتل کیا اور آپ کا سرتن
 سے جدا کیا وہ (اشتر نخعی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا) ملعون سنان بن انس نخعی تھا اور
 یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو شمر بن ذی الجوشن لعین نے قتل کیا تھا۔ (قَبَّحَهُ اللَّهُ
 وَ لَعَنَهُ)

حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک کوفہ میں ابن زیاد کی طرف
 بھیجا گیا۔ جب آپ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ملعون ابن زیاد آپ
 کے منہ میں چھڑی داخل کر کے کہنے لگا:

کہ یہ بہت خوبصورت دانتوں والا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور
 کہنے لگے:

اللہ کی قسم! میں تجھے قباحت و خرابی کا داغ لگاؤں گا، میں نے حضرت رسول
 مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس منہ کی وہ جگہ چومتے دیکھا ہے جہاں تو نے چھڑی
 رکھی ہے۔^①

طبرانی میں سند صحیح سے مروی ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر
 میں ان لوگوں میں ہوتا، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، پھر میں جنت میں
 بھی داخل ہو جاؤں، تو مجھے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے وقت حیا
 آئے گی۔^② (لیکن کوفیوں میں حیا کہاں جو انہیں شہید کر کے بھی ان کی محبت کا دم

① طبرانی ۲۰۶/۵، حدیث نمبر ۵۱۰۷، صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن

والحسين، رقم: ۳۷۴۸

② معجم الكبير ۱۱۲/۳ - ۲۸۲۹

بھرتے تھے)

سانحہ کربلا میں حضرت حسینؑ کے ساتھ کون کون شہید ہوئے؟

حضرت حسینؑ کے ساتھ آپ کے بہت سے اہل بیت شہید ہوئے جن کی تعداد اٹھارہ بنتی ہے:-

چنانچہ اولاد علیؑ بن ابی طالب میں سے مندرجہ ذیل سادات کرام شہید ہوئے۔
 (۱) سیدنا حسین، (۲) سیدنا جعفر، (۳) سیدنا عباس، (۴) سیدنا ابوبکر، (۵) سیدنا محمد، (۶) سیدنا عثمان، (صلوات اللہ علیہم ورحمتہ)
 حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے۔

(۷) سیدنا علی الاکبر، (۸) سیدنا عبداللہ (جبکہ امام زین العابدین علی الاصغر کو اللہ نے سلامت رکھا)

حضرت سیدنا حسن بن علیؑ کی اولاد میں سے۔

(۹) سیدنا عبداللہ، (۱۰) سیدنا قاسم، (۱۱) سیدنا ابوبکر۔ (صلوات اللہ علیہم ورحمتہ)

حضرت عقیلؑ بن ابی طالب کی اولاد میں سے۔

(۱۲) سیدنا جعفر، (۱۳) سیدنا عبداللہ، (۱۴) سیدنا عبدالرحمن، (۱۵) سیدنا مسلم،^①

(۱۶) سیدنا عبداللہ بن مسلم۔ (صلوات اللہ علیہم ورحمتہ)

حضرت عبداللہ بن جعفرؑ بن ابی طالب کی اولاد میں سے۔

(۱۷) سیدنا عون، (۱۸) سیدنا محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔^②

آل رسول کریم ﷺ سے تعلق رکھنے والے مذکورہ اٹھارہ افراد اس بے جوڑ

معرکہ میں شہید ہوئے۔

① تاریخ خلیفہ بن خیاط: ۲۶۴ ② آپ کوفہ میں ہی شہید کر دیے گئے تھے۔

سیدنا حسینؑ کے سامنے شہادت پانے والوں میں سیدنا ابو بکر بن علیؑ (۴)،
 (۶) سیدنا عثمان بن علیؑ، اور (۱۱) سیدنا ابو بکر بن حسن بن علیؑ بھی تھے۔ لیکن آپ کبھی بھی
 ان کے نام شیعہ کی آڈیو کیسٹوں میں نہ سنیں گے اور نہ ہی ان سادات کرام کے نام
 ان کتابوں میں مذکور ہیں جو شیعہ صاحبان نے مقتل حسین کے متعلق تصنیف کی ہیں،
 اس کی آخروجہ کیا ہے؟

شاید اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سیدنا علی المرتضیٰ بن ابی طالب نے اپنی
 اولاد کے نام بھی حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ کے نام پر رکھے تھے۔ یا یہ
 کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر
 یا عمر رکھا تھا۔ ان کی یہ سردمہری اور علمی خیانت بڑی عجیب ہے۔

فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبلؒ نے حسن سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت
 ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس تھے۔ اس وقت حسین
 میرے پاس تھے وہ رونے لگے تو جب میں نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ حضرت نبی کریم ﷺ
 کے پاس چلے گئے، حضرت جبرائیل نے پوچھا:

اے محمد (ﷺ)! تو اس سے محبت کرتا ہے؟

آپ نے فرمایا: ”ہاں۔“

اس نے کہا: ”تیری امت عنقریب اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو
 میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی نہ دکھاؤں جہاں یہ قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مٹی
 دکھائی تو وہ اس جگہ کی مٹی تھی جسے کر بلا کہا جاتا ہے۔“^①

① احمد، فضائل الصحابہ ۲/۷۸۲، نمبر: ۱۳۹۱

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے شہادت حسین پر جثات کو نوحوہ کرتے ہوئے سنا۔^①

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس روز آسمان خون برسانے لگا تھا، یا یہ کہ دیواروں پر خون ہی خون نظر آنے لگا تھا، یا جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون پایا جاتا، یا جس اونٹ کو بھی ذبح کیا جاتا وہ خون بن جاتا، یہ سب بے سرو پا حکایات اور شیعہ خرافات ہیں۔ جو صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے وضع کی گئی ہیں ان کی صحیح سند تو کجا کہیں ضعیف سند بھی نہیں ملتی۔

البتہ طبرانی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ابو رجاء عطار دی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

ہمارا ایک پڑوسی بلہجین سے تعلق رکھتا تھا، وہ کوفہ آیا اور اس نے کہا تم اس فاسق بن فاسق کو کیا سمجھتے ہو جسے اللہ نے قتل کیا ہے؟ (اس بلہجینی ملعون فاسق نے یہ بات سیدنا حسینؑ کی بابت کہی تھی۔)

ابو رجاء عطار دی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: اچانک اللہ نے اس پر آسمانوں سے دو تارے سے برسائے جن سے اس کی بصارت ختم ہو گئی۔^②

فضائل صحابہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت حضرت نبی کریم ﷺ کو خواب میں گرد آلود دیکھا اور اس وقت آپ کے پاس ایک شیشی تھی جس میں آپ خون کے قطرے ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں آج سارا

① احمد، فضائل الصحابہ ۲/۷۶۶، / حدیث نمبر: ۱۳۷۳۔ و سندہ حسن

② معجم الکبیر ۳/۱۱۲، رقم ۲۸۳۱

دن یہی کام کرتا رہا ہوں۔

اس حدیث کے راوی عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے خواب کے دن کا تاریخ سے موازنہ کیا تو وہ خواب اسی تاریخ کے مطابق ہوا جس دن آپ شہید ہوئے تھے۔^①

جبکہ حضرت رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ:

«مُرَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَانِي»^②

”کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔“

اور یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں سے تھے جو رسول کریم کے حلیے کو خوب جانتے تھے!

المختصر یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس طور سے شہید ہوئے۔ اور جس شخص نے آپ کے قتل کا حکم دیا وہ عبید اللہ بن زیاد تھا لیکن یہ ملعون بھی تھوڑے عرصہ بعد قتل ہو گیا۔ اسے مختار بن ابی عبید ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقام میں قتل کر دیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ مختار بن ابی عبید ثقفی خود بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جنہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلوا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔

یہ تھا حال اہل کوفہ کا، بلکہ سبھی شیعوں کا یہ حال ہے کہ

① اولاً تو وہ اپنے آپ سے اس بات کا انتقام لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسلم بن

① فضائل الصحابہ ۲/۷۷۸ نمبر ۱۳۸۰

② بخاری: کتاب التعبير، باب من رأى النبي في المنام، رقم: ۶۹۹۴، مسلم، کتاب الروایا، رقم: ۱۰

عقیلؓ کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیئے گئے اور ان کے اپنے جسموں پر خراش تک نہ آئی۔

② جب حضرت حسینؓ نکلے تو سوائے حر بن یزید اور اس کے چند ساتھیوں کے کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔

چونکہ اہل کوفہ نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ حسرت سے اپنے سینے پیٹتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس گناہ کے کفارے کے طور پر کرتے ہیں جو ان کے بقول ان کے بڑوں نے کیا تھا۔^①

جامع ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں: کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مسجد میں ترتیب سے رکھے گئے تو میں بھی وہاں گیا، تو وہاں موجود لوگ شور مچا رہے تھے وہ آگیا! وہ آگیا! (میں نے دیکھا) کہ ایک سانپ آیا جو سروں کے درمیان سے گذر کر ابن زیاد (ملعون) کے تھنوں میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا اچانک لوگوں نے پھر کہا کہ وہ آگیا، وہ آگیا! اس طرح سے اس سانپ نے دو یا تین مرتبہ ایسا کیا!^②

(غور کیجئے) سیدنا حسین بن علیؓ کی شہادت میں گھناؤنا کردار ادا کرنے والے ملعون عبید اللہ بن زیاد سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انتقام لیا (کہ اس کے ساتھیوں سمیت اس کا سر بھی قلم ہوا اور اس کی لاش عبرت کا نشانہ بن گئی اور سانپ

① مختار بن ابی عبید ثقفی کے اس لشکر کا نام ہی تو ابین (توبہ کرنے والے) تھا جس نے حضرت حسین کا انتقام لیا تھا۔ یہ نام اس سردمہری اور مجرمانہ غفلت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے رکھا گیا، جو اہل کوفہ نے حضرت حسین سے برتی تھی۔ یہاں سے سیاسی طور پر شیعہ کی ابتداء ہوئی البتہ مذہبی طور پر شیعہ بنو امیہ کے دور کے بعد وجود میں آئے۔

② ترمذی کتاب المناقب - باب مناقب الحسن والحسین - ص: ۳۷۸۰

والی عبرت ناک سزا اس فرعون صفت کو خصوصی طور پر شاید اس لیے دی گئی کہ اس ظالم نے سیدنا حسینؑ کی شہادت کے بعد آپ کے منہ مبارک میں چھڑی ڈال کر ان کی بے حرمتی کی تھی۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خروج کی شرعی حیثیت:

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خروج سے بظاہر کوئی دینی یا دنیاوی اصلاح نہ ہوئی۔ شاید اسی لیے صحابہ کرام نے آپ کو بروقت روکا تھا۔^① جبکہ اس خروج کی وجہ سے ان کوئی ظالموں کو نواسہ رسول سے بدسلوکی کا موقعہ ملا اور انہوں نے آپ کو ظلماً شہید کر دیا۔ اور آپ کے خروج اور قتل سے اتنا نقصان ہوا کہ اگر آپ گھر بیٹھ جاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا لیکن یہ اللہ کی تقدیر تھی جو نافذ ہو کر رہی اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اگرچہ وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہی ہو۔

شہادت حسینؑ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں ایک المناک حادثہ ہے اور مسلمان قیامت تک اس کی ٹیس اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے۔ تاہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت انبیاء کرام کی شہادت سے بڑی نہیں ہے، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہا الصلوٰۃ والسلام کا سر ایک رقاہ کے کہنے پر کاٹ دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے قتل کی تدابیر کی گئیں اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق اور عثمان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو خنجروں، نیزوں تلواروں سے گھائل کر دیا گیا۔ اور یہ سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے۔ (اللہ تعالیٰ انہیں ان شہادتوں کی بدولت خوش کر دے)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی انسان

① دیکھیے کتاب ہذا، باب صحابہ کرام کا حسینؑ کو کوفہ جانے سے روکنا صفحہ: ۱۷۲

کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکرے پر گریبان پھاڑے اور چہرے کو پیٹنا شروع کر دے کیونکہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے افعال سے روک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ»^①

”کہ وہ شخص ہم سے نہیں جو (شدت غم میں) رخسار پیٹے اور گریبان چاک کر لے۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«أَنَا بَرِيٌّ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ»^②

”میں چیخنے چلانے اور بال منڈوانے اور گریبان چاک کرنے والی سے بری ہوں۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ فَإِنَّهَا تُبْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِرْعًا مِنْ جَرَبٍ وَ سِرْبًا لًا مِنْ قَطْرَانٍ»^③

”اگر نوحہ کرنے والی توبہ نہ کرے تو وہ قیامت کے دن خارش کی اوڑھنی اور گندھک کی قمیص پہنائی جائے گی۔“

اس لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کے سامنے اس طرح کے مصائب بیان کئے جائیں تو وہ ایسے ہی کہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

[البقرہ: ۱۶۵]

① صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب لیس منا من شق الجيوب ۱۲۹۴

② مسلم کتاب الایمان رقم: ۱۶۷

③ مسلم کتاب الجنائز: رقم ۲۹

شہادت حسین کے متعلق لوگوں کے نظریات:

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق لوگ تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلے گروہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کا قتل (نعوذ باللہ) درست ہے کیونکہ انہوں نے امام کے خلاف چڑھائی کی اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جسارت کی ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

« مَنْ جَاءَكُمْ وَ أَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَمَا تَنَانًا مَنْ كَانَ » ①

”جو کوئی انسان اس حال میں تمہارے پاس آئے کہ تمہاری امارت ایک شخص کے سپرد ہو چکی ہو اور وہ تمہاری جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو خواہ وہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو۔“

اور ان کے خیال میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی جماعت کو (نعوذ باللہ) پھوڑنا چاہا اور حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جماعت میں پھوٹ ڈالنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اسے قتل کر دو۔

یہ قول ان ناصبیوں کا ہے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ وعن ابیہ سے بغض رکھتے ہیں۔

دوسرے گروہ کے لوگ شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ امام تھے ان کی اطاعت واجب تھی اور واجب تھا کہ خلافت ان کے سپرد کی جاتی۔

تیسرے گروہ کے لوگ اہل السنۃ والجماعت ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مظلوم شہید ہوئے اور آپ نہ تو منصب خلافت پر فائز تھے، یعنی اس طرح امام وقت نہیں تھے جس طرح شیعہ حضرات سمجھتے ہیں اور نہ ہی آپ بغاوت کی حالت میں قتل

① مسلم - کتاب الامارۃ ۵۹-۶۰

ہوئے، بلکہ آپ مظلوم شہید ہوئے اور (اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ) حضرت رسول کریم ﷺ کے اس قول کے عین مطابق ہے کہ

«الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْحَنَّةِ»^①

”کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس لوٹنے یا شام میں یزید کی طرف جانے کا عزم کر لیا تھا، لیکن کوفیوں نے انہیں عبید اللہ بن زیاد کو گرفتاری دیئے بغیر وہاں جانے سے روک دیا۔

شہادت حسینؑ میں یزید کا کردار:

سیدنا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور ہماری یہ بات یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کے قبیل سے نہیں بلکہ حق کے دفاع کے لیے ہے۔

یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو اس لیے بھیجا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روک دے، اس نے عبید اللہ کو آپ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بذات خود یزید کے متعلق حسن ظن رکھتے تھے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، تاکہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تمام مورخین کا اس حقیقت پر اتفاق ہے، کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، البتہ اس نے ابن زیاد کی طرف یہ ضرور لکھا تھا کہ وہ آپ کو عراق کی امارت سے روکے۔ اور جب اسے حضرت حسینؑ کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس نے اس پر شدید دکھ اور رنج و الم کا اظہار کیا اور اس کے گھر سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں اور اس

① اخرجہ الترمذی - کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين - رقم: ۳۷۶۸

نے اہل بیت کی مستورات کو کبھی بھی قیدی نہ بنایا، بلکہ اس نے ان کا اکرام کیا اور انہیں اکرام کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں وہاں پہنچایا۔

رہی وہ روایات جو کتب شیعہ میں درج ہیں کہ آل بیت رسول کی عورتوں کی توہین کی گئی اور انہیں قید کر کے شام لے جایا گیا اور وہاں ان کی توہین کی گئی تو یہ سب جھوٹ ہیں (ان کا حقیقت سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں)، بلکہ بنو امیہ (اپنے پیچھے خانہ) بنو ہاشم کی تعظیم کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب عبد الملک بن مروان کو فاطمہ بنت عبد اللہ بن جعفر ہاشمیہ سے حجاج یوسف گورنر عراق کے نکاح کی اطلاع ملی تو اس نے اسے مسترد کر دیا اور حجاج کو حکم دیا کہ وہ اس سے جدا رہے اور اسے طلاق دے دے (اس سے ثابت ہوا کہ) وہ بنو ہاشم کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ ہاشمی خواتین کو کبھی بھی قیدی نہیں بنایا گیا۔^①

چنانچہ اس دور میں ہاشمی خواتین کا بڑا احترام تھا اور وہ معزز و محترم سمجھی جاتی تھیں۔ لہذا یزید کے متعلق جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اہل بیت رسول کی خواتین کو قیدی بنایا، یہ لغو داستان اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کی طرف بھیجا گیا تو یہ بھی سفید جھوٹ ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں البتہ آپ کا سر مبارک عبید اللہ کے پاس کوفہ میں لے جایا گیا اور حضرت حسین کو دفن کر دیا گیا اور ان کی قبر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا، لیکن مشہور یہ ہے کہ انہیں کربلا میں اسی جگہ دفن کیا گیا تھا جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔

یزید بن معاویہ کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف:

یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں برپا ہونے مندرجہ ذیل واقعات کو اہمیت دی گئی ہے:-

- ① سیدنا حسینؓ بن علیؓ کا قتل،
 ② عبداللہ بن زبیرؓ سے لڑائی،
 ③ سانحہ حرہ۔

اس بنا پر کچھ لوگ اس پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ منع کرتے ہیں، جو لوگ اسے لعنت کرنا جائز سمجھتے ہیں ان کو تین باتیں ثابت کرنا پڑیں گی۔

- ① وہ ثابت کریں کہ یزید فاسق تھا۔
 ② وہ ثابت کریں کہ اس نے اس فسق سے توبہ نہیں کی کیونکہ جب کافر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تو فاسق کی توبہ کیوں قبول نہیں؟
 ③ وہ ثابت کریں کہ نامزد کر کے فوت شدہ شخص کو لعنت کرنا جائز ہے۔
 اور جس میت کو نامزد کر کے اللہ اور اس کے رسول نے لعنت نہیں کی اسے لعنت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ جب ابو جہل کو گالی دی گئی تو آپ نے فرمایا:

«لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» ①

”کہ فوت شدگان کو گالی نہ دو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے ہاں پہنچ چکے ہیں“

اور اللہ کا دین، سب و شتم پر قائم نہیں ہے (جیسا کہ شیعہ نے سمجھا) بلکہ وہ تو مکارم اخلاق پر قائم ہے، لہذا اللہ کے دین میں گالی کی کچھ حیثیت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

«سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ» ② ”کہ مسلمان کو گالی دینا

① صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب ما ینھی عن سب الاموات، حدیث ۱۳۹۳
 ② صحیح بخاری کتاب الایمان، باب خوف المومن ان یحبط عمله، رقم: ۴۸، مسلم کتاب الایمان: ۱۱۶

فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔“^①

لہذا مسلمان کو گالی دینا فسق ہو اور یزید کو کسی نے بھی ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے فاسق کہا گیا ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ اس کے متعلق ذکر کردہ فسق ثابت کیا جاسکے، لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسری طرف حضرت نبی کریمؐ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

«أَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»^②

”کہ وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر (قنطنینہ) پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔“

اور یہ لشکر یزید بن معاویہ کی قیادت میں تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ابن عمرؓ، ابن زبیرؓ، ابن عباسؓ، ابو ایوبؓ (خالد) انصاریؓ، میزبان رسولؐ جیسے سادات صحابہ کرام بھی تھے اور یہ حملہ ۴۹ھ میں ہوا تھا۔

امام ابن کثیر (دمشقی) فرماتے ہیں کہ یزید نے اپنے امیر مسلم بن عقبہ کو یہ کہہ کر فاحش غلطی کی کہ وہ حرہ کی بغاوت کچل کر مدینہ کو تین دن مباح سمجھے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام اور ان کے بیٹوں کے قتل کی اجازت بھی تھی۔^③

① فائلا۔ طبقات حنابلہ میں حضرت ابوطالب عکبریؓ کے تذکرہ میں منقول ہے کہ انہوں نے امام احمد سے یزید بن معاویہ پر لعنت کے سلسلے میں پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں گفتگو نہ کر! کیونکہ حضرت رسول کریمؐ نے فرمایا ہے:

«لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» ”کہ مؤمن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔“

اور حضرت نبی کریمؐ نے فرمایا ہے: «خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم وقد کان یزید منہم»

”کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔“ اور یزید ان میں داخل ہے۔“

(لہذا مجھے اس کے معاملے میں خاموشی پسند ہے۔)

② بخاری کتاب الجہاد باب ما قبل فی قتال الروم رقم الحدیث: ۲۹۲۴

③ دیکھئے صفحہ ۵۴ (البدایۃ والنہایۃ)

اس بنا پر ہم یزید بن معاویہ کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ رب
العزت کے سپرد ہے۔ جیسا کہ امام ذہبی نے فرمایا:

لَا نُجِبُّهُ وَلَا نَسُبُّهُ - نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اسے گالی دیتے ہیں۔^①
لہذا ہمیں اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے واللہ اعلم



① طبقات حنابلہ ص ۳۴ پر شہرہ آفاق محدث اور فقیہ امام عبدالغنی مقدسی کا فتویٰ منقول ہے کہ ان سے یزید بن معاویہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی خلافت صحیح تھی اور فرمایا کہ بعض علماء کے بقول ساٹھ صحابہ کرام نے اس کی بیعت کی تھی اور ان میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی تھے۔
رہا اس سے محبت کا مسئلہ تو جو کوئی اس سے محبت کرے اسے مطعون نہ کیا جائے، اور جو کوئی اس سے محبت نہ رکھے اس پر کوئی گرفت نہیں کیونکہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہے اور صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ کی محبت کی بنا پر واجب ہے اور یزید کا معاملہ بھی عبدالملک اور اس کے بیٹوں جیسا ہی ہے اس لیے فتنہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے متعلق بحث نہ کی جائے ورنہ اس کے باپ تک معاملہ پہنچ جائے گا (اور وہ جلیل القدر صحابی ہے)

عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابی کی لغوی تعریف:

صاحب کی طرف منسوب شخص کو صحابی کہتے ہیں اور لغت میں اس کے کئی معانی ہیں جو فرمانبرداری اور ملازمت (یعنی سفر و حضر میں ساتھ رہنے) کے گرد گھومتے ہیں۔^①

صحابی کی اصطلاحی تعریف:

جو شخص ایمان کی حالت میں حضرت رسول کریم ﷺ سے ملا ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔^②
علاوہ ازیں دیگر تعریفات بھی ہیں۔

اور صحابہ کرام، حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں رہنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کے اعتبار سے مختلف درجات رکھتے ہیں۔
اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں صحابہ کرام کی عدالت طے شدہ مسئلہ ہے (اور عنقریب اصحاب محمد ﷺ کی عدالت کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ کے ائمہ کرام کے اقوال ذکر ہوں گے۔)
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا

① لسان العرب ۱/۵۱۹

② الاصابة ۱/۱۰

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿۱۸﴾ [الفتح: ۱۸]

”کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اس نے ان پر سکینت نازل کی اور انہیں فتح قریب عطا کی۔“

اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ راضی ہوا، کن سے راضی ہوا؟
ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے حضرت رسول کریم ﷺ سے بیعت کی۔

نیز فرمایا کہ: اس نے جان لی وہ چیز جو ان کے دلوں میں ہے (یعنی ایمان اور سچائی) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی (یعنی عین اسی وقت) لو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شہادت ان لوگوں کے صدق ایمان پر جنہوں نے درخت کے نیچے حضرت نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی۔ علاوہ ازیں حضرت نبی کریم ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبُ الْحَمَلِ الْأَحْمَرِ»^①
”کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا، سوائے سرخ اونٹ والے کے۔“

یہ شخص منافقین میں سے تھا اور ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ (عمرہ کے لیے) نکلے تھے اور اس کا نام جد بن قیس تھا۔ جن لوگوں نے درخت کے نیچے حضرت نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کی تعداد ایک ہزار چار سو (۱۴۰۰) تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک ہزار پانچ سو (۱۵۰۰) تھی۔

① ترمذی کتاب المناقب، باب فی فضل من بايع تحت الشجرة، رقم: ۸۳۶۳ واصلہ فی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، رقم: ۱۶۳

اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شہادت دی اور ثابت کر دیا کہ ان کے باطن ان کے ظاہر کے مطابق ہیں نیز رسول اللہ کی شہادت سے معلوم ہوا کہ ان میں سوائے ایک آدمی کے اور کوئی آدمی منافق نہیں تھا اور حضرت نبی کریم ﷺ نے اس کے متعلق بتا بھی دیا کہ وہ کون تھا۔ اور پھر اس شخص نے آپ کی بیعت نہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا ﴾

”تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور (اس کی راہ) میں لڑائی کی وہ ان لوگوں سے درجات میں بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور (اس کی راہ میں) لڑائی کی۔“

پھر فرمایا؟ ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد: ۱۰]

”اور اللہ نے سب سے اچھائی (یعنی جنت) کا وعدہ کیا ہے۔“

یعنی اس نے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کیا اور اس کی راہ میں لڑائی کی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے فتح مکہ کے بعد (فی سبیل اللہ) خرچ کیا اور اس کی راہ میں لڑائی کی، سب سے اچھائی (یعنی جنت) کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی وعدہ کی تائید اس تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۚ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ۚ وَتَتَلَقَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الانبیاء: ۱۰۱-۱۰۳]

”بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ

اس (جہنم) سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے نفسوں کو پسند لگیں گی، انہیں بڑی گھبراہٹ بھی غم میں نہ ڈالے گی۔ اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری شہادت ہے ان عام صحابہ کرام کے متعلق، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور خرچ کرتے رہے۔

اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کے مصارف کے متعلق فرمایا:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾

”کہ یہ ان مہاجر ناداروں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیئے گئے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کے قلبی عمل کی تصدیق کرتا ہے۔ کیونکہ خوشنودی اور فضل کی خواہش قلبی عمل ہے۔

آگے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

”اور (مالِ غنیمت سے حصہ) ان لوگوں کے لیے (بھی) ہے جو وطن بنا چکے تھے گھر (دارالہجرت مدینہ) کو اور ایمان کو ان (کی ہجرت) سے پہلے۔“

اور یہ انصار مدینہ تھے۔

نیز فرمایا

﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ۹، ۸]

”وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں اور ان (مہاجرین) کو کچھ دیا جاتا ہے تو یہ سینوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی فاقہ ہو اور جو لوگ اپنے نفس کی حرص سے محفوظ کر دیئے گئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ۱۱۱]

”کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔“

اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک امت جسے اللہ تعالیٰ بہترین امت بتائے اور وہ درحقیقت ایسی ہو جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) تمام مہاجرین اور انصار مرتد ہو گئے، سوائے تین آدمیوں کے۔^① کیونکہ جو امت ساری کی ساری مرتد ہو گئی ہو سوائے تین آدمیوں کے، اسے اللہ تعالیٰ ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً﴾^②

① اصول کافی: ۲/۲۴۴

② بخاری کتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي لو كنت متخذًا خليلاً، رقم: ۳۶۷۳، مسلم= کتاب فضائل الصحابة رقم: ۲۲۱

”کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد (نصف کلوغملہ) کے برابر نہیں پہنچ سکے گا اور نہ اس کے نصف کو۔“
صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا:
قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔
وہ کہیں گے:

”لَبَّيْكَ يَا رَبِّ“

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

کیا تو نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے: جی ہاں!
پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟
وہ کہیں گے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
تب اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائیں گے: تمہاری گواہی کون دے گا کہ تم
نے پیغام پہنچایا تھا؟

وہ کہیں گے: ”حضرت محمد ﷺ اور اس کی امت۔“

چنانچہ وہ حضرت نوح ﷺ کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت رسول
کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور
رسول تم پر گواہ بن جائے۔“

پھر حضرت نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تفسیر کرتے فرمایا:

” اَلْوَسَطُ اَلْعَدْلُ“ کہ وسط سے مراد عدل ہے (یعنی متوازن اور افراط و تفریط کے درمیانی راہ چلنے والی امت)۔^①

یہ تفسیر حضرت رسول کریم ﷺ سے منقول ہے کہ وسط سے مراد عدل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ امت محمدیہ امت عادلہ ہے، علاوہ ازیں اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو اجمالی اور عمومی اعتبار سے حضرت رسول کریم ﷺ کے صحابہ کی عدالت پر دلالت کرتے ہیں۔ (مثلاً) اہل علم نے ان روایات کو جو اصحاب رسول نے آپ کے حوالے سے بیان کی ہیں، کھنگالا اور پرکھا تو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہ ملا جس نے حضرت رسول کریم ﷺ پر کوئی جھوٹ بولا ہو، بلکہ صحابہ کرام کے آخری دور میں جب قدریہ اور شیعہ اور خوارج جیسے فرقوں کی بدعات کا دور شروع ہوا تو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہ ملا جو ان اقوام میں شامل ہوا ہو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور وہ آپ کی رفاقت مبارکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پسند تھے۔^②

عصمت صحابہ؟

اتنا کچھ ثابت ہونے کے باوجود اس بات پر متنبہ کرنا ضروری ہے کہ ان کی عدالت سے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ ہم اصحاب رسول کی عدالت کے قائل ہیں لیکن ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ پھر بھی بشر ہیں۔

① بخاری، کتاب التفسیر: باب و کذالك جعلناكم امة وسطا، رقم الحدیث: ۴۸۷

② حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو کسی کے دل کو حضرت محمد ﷺ کے دل جیسا نہ پایا، تو اسے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے پسند فرمایا، پھر حضرت محمد کے دل کے بعد باقی لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تو کسی کے دل کو صحابہ کرام کے دلوں جیسا نہ پایا، تو اس نے انہیں اپنے نبی

کے وزیر بنادیا۔ مسند احمد ۱/۳۷۹

اور حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

«كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ»

”حضرت آدم علیہ السلام کے سب بیٹے خطا کار ہیں۔“

تو وہ بھی اولاد آدم ہونے کے ناطے سے خطا کار ہیں، وہ غلطی بھی کرتے ہیں اور درستی بھی، اگرچہ ان کی خطائیں ان کی نیکیوں کے سمندر میں غرق ہو چکی ہیں۔ [بخاری رحمہ اللہ]

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اہل حق گروہ یعنی اہل السنہ والجماعۃ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے۔^①
امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

اہل السنہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سب کے سب عادل تھے اور سوائے چند مبتدعین کے اور کسی نے اس اتفاق کی مخالفت نہیں کی۔^②
علاوہ ازیں امام عراقی، امام جوینی، امام ابن صلاح، امام ابن کثیر وغیرہم نے بھی اس بات پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ اصحاب رسول سب کے سب عادل ہیں۔

امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول سے ان کے متعلق کوئی چیز بھی ثابت نہ ہوتی تو بھی ان کی ہجرت اور نصرت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، دین حق کی خیر خواہی اور اس کی خاطر اپنی اولاد اور ماں باپ سے لڑائی کرنا، نیز ان کی ایمانی قوت اور یقین قطعی جیسی خوبیاں، اس بات کا اعتقاد رکھنے کے لیے کافی ہیں، کہ وہ ہستیاں، صاف ستھری اور عادل ہیں اور وہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر عادل ہیں جو ابداً لادتا تک ان کے بعد آئیں گے۔^③

① استیعاب ۸/۱

② اصابہ ۱۷/۱

③ الکفایہ فی علم الروایہ ص: ۹۱

صحابہ کرام کی عدالت پر نکتہ چینی کرنے والے کون؟

صحاب رسول ﷺ کی عدالت پر نکتہ چینی کرنے والے چار فرقے ہیں:-
 شیعہ،..... خارجی،..... ناصبی،..... معتزلی۔
 مسلمانوں کے اجماع میں ان لوگوں کی حیثیت، پرکاش کے برابر نہیں ہے، اس لیے ان کی مخالفت کسی شمار میں نہیں ہے۔
 صحاب رسول پر ان کی نکتہ چینی اور جرح کے دلائل کیا ہیں؟
 پہلی دلیل: کچھ صحابہ کرام سے گناہ کا صدور ہونا۔
 دوسری دلیل: قرآن و سنت کی نص کے مطابق چند صحابہ کا منافق ہونا۔
 تیسری دلیل: عدالت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان کے درجات بھی یکساں ہوں، جبکہ ہم سب کے نزدیک ان کے درجات میں مساوات نہیں ہے تو اس طرح ان میں عدالت کی مساوات بھی نہ ہوئی۔
 چوتھی دلیل: تمام صحاب رسول کی عدالت پر کوئی دلیل نہیں پائی گئی۔
بعض صحابہ کرام سے معاصی کا صدور ہونا؟:

جواب: ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان صحابہ کرام سے گناہوں کا ظہور پذیر ہونا ان کی عدالت کے منافی نہیں۔ ہمارا اعتقاد صرف اتنا ہے کہ وہ عادل ہیں، معصوم نہیں ہیں۔

بعض صحابہ کا نص سے منافق ہونا؟

جواب: رہا ان کا یہ کہنا کہ بعض صحابہ کرام منافق تھے تو یہ صاف جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ منافقین کا صحابہ میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ صحابی کی تعریف پڑھیں

گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضرت نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔
جبکہ منافقین نے ایمان کی حالت میں حضرت نبی کریم ﷺ سے ملاقات نہیں کی اور نہ وہ ایمان پر فوت ہوئے لہذا وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہیں۔

عدالت کا تقاضا کہ درجات میں مساوات ہو؟

جواب: باقی رہا ان کا یہ خود ساختہ اصول کہ ان کی عدالت سے ان کا مساوی درجات ہونا لازم آتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عادل ہیں اور بعض صحابہ، بعض سے افضل ہیں۔ چنانچہ ابو بکر تمام صحابہ رسول سے افضل ہیں ان کے بعد عمرؓ، ان کے بعد عثمانؓ، ان کے بعد علیؓ، ان کے بعد عشرہ مبشرہ (رضی اللہ عنہم)، ان کے بعد بدری صحابہ اور پھر بیعت رضوان والے صحابہ مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فضیلت میں یکساں نہیں ہیں۔

جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَ كَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [الحديد: ۱۰]

”کہ تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ ان لوگوں سے درجات میں بڑھ کر ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد (فی سبیل اللہ) خرچ کیا اور لڑائی کی اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔“

تمام صحابہ کی عدالت پر دلیل نہیں؟

جواب: رہا ان کا یہ کہنا کہ تمام صحابہ کی عدالت پر کوئی دلیل نہیں پائی گئی، سوا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی عدالت کے ثبوت میں قرآن و سنت کے بعض دلائل گزر چکے

ہیں، تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مبتدعین نے صحابہ کی عدالت کی نفی پر بعض دلائل سے استدلال کیا ہے لیکن ان کے دلائل ذکر کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ۷]

”کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکم آیات بھی ہیں، جو اصل کتاب ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ (گمراہی) کشید کرنے کے لیے اور (غلط) مطلب اخذ کرنے کے لیے جبکہ ان کا اصل مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لایو یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقلمندوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتا۔“

ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو لوگ عدالت صحابہ کے قائل نہیں ہیں، ان کے پاس شبہات نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب اللہ سے شبہات بھی ہیں اور سنت رسول سے بھی۔



صحابہ کرام کے متعلق شبہات اور ان کے جوابات

پہلا شبہ اور اس کا جواب:

پہلے شبہ کے متعلق، اہل بدعت ہمیں اس حدیث نبوی کا مطالعہ کرواتے ہیں جو حوض کوثر کے متعلق ہے کہ:

« يَرُدُّ عَلَيَّ رِجَالٌ أَعْرَفُهُمْ وَ يَعْرِفُونَنِي فَيَذَادُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ »^①

”مجھ پر کچھ لوگ وارد ہوں گے، جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ جب وہ حوض کوثر سے دور ہٹا دیئے جائیں گے تو میں کہوں گا میرے ساتھی! میرے ساتھی! تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات رواج دی تھیں؟“

اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور اس کی تائید میں بہت سی دیگر روایات بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:

« إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظَرَ مَنْ يَرُدُّ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَ سَيُؤْخَذُ أَنْاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَنِيٌّ وَ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَ اللَّهُ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرِجَعُونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ »

”بے شک میں حوض پر ہوں گا، تاکہ میں تم میں سے اپنے اوپر وارد ہونے والوں کو دیکھ سکوں اور عنقریب کچھ لوگوں کو پکڑ کر مجھ سے جدا کر دیا جائے گا۔ میں کہوں

① صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب کما بدأنا اول خلق نعیده رقم: ۴۷۴۰ باب کما بدأنا

اول خلق نعیده۔ و کتاب الفتنة، رقم الحدیث: ۴۷۴۰، مسلم کتاب الطهارة ۳۶، ۳۷

گا اے میرے رب! یہ مجھ سے ہیں اور میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اللہ کی قسم یہ آپ کے بعد مسلسل اپنی ایڑیوں پر پھرتے رہے۔“

اس روایت کے راوی ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا»

”اے اللہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔“

دوسری روایت اس طرح ہے:

«أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَا نَزَعَنَّ أَقْوَامًا تَمَّ لِأَعْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ

يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ»^①

”کہ میں تم سے پہلے حوض پر پہنچ چکا ہوں گا اور چند اقوام کے متعلق میں جھگڑا

کروں گا پھر میں خاموش کر دیا جاؤں گا، میں کہوں گا اے میرے رب! یہ

میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے

کہ انہوں نے تیرے بعد کس قدر بدعات پھیلائیں۔“

ان دونوں حدیثوں کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

چنانچہ ہم ان روایات کا صحیح مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

① پہلی بات یہ ہے کہ ان صحابیوں سے مراد وہ منافقین ہیں جو عہد نبوت میں اسلام کا اظہار

کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ۱]

”جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، کہ

آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔“

یہ لوگ ان منافقین میں سے تھے۔ جن کے نفاق کو حضرت نبی کریم ﷺ نہیں جانتے تھے، انہی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ وَ مِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا

عَلَى النِّفَاقِ لَا نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ۱۰۱]

”اور آپ کے گرد و پیش اعرابیوں میں سے منافقین بھی ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی چند لوگ حد نفاق تک پہنچ چکے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔“

سو وہ لوگ (جو حوض کوثر سے ہٹا دیئے جائیں گے) ان منافقین میں سے تھے جنہیں حضرت نبی کریم ﷺ صحابہ کرام میں سے سمجھتے تھے لیکن وہ صحابہ نہ تھے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور (سب لوگ جانتے ہیں کہ) اکثر عرب مرتد ہو گئے تھے، جی کہ سوائے اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل طائف اور ایک قول کے مطابق اہل بحرین کے اور کوئی قبیلہ اسلام پر قائم نہ رہا، سب کے سب اپنی ایڑیوں پر پھر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت رسول کریم ﷺ فرمائیں گے « أَصْحَابِي أَصْحَابِي! » ”میرے ساتھی! میرے ساتھی!“ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کارنامہ (ارتداد) سرانجام دیا تھا کیوں کہ لوگ آپ کے بعد پے در پے اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے رہے۔

③ تیسری بات یہ ہے، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ تو

رہے، لیکن انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، لہذا وہ لوگ اصطلاحاً صحابی کی تعریف میں داخل نہیں۔

اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے کہا کہ:

«لَعْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ»

”کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت دار، ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔“

تو مدینہ منورہ کے اس رئیس المنافقین کی یہ بات حضرت عمرؓ کو سنائی گئی، تو انہوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں؟

آپ نے فرمایا: نہیں! کہیں یوں نہ کہا جانے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔^① چنانچہ حضرت رسول کریم ﷺ نے اسے عرفاً اپنے صحابہ میں شامل کیا۔ یعنی عربی یا لفظی اعتبار سے نہ کہ اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے کیونکہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنا نفاق ظاہر کر دیا تھا اور اللہ نے اسے رسوا کر دیا تھا۔

② چوتھی بات یہ ہے کہ بسا اوقات کلمہ (أَصْحَابِي) سے وہ تمام لوگ مراد لیے جاتے ہیں جو قبول اسلام کے حوال سے حضرت رسول کریم ﷺ کے ساتھی یعنی امتی بنے اگرچہ انہوں نے آپ کو نہ بھی دیکھا ہو، اور ہماری اس توجیہ پر اُمَّتِي! اُمَّتِي! يَا اِنَّهُمْ اُمَّتِي کے الفاظ والی روایت دلالت کرتی ہے۔

باقی رہا حضرت نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان کہ میں انہیں پہچانتا ہوں گا، سو آپ واضح کر چکے ہیں کہ میں اس امت کو پہچان لوں گا، چنانچہ جب آپ سے پوچھا

① بخاری - کتب التفسیر - باب يقولون لئن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، رقم الحديث: ۴۹۰۷

گیا کہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے حالانکہ آپ نے انہیں دیکھا نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا: میں انہیں وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔^①

ان تمام توجیہات کے بعد گزارش کرتا چلوں کہ خارجی اور ناصبی و معتزلی حضرات اصحاب رسول کے ارتداد پر اس حدیث پر استدلال نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف شیعہ صاحبان ہی استدلال کرتے ہیں تو انہیں کہا جائے گا کہ: وہ کون سی دلیل ہے جو حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، حضرت حمزہؑ، حضرت عباسؑ وغیرہم اہل بیت کو اس سے مستثنیٰ کرتی ہے؟ اور ان کو مرتدین کی صف میں شامل کرنے سے روکتی ہے؟

جبکہ ہم لوگ تو ان محترم ہستیوں کے ارتداد کے قائل نہیں حاشا و کلاً اور اللہ کی پناہ ہم ان کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ان کی امامت اور بزرگی کے

① بخاری کتاب الوضوء: باب فضل الوضوء رقم: ۱۳۹، مسلم، کتاب الوضوء، رقم: ۳۵؛ فان لا۔ (پوری روایت اس طرح ہے کہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قبرستان پر گئے اور فرمایا:

«الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»

”کہ مومن قوم کے گھر والو! تم پر سلامتی ہو اور بے شک ہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔“

لوگوں نے کہا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟

آپ نے فرمایا: تم میرے صحابی ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔

لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ان امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟

آپ نے فرمایا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پانچ کلیان گھوڑے ان گھوڑوں میں پھر رہے ہوں جو سیاہ رنگت والے ہیں، تو انہیں پہچان نہ سکے گا؟۔

انہوں نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے مقدس رسول۔

آپ نے فرمایا: وہ وضو کی وجہ سے پانچ کلیان آئیں گے اور میں ان سے پہلے حوض پر پہنچ چکا ہوں گا۔ آگاہ رہنا کہ کچھ لوگ میرے حوض سے یوں دور ہٹا دیئے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ ہٹایا جاتا ہے، میں انہیں آواز دوں گا، ادھر آؤ، تو مجھے کہا جائے گا، کہ انہوں نے آپ کے بعد (آپ کے دین کو) بدل دیا تھا۔ تو میں کہوں گا «سُحَقًا سُحَقًا» کہ: ”تمہاری ہلاکت ہو۔“

قائل ہیں اور حدیث نبوی کے مطابق ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں جیسے کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حرا پر چڑھے تو فرمایا: اے حراء! ٹھہرا جا! تیرے اوپر نبی ہے، یا صدیق یا شہید^①

اور اس وقت حضرت علیؑ آپ کے ساتھ تھے اور وہ جنتیوں میں ہیں۔
اور آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا حسنؑ اور حسینؑ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔^②

ہم شیعہ سے کہیں گے کہ اگر تم کہو کہ ابو بکرؓ، عمرؓ، ابو عبیدہؓ وغیرہ اصحاب رسول ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حوض سے دور ہٹا دیا جائے گا تو پھر ناصبیوں جیسے لوگوں کو یہ بات کہنے سے کون روکے گا کہ علیؑ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حوض سے روکا جائے گا۔

اگر تم کہو گے کہ حضرت علیؑ کے فضائل ثابت ہو چکے ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ حضرت ابو بکرؓ اور عمر فاروقؓ کے فضائل ان سے بھی زیادہ ثابت ہو چکے ہیں۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب:

دوسرے شبہ کے متعلق اہل ہدعت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے فاسد استدلال کرتے ہیں:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ
فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ

① سنن ابی داؤد = کتاب السنۃ: باب فی الخلفاء رقم: ۴۶۴۸ - سنن الترمذی = کتاب المناقب -

باب مناقب سعید بن زید، رقم: ۳۷۵۷

② سنن ترمذی = کتاب المناقب رقم: ۳۷۶۸، ابن ماجہ = المقدمة فضائل علی بن ابی طالب

فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْنَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ
سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿[الفتح: ۲۹]

”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے (شرافت و بزرگی کی) علامات ہیں، ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے۔ جیسے کھیتی نے اپنی کونپلیں نکالیں، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی ڈالی پر کھڑی ہوئی، اس کا یہ منظر کسان کو دلکش لگتا ہے (اللہ نے انہیں اس کھیتی کی طرح شاداب کیا) تاکہ وہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے (اور وہ صحابہ کی شان کو دیکھ کر دانت پیسنے لگیں)، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے، ان لوگوں کے ساتھ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں اصحاب رسول کی مدح اور تعریف روز روشن کی طرح آشکار ہو رہی ہے لیکن جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں (جو ہم نے چند سطریں پہلے بھی ذکر کی ہے) فرمایا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينٌ فَيَسْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾

”کہ جن لوگوں کے دلوں میں کچی (یا کھوٹ) ہے وہ فتنہ اور من مرضی کا مطلب تلاش کرنے کے لیے متشابہات سے استدلال کرتے ہیں۔“

اسی طرح یہ لوگ، اس آیت کریمہ کے آخری کلمات ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ کے درپے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مِنْهُمْ (بمعنی ”ان میں سے“) سے مراد ان میں سے کچھ لوگ ہیں کیونکہ یہاں ”مِنْ“ تبعوضیہ ہے، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہذا ان میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ نہیں جائیں گے۔^①

ان لوگوں کا یہ استدلال محض، تلبیس اور کذب ہے، بلکہ اس قماش کے لوگوں میں سے چند لوگوں نے اس حد تک جسارت کی کہ اس پر مفسرین کے اجماع کا بھی دعویٰ کر دیا کہ یہاں مِنْ کا لفظ تبعوضہ ہے۔

جبکہ بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ دعویٰ سرے سے کذب پر مبنی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علمائے تفسیر کے بقول یہاں لفظ (مِنْ) تبعوض کے لیے نہیں ہے یعنی مِنْهُمْ کا مطلب مِنْ بَعْضِهِمْ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مِنْهُمْ دو معنوں میں آتا ہے۔

① پہلا معنی یہ ہے کہ ان کی جنس اور ان جیسوں سے، جس طرح قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد ہے:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [حج: ۳۰]

”کہ تم (ہر طرح کے) بتوں کی پلیدگی سے بچو۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے کہ تم بعض بتوں کی پلیدگی سے بچو اور بعض سے نہ بچو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمام بتوں کی پلیدگی سے بچیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ ان جیسے

① نَمَّ اهْتَدَيْتُ: ۱۱۷ (المحمد التیجانی الشیعی)

بتوں کی نجاست سے بچو،

﴿۲﴾ دوسرا معنی یہ کہ یہاں مِنْ مَّوَكَّدَہ ہے، جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ﴾ کہ ہم قرآن سے (وہ چیزیں) نازل کرتے ہیں جو (سراسر) شفاء اور رحمت ہیں۔ چنانچہ اس آیت یعنی ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ﴾ میں مِنْهُمْ سے مراد مِنْ أُمَّثْلِهِمْ ہے۔

﴿۳﴾ تیسرا معنی یہ کہ یہاں مِنْهُمْ تاکید کے لیے ہے یعنی ان جیسے نیکو کاروں سے یا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿عَلَيْهِمْ﴾۔

مزید برآں آیت کے سیاق پر غور کیجئے۔ یہ آیت مکمل طور پر مدح پر مشتمل ہے، اس میں کسی ایک صحابی کی بھی مذمت نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کی مدح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾

اور ان کے باطن کے تزکیہ کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾

دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ان کے رکوع اور سجد اور عاجزی و انکساری کا تذکرہ کر کے ان کی ظاہر کی پاکیزگی بیان کی اور ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ کا تذکرہ کر کے ان کے باطن کی پاکیزگی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف منافقین جیسے بیان نہیں کیے کہ:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرْأُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

”کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی تگ و دو کرتے ہیں اور وہ انہیں ان کے عمل کی جزا دینے والا ہے، جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے ہوئے دل سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔“

دیکھیے اللہ نے ان کا وصف کس طرح بیان کیا، ان کے باطن کی پاکیزگی بیان نہیں کی، باوجود اس کے کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے باطن کو جھٹلا دیا ہے، جبکہ صحابہ کے متعلق بیان فرمایا: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ مزید برآں (مِنْهُمْ) سے، (مِنْ جَنْسِهِمْ) یا (تاکید علیٰ حالہم) مراد لینا، جمہور مفسرین بلکہ تمام اہل سنت مفسرین کا قول ہے مثلاً (۱) نسفی، (۲) ابن الجوزی، (۳) ابن الانباری، (۴) زحشری، (۵) الزجاج، (۶) العکبری، (۷) نیشاپوری، (۸) ابن کثیر، (۹) طبری وغیرہم مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر پر بحث کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ یہاں کلمہ ”مِنْ“ تبعیض کے لیے نہیں ہے جیسا کہ دشمنان خدا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ تاکید کے لیے ہے، یا جنس بیان کرنے کے لیے ہے۔^①

تیسرا شبہ اور اس کا جواب:

اس طرح کے دیگر شبہات کی طرح وہ اس روایت سے بھی شبہ وارد کرتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ عمرہ کیے غرض سے حدیبیہ پہنچے اور وہاں قریش کے ساتھ مصالحت منعقد ہوگئی، تو آپ نے عمرہ کیے بغیر لوٹنے کے ارادے سے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ سرمنڈوائیں اور قربانیاں کریں، تو صحابہ کرام نے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اس عدم تعمیل کو دیکھ کر آپ حضرت ام سلمہؓ کے پاس غصہ کی حالت میں

① دیکھئے اعراب القرآن و صرفہ و بیانہ تالیف محمود صافی: ۲۶، ص: ۲۷۲

تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا:

اے اللہ کے پیارے رسول! آپ غصے میں کیوں ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں کیوں نہ غصہ کروں، میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں، وہ میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ [بخاری] ①

مبتدعین کہتے ہیں کہ صحابہ رسول ﷺ نے آپ کو ناراض کیا اور اس طرح کے لوگوں کا عادل ہونا محال ہے۔

اس واقعہ کی اصل صورتحال بیان کرنے سے قبل ہم عروہ بن مسعود ثقفی کا حیرت انگیز مشاہدہ بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت نبی کریم ﷺ جب کبھی تھوکتے تو صحابہ کرام اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے اور میں قیصر روم اور کسریٰ ایران اور نجاشی حبشہ کے درباروں میں حاضر ہو چکا ہوں، میں نے کسی کو اپنے بادشاہ کی اس قدر تعظیم کرتے نہیں دیکھا، جس قدر محمد ﷺ کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ صحابہ کرام کی معصیت و نافرمانی کا نہیں، بلکہ ان کے وفور شوق کا تھا، ان کی شدید آرزو تھی کہ وہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کریں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کاش حضرت رسول کریم ﷺ اپنی رائے بدل لیں، یا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو مکہ داخل ہونے کا حکم دے دے۔

اس آرزو میں انہوں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل میں تاخیر کی، ہماری اس توجیہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حکمت دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا: آپ اپنا سر منڈوائیں اور قربانی ذبح کریں۔ چنانچہ حضرت رسول کریم ﷺ نکلے اور اپنا سر منڈوایا اور قربانی کی، تو تمام صحابہ اپنے سر منڈوانے اور

① صحیح بخاری - کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد: ۲۷۲۱

قربانیاں کرنے لگے۔

گویا اصل بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ معصیت و نافرمانی کا نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ انہوں نے آپ کے بولے بغیر ہی محض آپ کو دیکھ کر اپنے سرمنڈوانے اور قربانیاں کرنی شروع کر دیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور سوائے واپس لوٹنے کے کوئی چارہ نہیں، اس لیے انہوں نے سرمنڈوائے اور قربانیاں کیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اسی بنا پر اللہ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾

اور یہ بھی نازل فرمایا:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

اور پوری سورہ نازل فرما کر اس کا نام سورہ فتح رکھا کیونکہ یہ صلح کے بعد نازل کی تھی اور یہ صلح درحقیقت اصلی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی۔

مزید برآں ہمارا جواب یہ بھی ہے کہ اس روایت سے صرف شیعہ ہی استدلال کرتے ہیں، ناصبی اور خارجی اور معتزلی اس سے استدلال نہیں کرتے، ناصبی تو اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور وہ اس فرقے کے بہت عرصہ بعد ظاہر ہوئے اور خارجی تو اس وقت (صلح حدیبیہ کے وقت) موجود ہی نہ تھے اور پھر خارجی تو ان صحابہ کو بھی کافر کہتے تھے جنہوں نے باہم جنگ کی۔ اور معتزلہ وہ ہیں جو جنگ جمل اور صفین جیسے فتنوں میں شامل ہونے والے اصحاب رسول کی عدالت پر حرف گیری کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں ہم شیعہ صاحبان سے کہیں گے کہ:

کیا ان کے ساتھ (صلح حدیبیہ کے وقت) حضرت علی بھی تھے یا نہیں!؟
اہل سنت اور شیعہ کا اجماع ہے کہ حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ آپ
نے ہی آنحضرت ﷺ اور سہیل بن عمرو کا صلح نامہ لکھا اور حضرت علی بھی قربانی
کر رہے تھے، نہ اپنا سر منڈوا رہے تھے تو جس وجہ سے صحابہ کرام کی عدالت مجروح
ہوگی اسی وجہ سے حضرت علی کی عدالت بھی مجروح ہوگی، لیکن ہم اہل السنۃ نہ حضرت
علی کی عدالت پر طعن کرتے ہیں نہ دیگر صحابہ کرام کی عدالت پر۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب:

(صحابہ کرام کی عدالت میں شبہات ڈالنے والے حضرات) یہ کہتے ہیں کہ
حضرت نبی کریم ﷺ نے لشکر اسامہ تشکیل دیا تو اس میں ابو بکرؓ، عمرؓ اور دیگر بڑے
بڑے صحابہ کو شامل کیا اور فرمایا: ﴿لَعْنَ اللّٰهِ مَنْ تَحَلَّفَ عَن جَيْشِ اُسَامَةَ﴾ (کہ
اللہ ان پر لعنت کرے جو لشکر اسامہ سے پیچھے رہیں) تو جب حضرت رسول کریمؐ فوت
ہوئے اور لشکر اسامہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تو ابو بکر و عمر اس کے ساتھ نہ گئے لہذا یہ
دونوں حضرت رسول کریم ﷺ کی زبان سے (نعوذ باللہ) ملعون قرار پائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اولاً تو یہ سفید جھوٹ ہے، حضرت نبی کریم ﷺ سے یہ بات
ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے فرمایا ہو، اللہ اس پر لعنت کرے جو اس لشکر سے پیچھے
رہے، یہ ٹھیک ہے کہ حضرت رسول کریمؐ نے لشکر اسامہ تیار کیا، لیکن اس سے پیچھے
رہنے والے پر لعنت نہیں فرمائی۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی لشکر اسامہ میں تشکیل نہیں ہوئی،
کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت نبی کریم ﷺ کی بیماری کے
ایام میں بحکم رسولؐ مسلسل بارہ دن مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہے، تو آپ انہیں بیک وقت
مدینہ میں نماز پڑھانے اور لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم کیسے دے سکتے تھے؟

البتہ حضرت عمر فاروق کا نام لشکر اسامہ میں ضرور شامل تھا لیکن جب حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو لشکر اسامہ ابھی مدینہ منورہ میں موجود تھا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے حضرت عمر فاروق کو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے عظیم خلق پر دلالت کرتی ہے۔

ورنہ آپ مملکت اسلامیہ کے سربراہ ہونے کے ناطے سے بغیر اجازت طلب کیے بھی نہیں اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر گئے۔ یہ ہے لشکر اسامہ کا اصل واقعہ نہ کہ اس طرح جیسے کذاب بیان کرتے ہیں۔^①

پانچواں شبہ اور اس کا جواب:

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ فوت ہوئے تو اکثر عرب اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مرتدین سے لڑنے کی غرض سے عسا کر اسلام کو روانہ فرمایا، ان کے سپہ سالاروں میں خالد بن ولید بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے انہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا اور وہ اس عظیم معرکہ میں فتیاب ہو گئے۔ اس معرکہ کو معرکہ حدیقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید، اللہ کے دین سے مرتد ہونے والے عرب قبائل کی خبر لینے گئے، ان میں سے جو قبائل دین اسلام کی طرف لوٹ آتے انہیں وہ چھوڑ دیتے اور جو اپنے کفر پر قائم رہتے ان سے جنگ کرتے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جن اقوام پر چڑھائی کی تھی، ان میں مالک بن نویرہ

① دیکھئے تاریخ طبری ۲/۴۲۹، الکامل ۲/۲۱۵ - البدایة والنہایة ۵/۲۰۳ و ما بعدھا

کی قوم بھی تھی اور اس قوم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس نے کبھی بھی زکوٰۃ نہ دی تھی۔

جب حضرت خالد، ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ:

تم نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کیوں کی؟ اموال کی زکوٰۃ کہاں ہے؟ مالک بن نویرہ کہنے لگے، ہم یہ مال آپ کے صاحب کی زندگی میں اسے دیتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ابو بکر کا اس میں کیا حق ہے۔

یہ سن کر حضرت خالد غصے میں آ گئے اور فرمایا کیا وہ ہمارا صاحب ہی ہے کیا وہ تمہارا صاحب نہیں ہے؟ آپ نے ضرار بن ازور کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ اور ایک قول کے مطابق مالک بن نویرہ نے نبوت کی جھوٹی دعویٰ سراج بنت الحارث کی پیروی کر لی تھی۔^①

کتب تاریخ میں ایک تیسری روایت بھی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے اس مسئلہ پر گفت و شنید کی اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قید کر لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا: «أَدْفِنُوا أَسْرَانَا» ”کہ اپنے قیدیوں کو گرمائش دو۔“ کیونکہ رات ٹھنڈی تھی۔ لیکن بنو ثقیف کی لغت میں «أَدْفِنُوا الرَّجُلَ» کا مطلب یہ تھا کہ اسے قتل کر دو۔ لہذا انہوں نے سمجھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان قیدیوں کو حضرت خالد کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا۔

ان تینوں وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی ہو، حضرت خالد نے تاویل کی بنا پر انہیں قتل کیا۔ اس لیے ان پر عیب نہیں لگایا جاسکتا۔

① اس بات کو شیعی عالم ابن طاووس نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ: بنو تمیم اور زیات مرتد ہو گئے تھے اور مالک بن نویرہ یروعی کی کمان میں چلے گئے تھے دیکھئے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب

باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ یربوعی کو قتل کر کے اسی رات اس کی بیوی سے خلوت کی تو یہ صریح جھوٹ ہے۔

البتہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے قتل کیا اور اس قوم کو قیدی بنایا تو اس کی بیوہ کو بھی قید کر لیا، لیکن یہ کہنا کہ آپ نے پہلی رات ہی اس سے خلوت کی، یا مالک بن نویرہ کو اس کی بیوی ہتھیانے کے لیے قتل کیا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔^①

اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں (دادِ شجاعت دینے والا غازی) حضرت خالد بن ولید وہ مجاہد ہے جو کہا کرتا تھا۔

«لَأَنْ أُصَبِّحَ الْعَدُوَّ فِي لَيْلَةٍ شَاتِيَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُهْدَى إِلَيَّ فِيهِ عَرُوسٌ أَوْ أُبَشَّرَ فِيهَا بِوَلَدٍ»^②

”سرد ترین رات میں صبح تک دشمن سے برس پر پکار رہنا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ اس میں مجھے خوبصورت دلہن دی جائے یا مجھے اس میں لڑکے کی بشارت دی جائے۔“

حضرت خالد ان عظیم جرنیلوں میں سے ہیں جن کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُبُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَشْرِكِينَ»^③

”کہ خالد تو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جسے اللہ نے مشرکین پر سونپنا ہوا ہے۔“

اسی بنا پر جب حضرت خالد بن ولید سے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں

① دیکھئے البداية والنهاية ۳۲۶/۶

② البداية والنهاية ۱۱۷/۷

فأنا - (خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ: «عجزن النساء ان یلدن مثل خالد») کہ عورتیں خالد جیسا جوان مرد پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔“

③ فتح الباری کتاب فضائل صحابہ باب مناقب خالد ۳۷۵۷، ابن عساکر ۱۵/۸،

دیکھئے سلسلة الاحادیث الصحیحة ۱۲۳۷

کے قتل جیسا سانحہ سرزد ہوا، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ خالد کو معزول کر دیجئے، کیونکہ اس کی تلوار میں خونریزی ہے۔

تو حضرت ابو بکر نے فرمایا:

«لَا وَاللَّهِ! سَيْفٌ سَلَّهَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ»^①

”اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تلوار ہیں جسے اللہ نے مشرکین پر سونپا ہے۔“

چھٹا شبہ اور اس کا جواب:

امیر معاویہ کا حجر بن عدی کو قتل کرنا،

حجر بن عدی کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی۔

امام بخاریؒ، ابو حاتم رازیؒ، ابن حبانؒ، ابن سعدؒ، خلیفہ بن خیاطؒ، جیسے جمہور

اہل علم کے قول کے مطابق حجر بن عدی تابعی ہیں، صحابہ سے نہیں ہیں۔^②

امیر معاویہ نے حجر بن عدی (کوفی) کو قتل کس بنا پر قتل کیا؟

حجر بن عدی، حضرت علی المرتضیٰؓ کے ساتھیوں میں سے تھے اور ان کے ساتھ مل کر صفین میں لڑے تھے مگر ان کے قتل کا واقعہ عام الجمانہ یعنی حضرت معاویہ کے حق میں حضرت حسن کی دست برداری اور حضرت امیر معاویہ کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ صلح کے بعد حضرت معاویہ نے زیاد بن ابوسفیان کو کوفے کا گورنر بنایا (اور کوفہ والوں کا حال کسی سے مخفی نہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا اور ان کے بیٹے حسنؓ سے خیانت کی، اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں حضرت سعدؓ کی امارت پر اعتراض کیا، اور انہی لوگوں نے حضرت ولید بن عقبہ کی امارت پر طعن کیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی امارت کو مورد اعتراضات بنایا، بلکہ یہ تلوار کی قوت کے بغیر کسی سے راضی نہ ہوئے) اور یہی زیاد

① الکامل فی التاريخ ۲/۲۴۲

② الاصابۃ ۱/۳۱۳

بن ابوسفیان قبل ازیں حضرت علیؑ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔^① جب حضرت معاویہ نے صلح کے بعد خلافت سنبھالی تو اسے بصرہ پر برقرار رکھا اور کوفہ بھی اس کے کنٹرول میں دے دیا۔

ایک دن صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ زیاد بن ابوسفیان، لوگوں میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک قول کے مطابق انہوں نے خطبہ طویل کر دیا تو حجر بن عدی کھڑا ہو کر کہنے لگا « الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ »، (نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ) لیکن زیاد نے خطبہ جاری رکھا تو اس نے اسے پتھر مارا۔ یہ دیکھ کر حجر کے ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی پتھر مارے اور یہ حرکت عین اس وقت کی گئی جب وہ منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا تھا، زیاد بن ابوسفیان نے حضرت معاویہ کو اس بدتمیزی کی اطلاع دی، تو انہوں نے حجر بن عدی کو اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس نے فتنہ بھڑکانے کی سعی کی تھی۔^② اور شاید حضرت معاویہ نے سوچا کہ سرے سے فتنہ کی جڑ ہی کاٹ دی جائے، اس لیے آپ نے حجر کے قتل کا حکم دیا۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے حجر بن عدی کو کس بنا پر قتل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ: آپ مجھے اور حجر کو چھوڑیے یہاں تک کہ ہم اللہ کے ہاں ملاقات کریں!^③ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں اور حجر کو چھوڑیے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں اکٹھے پیش ہوں۔

ساتواں شبہ اور اس کا جواب:

قضیہ فدک اور میراث فاطمہ رضی اللہ عنہا۔

(عدالت صحابہ کرام میں شبہات پیش کرنے والے) کہتے ہیں کہ:

① تاریخ خلیفۃ بن خیاط: ۲۰۱، ۲۰۲

② الاصابة: ۱/۳۱۳، سیر اعلام النبلاء ۲/۶۳-۶۶، مکمل تفصیل البدایة والنہایة ۸/۵۲ پر دیکھئے

③ البدایة والنہایة ۸/۵۵ اور دیکھئے العواصم من القواصم ۲۲۰

حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق سے حضرت نبی کریم کے ورثہ سے حصہ مانگنے آئیں۔

اس دلیل سے استدلال کرنے والے بھی شیعہ ہیں اور وہ حضرت فاطمہ کے فدک کی جاگیر طلب کرنے کی توجیہ میں اختلاف کرتے ہیں۔

کچھ شیعہ مجتہدین کہتے ہیں کہ فدک کی جاگیر، حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت رسول کریم ﷺ کا ورثہ تھی اور دیگر شیعہ مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ ہبہ تھی اور حضرت رسول کریم ﷺ نے خیبر کے دن حضرت فاطمہ کو ہبہ کی تھی۔

پہلے قول کی بنا پر کہ فدک کی جاگیر، حضرت رسول کریم ﷺ کا ورثہ تھی، اس کا تذکرہ صحیح بخاری و مسلم میں اس طرح ہے کہ حضرت رسول کریم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت رسول کریم ﷺ کی فدک اور خیبر والی جاگیر سے وراثت طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا:

میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

« إِنَّا لَا نُورِثُ ، مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ » ① یا «مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ» ② یا «مَا تَرَكَنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» ③

”کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں کسی کو ہمارا وارث نہیں ٹھہرایا جاتا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“

اس معنی کی یہ تین روایات ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو انہی الفاظ میں یہ حدیث سنائی۔ مسند

① صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، رقم: ۴۹

② صحیح بخاری کتاب فرض الخمس، رقم: ۳۰۹۳، مسلم کتاب الجہاد والسیر: ۴۹

③ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، رقم: ۵۱

احمد کی روایت میں ہے کہ:

« اَنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ » ①

”کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، کسی کو ہمارا وارث نہیں ٹھہرایا جاتا۔“

لیکن صحیحین کی روایت ہے کہ:

« اَنَا لَا نُورَثُ مَا تَرَ كُنَاهُ صَدَقَةٌ »

”بے شک ہمارا وارث نہیں ٹھہرایا جاتا، ہم جو کچھ ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“

اس پر حضرت فاطمہؓ، حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، یا تو اس خیال سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث نبوی سمجھنے میں غلطی کی، یا پھر سننے میں غلطی کی۔ جبکہ حضرت فاطمہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم سے استدلال کیا کہ:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثٰى﴾ [النساء: ۱۱] وغير ذلك

اہل السنہ اس مسئلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عذر تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ حضرت فاطمہ کا عذر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاف دیکھ رہے ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت نبی کریم ﷺ کی متواتر حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عباسؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ اور بذات خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت رسول کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ:

« اَنَا لَا نُورَثُ مَا تَرَ كُنَاهُ صَدَقَةٌ » ②

”بے شک ہمارا وارث نہیں ٹھہرایا جاتا۔ ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“

چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس جواب کو قبول نہ کیا تو اہل السنہ کو شش کرتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کا عذر تلاش کریں، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو

① مسند احمد ۲/۶۲۴

② صحیح بخاری: کتاب فرض الخمس رقم ۳۰۹۴، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسير، رقم ۴۹

حضرت فاطمہؑ کے حق میں قصور وار نہیں سمجھتے۔

شیعی مجتہدین کہتے ہیں کہ وہ ابو بکرؓ سے ناراض ہوئیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر ابو بکرؓ صدیق پر اللہ راضی ہو گیا، تو انہیں حضرت فاطمہؑ کی ناراضی نقصان نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

[فتح: ۱۸]

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن حضرت رسول کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں سے اول نمبر پر تھے۔ لہذا جس شخص سے اللہ راضی ہو گیا اور اس کا رسول بھی راضی ہو گیا تو اسے کسی ناراض ہونے والے کی ناراضی کچھ نقصان نہ دے گی۔

(خیر یہ تو چند معروضی گزارشات تھیں) لیکن ہم تفصیل کے ساتھ اس دلیل کا جواب ذکر کرتے ہیں۔

ان کا یہ کہنا کہ وہ جاگیر حضرت نبی کریم ﷺ کا ورثہ تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریمؐ نے فرمایا:

«إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً» اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اسی بنا پر صحیح مسلم کے بعض طرق میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں «مَا تَرَكَنَا، فَهُوَ صَدَقَةٌ» کہ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

شیعہ مجتہدین اس حدیث کی معنوی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ «مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ» میں لفظ «ما» نافیہ ہے، یعنی ہم نے صدقہ نہیں چھوڑا۔

جبکہ اہل السنۃ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ما موصولہ ہے اور صحیحین کی صحیح روایت میں بھی یوں ہی ہے کہ «مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ» رفع کے ساتھ ہے اور «مَا تَرَكَنَا فَهُوَ

صَدَقَةٌ « کے الفاظ والی روایت بھی اس معنی کی تائید کرتی ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔“

مزید برآں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی استدلال کرتے ہیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے فرمایا:

﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [مریم: ۶۰۵]

”کہ مجھے اپنی جناب سے وارث نصیب فرما جو میرا بھی وارث ہو، اور آل یعقوب کا بھی، اور اے اللہ! اسے برگزیدہ بنا۔“

ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں اللہ نے وراثت ثابت کی ہے، اور حضرت سلیمان کے متعلق ارشاد ہے:

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ [نمل: ۱۶]

”اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔“

ان دونوں آیتوں کی تفسیر مندرجہ ذیل ہے۔

پہلی آیت یعنی فرمان الہی ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ کے متعلق ہماری گزارش یہ ہے کہ:

پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فقط مال کا وارث بنانے کی خاطر، لڑکا طلب کرے، تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت زکریا جیسا کریم النفس نبی، اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد مانگے جو فقط اس کی دولت کی وارث ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید پوش درویش پیغمبر تھے اور پیشہ کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ ان کے پاس کتنا مال تھا

جس کا وہ اللہ تعالیٰ سے وارث طلب کرنے لگے تھے؟! بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، مال جمع نہیں کرتے، اور جو کچھ وہ کماتے ہیں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا کرتے ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ (کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی) کے سیاق پر غور کیا جائے کہ آل یعقوب کے اشخاص کتنے ہوں گے؟!

اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آل یعقوب میں کس نمبر پر ہیں؟ آل یعقوب میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ شامل ہیں اور بذات خود حضرت زکریا علیہ السلام بھی! بلکہ بنو اسرائیل کے تمام انبیاء آل یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام ہی اسرائیل ہیں۔

یہ تو ان کی بات ہوئی جو آل یعقوب سے نبی ہوئی۔ اگر انبیاء کے علاوہ یعقوب کی دیگر اولاد کو بھی حصہ دیا جائے تو حضرت یحییٰ کو کیا ملے گا؟ اور وہ قریبی و رثاء کی وجہ سے محبوب الارث بھی ہوں گے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرمان الہی: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ کے الفاظ ہی اس شخص کا رد کر رہے ہیں جو فقط مال کی وراثت مراد لے رہا ہے، بلکہ زکریا علیہ السلام نے تو حضرت یعقوبؑ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ بھی نبی تھے اور زکریا بھی نبی ہیں، لہذا انہوں نے چاہا کہ وہ بیٹا نبوت، علم اور حکمت کا وارث بنے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» یا آپ کا فرمان کہ «إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً»

”کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں کسی کو ہمارے ترکہ کا وارث نہیں ٹھہرایا جاتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔“

اس کی وضاحت صحیح بخاری کی معلق حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

« إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دَرَهُمَا وَلَا دِينَارًا وَ إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ »^①
 ”کہ انبیاء کرام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے (یا چھوڑتے) بلکہ وہ تو صرف علم کے وارث چھوڑتے ہیں۔“

باقی رہی دوسری آیت ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ تو اس میں بھی حضرت سلیمانؑ حضرت داؤد کے مال کے وارث نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نبوت، حکمت اور علم کے وارث ہوئے تھے، اور ہماری اس تاویل کی دو وجوہات ہیں۔

ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی سویبیاں اور تین صد لونڈیاں تھیں اور ان سے بہت سی اولاد تھی، تو اکیلے حضرت سلیمان کس طرح ان کے وارث بن سکتے تھے؟ بلکہ حضرت سلیمان کے دوسرے بھائی بھی ان کے وارث ہوں گے، لہذا صرف حضرت سلیمان کو ان کے مال کا وارث سمجھنا درست نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے مالی یا مادی وراثت مراد ہوتی تو کتاب اللہ میں اس کے خصوصی ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ فطرتی طور پر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، اس صورت میں تو ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ کا فرمان تحصیل حاصل ہے (بنا بریں معلوم ہوا) کہ بلاشبہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ ہے وراثت نبوت، لہذا ان کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں کہ (رشتہ داروں کو) انبیاء کرام کا وارث بنانا درست ہے اور صحیح یہ ہے کہ کسی کو ان کا وارث نہیں بنایا جاتا۔

باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ فدک کی جاگیر حضرت رسول کریم ﷺ کی طرف

① صحیح بخاری کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، ابو داؤد کتاب العلم باب

سے ہدیہ اور ہبہ تھی اور آپ نے وہ جاگیر حضرت فاطمہ کو خیبر والے دن عطا کی تھی اور وہ اپنی کتابوں میں یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فتح خیبر کے بعد ﴿وَأْتِ ذَاقِرْبُیْ حَقَّهُ﴾ (کہ قرابت داروں کو ان کا حق دیں) کے نازل ہونے پر، حضرت فاطمہ کو بلایا اور انہیں فدک کی جاگیر عطا کی۔^①

لہذا ہم تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ من گھڑت افسانہ ہے، کیونکہ نہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور نہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ کو فدک کی جاگیر عطا کی، بلکہ صحیح اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکرؓ سے فدک کی جاگیر کا مطالبہ ہبہ کی بنا پر نہیں بلکہ ورثہ کے اعتبار سے کیا تھا۔ (اور خیبر، ۷ ہجری کے شروع میں فتح ہوا تھا۔)

وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خیبر پر فتح عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ ﴿وَأْتِ ذَاقِرْبُیْ حَقَّهُ﴾ نازل فرمائی، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا اور اسے فدک کی جاگیر عطا فرمائی (لہذا ہم مندرجہ بالا افسانے کے مصنفین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ) حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ ہبہ کیا اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا: ”کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اتنا کچھ دیا ہے؟ اس نے کہا: ”نہیں، تو آپ نے فرمایا: ”جا چلا جا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔“^②

آپ نے اس بات کو ظلم ٹھہرایا کہ کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دے (سوچنے کی بات یہ ہے) کہ حضرت نبی کریم ﷺ تو ظلم پر گواہ نہ بنے، تو وہ یہی ظلم

① تفسیر صافی ۱۸۶/۳

② مسلم - کتاب الہبات، رقم ۱۴

خود کس طرح کر سکتے تھے، بلکہ ہم اللہ کے رسول ﷺ کو پاک اور معصوم سمجھتے ہیں۔
ان مجتہدین کو اصرار ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فتح خیبر کے بعد
حضرت فاطمہ کو فدک کی جاگیر عطا کی۔ اور خیبر ۷ھ کو فتح ہوا تھا۔ اور اس وقت آپ
کی دوسری بیٹیاں، حضرت زینب، اور حضرت ام کلثومؓ بھی زندہ تھیں کیونکہ حضرت
زینب ۸ھ میں ① اور حضرت ام کلثوم ۹ھ ② میں فوت ہوئیں، تو آپ ان دونوں کو
نظر انداز کر کے صرف حضرت فاطمہ کو کس طرح ہبہ کر سکتے تھے؟! صلوة اللہ وسلامہ
علیہ۔ یہ تو حضرت نبی کریم ﷺ پر بہتان ہے کیونکہ اس مکذوبہ روایت سے تو یہ
ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان فرق کرتے تھے۔ جبکہ آپ تو ظلم پر گواہ
بننے پر راضی نہ ہوئے تھے، تو خود کس طرح ظلم کر سکتے تھے؟!
لہذا دونوں اقوال ساقط الاعتبار ٹھہرے، اور ثابت ہوا کہ وہ جاگیر نہ تو ہبہ تھی
اور نہ ورثہ،

اس مسئلے میں ایک قابل غور عجیب بات ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکرؓ کی
وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد
حضرت علیؓ اگر ہم فرض کر لیں کہ فدک کی جاگیر ورثہ کی صورت میں یا ہبہ کی صورت
حضرت فاطمہؓ کی تھی تو وہ ان کی ملک میں داخل ہوئی اور سیدہ فاطمہ الزہراءؓ
، آنحضرت ﷺ کے سانحہ ارتحال کے چھ ماہ بعد فوت ہو گئیں، تو فدک کی جاگیر کن
کی ملک میں گئی؟ ظاہر ہے کہ وہ وراثت کی ملک میں چلی گئی، تو اس صورت میں حضرت
علی المرتضیٰ کا چوتھا حصہ بنا کیونکہ فرعی وارث موجود ہیں۔ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ﴾ کے تحت باقی حصے سیدین حسنین کریمین اور زینب اور ام کلثوم رضی اللہ

① سیر اعلام النبلاء ۲/۲۵۰، الاصابہ ۴/۲۰۶

② سیر اعلام النبلاء ۲/۲۵۲، الاصابہ ۴/۴۶۶

عنہم کو ملیں گے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی اولاد کو فدک سے حصہ نہ دیا، اگر فدک کی جاگیر، حقداروں کو نہ دینے کی وجہ سے خاتم بدہن حضرت ابو بکرؓ ظالم تھے اور حضرت عمرؓ بھی ظالم تھے اور حضرت عثمانؓ بھی ظالم تھے تو اس طرح حضرت علیؓ بھی ظالم ثابت ہوئے (نعوذ باللہ) اور ہم (بجملہ اللہ) حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ کو ظلم سے پاک سمجھتے ہیں۔ لہذا فدک کی جاگیر نہ تو حضرت رسول کریم ﷺ کی طرف سے ورثہ تھی اور نہ ہی ہے۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو فدک کی جاگیر نہ ملی تو وہ ناراض ہو گئیں اور اپنے باپ کی قبر کی طرف شکوہ لے کر گئیں!

یہ سفید جھوٹ ہے! بلکہ یہ بات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شایان شان بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے مقدس نبی یعقوب علیہ السلام کی پریشانی کے وقت کی فریاد کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ﴿ اِنَّمَا اَشْكُو بَثِّي وَ حُزْنِي اِلَى اللّٰهِ ﴾ [یوسف: ۸۶]

”میں اپنی پریشانی (بے بسی) اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔“

تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کس طرح یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اپنے دکھ اور غم کا شکوہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ان کی وفات کے بعد لے جائیں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی شان بہت بلند ہے اور وہ اپنے دکھ اور غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتیں۔

اور ان کا یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں اور ناراضی کی حالت میں فوت ہوئیں، اور مشہور بھی ایسے ہی ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ناراض ہوئیں، لیکن ہم اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصور نہیں سمجھیں گے، بلکہ حضرت فاطمہؓ کی ناراضی کا عذر تلاش کریں گے کیونکہ ان کی ناراضی بلا وجہ تھی۔

اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضور ابو بکر صدیق نے انہیں راضی کر لیا تھا جیسا کہ بہت سے اہل علم نے حضرت امام شعیبی سے صحیح سند کے ساتھ مرسل روایت کیا ہے۔^① اور امام شعیبی رضی اللہ عنہ کبار تابعین میں سے ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جاننے والا ہے۔

اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے، کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیسؓ نے غسل دیا تھا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیوی انہیں غسل دے اور ابو بکرؓ کو ان کی موت کا پتہ نہ ہو؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ انہیں رات کو دفن کیا گیا اور حضرت ابو بکر کو اطلاع نہ دی گئی۔

اسی طرح شیعہ کا قول ہے کہ ان کی قبر نامعلوم ہے، یہ جھوٹ ہے کیونکہ ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔

علاوہ ازیں شیعہ کے نزدیک عورت، عقار (جاگیر) کی وارث نہیں بن سکتی، بالفرض اگر فدک کی جاگیر، وراثت بھی ہوتی تو (شیعہ کے مطابق) حضرت فاطمہ کو اس سے کچھ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ عقار (زمین) تھی۔^②

آٹھواں شبہ اور اس کا جواب:

وہ آٹھواں شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اچانک تھی، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ صدیق کی بیعت کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اچانک ہوئی تھی لیکن ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم صحیح بخاری سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول پورے سیاق و سباق سے پیش کرتے ہیں۔

① فتح الباری ۶/۲۳۳

② الفروع من الکافی ۷/۱۲۹ نمبر ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم! اگر عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں آدمی کی بیعت کروں گا اور حضرت ابوبکرؓ کی بیعت اچانک ہوئی تھی۔

تو حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ: ”اللہ کی قسم اگر عمر فوت ہو گیا تو میں فلاں آدمی کی بیعت کر لوں گا (خبردار!)، تم میں سے کوئی یہ کہہ کر کسی فریب میں مبتلا نہ ہو کہ ابوبکر کی بیعت اچانک ہوئی اور برقرار رہی، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اچانک ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس کے فساد سے بچا لیا اور تم میں حضرت ابوبکر صدیق کی سی عظمت اور فضیلت والا آدمی موجود نہیں کہ اس کی طرف گردنیں اٹھتی ہوں!

اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ انصار کے قبیلے بنو ساعدہ کے سقیفہ میں جانے کا واقعہ بیان کیا اور اس میں یہ بات بھی بیان کی کہ: میں نے اپنے ذہن میں ایک بات کو بنایا اور سنوارا، میں چاہتا تھا کہ ابوبکر صدیقؓ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بیان کروں اور اس کے ذریعے لوگوں کے جوش کی تیزی کو قدرے ٹھنڈا کروں، لیکن جب میں نے کھڑے ہو کر بات کرنا چاہی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا: ”خاموش رہیے اور آرام سے بیٹھئے، تو میں نے ناپسند سمجھا کہ انہیں ناراض کروں۔

چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے گفتگو کی اور وہ مجھ سے بڑھ کر حلیم اور بردبار اور ذی وقار تھے، اللہ کی قسم انہوں نے فی البدیہہ وہی باتیں یا ان سے اچھی باتیں کر دیں جو میں نے اس موقع کے لیے خوب بنائی سنواریں یعنی ذہن نشین کی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپؓ نے قبائل انصار کے لوگوں سے فرمایا:

یہ جو تم نے اپنی نیکیاں اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ (ہم مانتے ہیں کہ واقعی یہ نیکیاں تم نے کیں اور تم میں ان کی اہلیت بھی ہے۔) لیکن منصب امارت

قریش کے قبیلے کے سوا متعارف و مقبول نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ نسب اور گھرانے کے اعتبار سے عربوں میں ممتاز ہیں، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ ان دو آدمیوں (حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ) میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو، یہ کہہ کر انہوں نے بیٹھے بیٹھے میرا اور ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اس عمل کے علاوہ ان کی اور کوئی بات بری نہ لگی۔

اللہ کی قسم! مجھے آگے بڑھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گردن مار دی جائے تو یہ عمل مجھے اس کام سے زیادہ محبوب تھا کہ میں اس قوم پر امیر مقرر کیا جاؤں جس میں حضرت ابو بکرؓ جیسا انسان موجود ہو، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہو گئیں..... آخر میں حضرت عمرؓ نے فرمایا:

اللہ کی قسم! وہاں موجود لوگوں میں ہمیں ایسا کوئی آدمی نظر نہ آیا جس کی بیعت ابو بکر کی بیعت سے مضبوط تر ہو اور ہم ڈر گئے کہ اگر ہم بیعت کیے بغیر جدا ہو گئے تو وہ ہمارے بعد کسی کی بیعت کر لیں گے، اس کے بعد یا تو ہمیں بامر مجبوری بیعت کرنی پڑے گی، یا ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور اس صورت میں فساد رونما ہوگا۔

تو جس شخص نے مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کسی کی بیعت کی، تو نہ بیعت کرنے والے کی مانی جائے گی اور نہ بیعت کیے جانے والے کی، کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بیعت کرنے اور بیعت لینے والے دونوں کو قتل نہ کر دیں۔^①

یہ ہے بیعت کا واقعہ، اور یہ درست ہے کہ یہ اچانک ہوئی تھی، لیکن اس کا پورا واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ کے ضمن میں بیان کیا ہے لہذا یہ

حضرت عمر فاروق پر طعن نہیں ہے۔ [رضی اللہ عنہ]

① صحیح بخاری = کتاب الحدود۔ باب رجم الحبلی من الزنی اذا احصنت، رقم: ۶۸۳۰

نواں شبہ اور اس کا جواب:

انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ کی رحلت کا وقت قریب آیا، تو اس وقت آپ کے گھر میں حضرت عمرؓ سمیت کچھ لوگ موجود تھے، آپ نے فرمایا: کوئی چیز لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کے رسول ﷺ پر تکلیف غالب ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے اور گھر والے جھگڑنے لگے اور اختلاف کرنے لگے کچھ لوگ کہنے لگے کہ کوئی چیز قریب لاؤ، تاکہ اللہ کے رسول ہمیں تحریر لکھ دیں، تاکہ اس کے بعد ہم گمراہ نہ ہوں، اور کچھ لوگ حضرت عمرؓ کی موافقت کرنے لگے، جب اللہ کے رسول کے پاس اختلاف اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا:

”قُوْمُوْا“ (کہ اٹھ جاؤ)

اس حدیث کو بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔^①
اس حدیث کی وجہ سے اصحاب رسول پر ان کے چند اعتراضات ہیں۔
ایک تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کے رسول،
(نعوذ باللہ) اول فول باتیں کر رہے ہیں۔^②

یہ حضرت عمر پر افتراء اور جھوٹا بہتان ہے انہوں نے ہرگز یوں نہ فرمایا کہ آپ اول فول باتیں کر رہے ہیں بلکہ صحیحین وغیرہ کتب حدیث کی صحیح روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا:

« اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَلَبَتْهُ الْوَجَعُ »

”کہ اللہ کے رسول پر تکلیف غالب ہے۔“

① صحیح بخاری کتاب العلم رقم، باب کتاب العلم: ۱۱۴، صحیح مسلم کتاب الوصیة، رقم: ۲۲
② فاسئلوا اهل الذکر ص ۱۴۴، ص: ۱۷۹، (تیجانی شیعہ نے یہ جھوٹا امام بخاری پر تھوپا ہے۔)

اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت حضرت نبی کریم ﷺ مرض الموت کی تکلیف میں تھے، جیسے کہ سیدہ عائشہ طاہرہ کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب آپ غشی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر افاقہ کی حالت پر آئے، تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں، اے اللہ کے رسول! تو گھر والے آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آئے، آپ نے اس سے غسل کیا، پھر جب نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھے تو غشی کی وجہ سے گر پڑے (صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ) جب افاقہ ہوا تو فرمایا:

”کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟“

انہوں نے کہا: ”اے اللہ کے پیارے رسول وہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ نے فرمایا: میرے پاس پانی لاؤ، وہ پانی لائے تو آپ نے غسل کیا پھر آپ نماز کی طرف جانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو آپ گر پڑے (صلوٰۃ اللہ وسلامہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان!)

جب تیسری مرتبہ گرے اور پھر سکون میں آئے تو فرمایا: ”کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا: وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: ابو بکرؓ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔^① صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو شدید تکلیف کی حالت میں دیکھا تو دل گرفتہ اور غمگین ہو گئے اور کہا:

① صحیح بخاری - کتاب الاذان - باب انما جعل الامام لیؤتم بہ ، رقم: ۶۸۷ ، صحیح مسلم

اے اللہ کے پیارے رسول! آپ کو کتنا شدید بخار ہے!
 آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تم میں سے دو آدمیوں کی طرح بخار ہوتا ہے۔
 عبداللہ بن مسعود نے کہا: یہ اس لیے ہے، کہ آپ کو دو ہر اجر ملتا ہے؟
 آپ نے فرمایا: ہاں۔“ ①

لہذا حضرت نبی کریم ﷺ شدید بخار میں تھے، اس لیے جب حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو آپ پر ترس کھا گئے اور فرمایا کہ آپ پر
 تکلیف غالب ہے، لہذا مزید تکلیف نہ دو، آپ کو آرام و سکون میں آ لینے دو، پھر
 آپ لکھ دیں گے (یہ تھی حضرت عمر کی مراد) آپ فرما رہے ہیں، کہ اللہ کے
 رسول (اس وقت) تکلیف میں ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و
 تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدہ: ۳]

اور اللہ کے رسول فرما چکے ہیں کہ:

« وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُفَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ وَ
 مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمْ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا
 مِمَّا نَهَاكُمْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ » [ابن حزمہ] ②

”کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی، جو تمہیں اللہ تعالیٰ اور جنت
 کے قریب کرتی ہو، مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں
 چھوڑی جو تمہیں اللہ تعالیٰ اور جنت کے قریب کرتی، مگر میں تمہیں اس کے متعلق

① صحیح بخاری۔ کتاب المرض، باب اشد الناس بلاء الانبياء، رقم: ۵۶۴۸، صحیح

مسلم، کتاب البر والصلوة: ۴۵

② سلسلۃ الصحیحہ ۴/۱۷، ضمن حدیث رقم ۱۸۰۳

بتا چکا ہوں، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، مگر میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں اور میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے منع کیا ہے مگر میں تمہیں اس سے منع کر چکا ہوں۔“

لہذا دین کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جسے اللہ کے رسول نے بیان نہ کیا ہو۔
تو اللہ کے مقدس رسول ﷺ کیا لکھنا چاہتے تھے؟ اس کے متعلق مسند امام احمد رضی اللہ عنہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھیے:

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک طبق (لکھنے کے لیے کوئی چیز چوڑی ہڈی وغیرہ) لاؤں جس میں آپ وہ چیزیں لکھ دیں جسے آپ کی امت آپ کے بعد بھلا نہ بیٹھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ میرے کتاب لانے سے پہلے آپ کی جان نہ چلی جائے، اس لیے میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں خوب یاد رکھوں گا (آپ فرمائیں)

آپ نے فرمایا: «أَوْصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»
”کہ میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی (تاکید کرتا ہوں)۔“^①

تو اصلاً کتاب لانے کا کسے حکم دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔
اگر وہ کہیں کہ صحابہ نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی اور کتاب نہ لائے تو ہم کہیں گے پھر (نعوذ باللہ) حضرت علیؑ نے پہلے نافرمانی کی، کیونکہ انہیں براہ راست حضرت نبی کریمؐ کی طرف سے کتاب لانے کا حکم تھا، تو وہ کیوں نہ لائے؟ اور جب ہم اس بنا پر تمام صحابہ رسول کو ملامت کریں گے تو حضرت علیؑ بھی ملامت کی زد میں آئیں

گے حالانکہ (مندرجہ ذیل باتوں کی وجہ سے) کسی پر بھی طعن و ملامت نہیں ہے۔
 ① پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا حدیث میں بذات خود فرما رہے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ اس دوران کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے، تو میں نے کہا:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْفَظُ وَ أَعِي»

”اے اللہ کے رسول میں یاد رکھوں گا اور ذہن نشین کر لوں گا۔“

تو آپ نے فرمایا:

«أَوْصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

”میں تمہیں نماز، زکوٰۃ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں!“

چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ جو کچھ لکھنا چاہتے تھے وہ آپ نے بول کر سنا دیا۔

② دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے تھے وہ یا تو آپ پر واجب تھا، یا مستحب۔ اگر وہ کہیں کہ واجب تھا تو پھر یہ ان امور میں سے تھا جن کی تبلیغ واجب تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ (نعوذ باللہ) آپ نے مکمل شریعت کی تبلیغ نہیں کی، تو یہ حضرت نبی کریم ﷺ بھی طعن ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

”کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔“

اور اگر وہ کہیں کہ وہ مستحب تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا قول ہے۔

③ تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ کو قلم دوات نہ لادینا، نافرمانی کے قبیل سے نہیں بلکہ شفقت کی وجہ سے تھا۔

دسواں شبہ اور اس کا جواب:

وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حج تمتع اور عورتوں سے متعہ کرنے سے روکا، جبکہ یہ دونوں مشروع ہیں، تو حضرت عمر کس طرح، اس عمل کو حرام قرار

دے سکتے تھے، جسے اللہ نے حلال کیا ہے!؟

۱۔ حج تمتع:

شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت عمر نے حج تمتع سے روک کر غلطی کی تھی تو پھر کیا ہوا؟ ہم حضرت عمرؓ کی عصمت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی باقی صحابہ کی طرح غلطی کر سکتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم فرض کر لیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ حضرت صُبَیِّ بن معبد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہے تو انہوں نے فرمایا:

«هُدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ»^①

”تجھے اپنے نبی کی سنت کی راہنمائی نصیب ہوئی۔“

یہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حج تمتع سنت ہے بلکہ انہوں نے اس آدمی کی تعریف کی اور اسے منع نہیں کیا اور فرمایا: «هُدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ» ”کہ تجھے اپنے نبی کی سنت کی راہنمائی نصیب ہوئی۔“

حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے باپ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ان سے حج تمتع کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ جب انہیں کہا گیا کہ تم اپنے باپ کی مخالفت کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا: میرے باپ نے تمہاری طرح نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ عمرے کو حج سے جدا کرو (یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ بغیر قربانی کے مکمل نہیں ہوتا، اور ان کا ارادہ تھا کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی بیت اللہ کی زیارت جاری رہے) لیکن تم نے اسے حرام ٹھہرا لیا اور اس پر سزا دینا شروع کر دی۔ حالانکہ اسے اللہ

① سنن نسائی۔ کتاب الحج۔ باب القران، رقم: ۲۷۱۹ و سندہ صحیح

عزوجل نے حلال کیا ہے اور رسول اللہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ جب انہوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا:

« أَفَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ »^①

”کیا کتاب اللہ پیروی کی زیادہ مستحق ہے یا عمر کا فرمان؟“

حضرت عمرؓ کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ سال کے کسی دن میں بھی بیت اللہ، عمرہ کرنے والوں سے خالی نہ رہے کیونکہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تو وہ ساتھ ہی عمرہ کا احرام باندھ لیتے، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف نہ آتے، حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ وہ اکیلا حج (حج مفرد) کریں پھر مستقل سفر کر کے عمرہ کے لیے بیت اللہ کی طرف آتے رہیں، تاکہ بیت اللہ، لوگوں سے خالی نہ رہے۔

الغرض حضرت عمر کا روکنا نہی تحریمی نہیں تھا، بلکہ ان کی رائے اور خیال تھا اور انہوں نے اس عمل کو افضل سمجھا اور اس بنا پر، ان پر عیب نہیں دھرا جاسکتا، بلکہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ انہوں نے جب صُیب بن معبد کو حج تمتع کرتے ہوئے پایا تو فرمایا:

« هُدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ » ”تجھے نبیؐ کی سنت کی ہدایت ملی۔“

۲۔ متعة النساء (یعنی عورتوں سے متعہ):

اس کی ممانعت حضرت نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ صحیحین میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عورتوں سے متعہ کو جائز قرار دیتے ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ تو خود سرا آدمی ہے۔

« إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ وَ لُحُومَ الْحُمْرِ

الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ »^②

① بیہقی ۲۱/۵

② صحیح بخاری - کتاب النکاح، باب نہی رسول اللہ عن نکاح المتعة، رقم: ۵۱۱۵، مسلم کتاب النکاح، رقم: ۲۹،

”حضرت رسول کریم ﷺ نے خیبر والے دن گھریلو گدھوں کا گوشت اور عورتوں سے متعہ حرام قرار دیا تھا۔“

اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث شیعہ کی معتمد کتابوں میں بھی موجود ہے۔^①
اسی طرح صحیح مسلم میں سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فسخ مکہ والے سال متعہ النساء کو حرام کر دیا تھا، اسی طرح صحیح مسلم میں سبرہ الجعفی سے مروی ہے کہ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ»^②

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی متعہ النساء سے روکا تو اچھا کام کیا۔ حیرت ہے کہ یہ ان حکم ان کی عدالت پر طعن کا سبب کیسے بن گیا؟ انہوں نے اسی چیز سے روکا جس سے حضرت نبی کریم ﷺ نے روکا ہے بلکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی روکا ہے، قرآن میں ہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرُوهُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون ۵-۶]

”کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور ملک یمین سے، کیونکہ وہ ان کے معاملے میں طعن و ملامت سے مبرا ہیں، پس جو کوئی اس کے علاوہ جھک مارے گا وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔“

گویا اس آیت میں اللہ نے (متعہ کرنے والوں) کا نام عادیین (جھک مارنے والے یا آوارہ گرد) رکھا ہے۔

شیعہ حضرات جو از متعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی استدلال فاسد کرتے ہیں:

① وسائل الشیعہ ۱۲/۲۱
② صحیح مسلم - کتاب النکاح، رقم: ۲۰۰ نیز صحیح مسلم، کتاب نکاح المتعہ میں مختلف صحابہ کرام سے متعہ کی حرمت اور اس سے ممانعت کی بہت سی احادیث ذکر کی گئی ہیں۔

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَ
 أَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴]

اس آیت سے ان کا استدلال ایک قرأت ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ سے ہے۔

کہ جن کے ساتھ تم نے ایک مقرر مدت تک متعہ کیا ہے، ان کو ان کی اجرت
 دو فرض جان کر اور فریضہ کی ادائیگی کے بعد باہمی رضامندی سے تم جو کچھ کرو، اس
 معاملے میں تم پر گناہ نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو اس قرأت کے اضافی لفظ (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) متواتر
 نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ساتوں قرأتوں سے ہے اور نہ ہی یہ عشرہ قرأتوں سے ہے، بلکہ
 یہ شاذ قرأت ہے، اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہے کہ
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ﴾ اور حضرت نبی کریم ﷺ کی اس مذکورہ
 حدیث سے بھی منسوخ ہے جو حضرت علیؓ، حضرت سبرہ الجعفی اور حضرت سلمہ بن اکوع
 وغیرہم صحابہ سے مروی ہے۔

گیارہواں شبہ اور اس کا جواب:

وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَ
 هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا
 نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ

قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴿التحریم: ۱-۴﴾

کہ اس آیت میں صَغَتْ کا معنی ہے ”مَا كُنْتَ إِلَى الْكُفْرِ“ کہ وہ کفر کی طرف
مائل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں اور حضرت رسول کریم ﷺ
کی بیویوں، حضرت عائشہؓ اور حفصہؓ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت نبی کریم ﷺ اپنی پھوپھی زاد
بیوی زینب بنت جحشؓ کے پاس ٹھہرتے اور اس کے ہاں شہد نوش فرماتے، میں نے
اور حفصہؓ نے باہمی مشاورت سے منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس آپ
تشریف لائیں تو وہ آپ سے یہ کہے کہ: مجھے آپ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے، کیا
آپ نے مغفیر تو نہیں کھایا؟

چنانچہ آپ ہم دونوں میں سے کسی کے پاس گئے تو اس نے آپ سے وہ
بات کہہ دی، تو آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو زینبؓ کے پاس شہد
پیا ہے اور میں دوبارہ نہ پیوں گا، تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾
”کہ اے نبی! آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے
حلال کی؟ تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟“

حضرت نبی کریم ﷺ نے شہد نہ پینے کی بات حضرت حفصہ بنت عمرؓ سے کی
تھی، اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، کہ
وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور حضرت رسول کریم ﷺ شہد پینے سے
رک گئے ہیں اور یہ کہ آپ دوبارہ (وہاں سے) شہد نہ پیئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیات نازل فرمائیں:

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾^①

کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی کو راز کی بات کہی۔

﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ
فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَتُوبَا
إِلَى اللَّهِ ﴾

”جب اس نے وہ بات نبی کو بتائی اور اللہ نے ان پر اصل حقیقت ظاہر کر دی تو نبی نے کسی سے اس کو آگاہ کیا اور کسی سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نے (اپنی بیوی کو) ان کے منصوبے کی کہانی سنائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے علم اور خبر رکھنے والی ذات نے بتائی، اگر تم دونوں توبہ کر لو (یعنی اس عمل سے جو بیویوں کے درمیان غیرت وغیرہ کی بنا ہوتا ہے)

﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾

کیونکہ (اس کام کے کرنے سے) تم دونوں کے دل (حق سے) مائل ہو گئے ہیں۔
(کیونکہ وہ کام غلط تھا۔)

اور (مَالَتْ) کا معنی (كَفَرَتْ) نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ تو حضرت نبی کریم کی بیویاں ہیں اور امہات المؤمنین ہیں اور انہی کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان میں سے کسی کو طلاق نہ دیں اور نہ ان کی جگہ کسی کو لائیں اور نہ ہی ان کے بعد کسی عورت سے شادی کریں۔^② اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی۔

① بخاری - کتاب الطلاق - باب لم تحرم ما احل الله لك، رقم: ۵۲۶۷

② اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴾ [احزاب: ۵۲]

مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا میلان طبعی امر ہے جو غیرت کے موقعہ پر عورتوں کے درمیان رونما ہو جاتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی بیویوں کے دو گروپ تھے۔

ایک گروپ میں حضرت عائشہؓ، حفصہؓ، صفیہؓ اور سودہؓ تھیں۔ اور دوسرے گروپ میں حضرت ام سلمہؓ اور دیگر ازواج مطہرات، رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ اور مسلمانوں کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے حضرت نبی کریم ﷺ کی محبت کا بخوبی علم تھا۔ لہذا جب ان میں سے کسی کے پاس ہدیہ ہوتا اور وہ اسے حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو اسے مؤخر رکھتا، جب آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔

حضرت ام سلمہ کے گروپ نے ام سلمہ سے کہا کہ تم حضرت نبی کریم ﷺ سے بات کرو کہ وہ لوگوں سے کہیں، کہ ان میں سے جو کوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہے، تو وہ اپنا ہدیہ اسی گھر میں بھیج دیا کرے جہاں آپ تشریف رکھتے ہوں، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنے گروپ کی ازواج مطہرات کا پیغام پہنچایا تو آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور جب دیگر ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری والے دن حضرت نبی کریم ﷺ ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے دوبارہ اپنے گروپ کی ازواج مطہرات کا پیغام پہنچایا تو آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے دوبارہ رپوٹ مانگی تو حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ ان کی طرف سے کوئی جواب ملنے تک اس سلسلے میں ضرور گفتگو کرتے رہنا۔ چنانچہ جب آپ حضرت ام سلمہ کی باری والے دن، ان کے گھر تشریف

لائے تو انہوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی، تو آپ نے انہیں جواب دیا۔
 تو مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دے، کیونکہ میرے پاس اس وقت وحی
 نہیں آتی جب میں اپنی کسی بیوی کے کپڑے میں ہوں سوائے عائشہ کے۔
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! میں آپ کو ایذا پہنچانے
 سے توبہ کرتی ہوں۔

اس کے بعد ام سلمہ کے گروپ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو بلایا
 اور انہیں یہ کہنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا، کہ آپ کی بیویاں
 سیدہ عائشہ بنت ابوبکر کے ساتھ برتاؤ میں آپ سے انصاف کی درخواست کرتی
 ہیں! چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہراء نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا:
 اے میری پیاری بیٹی کیا تم اسے پسند نہیں کرتیں جسے میں پسند کرتا ہوں؟
 انہوں نے فرمایا: ”جی ہاں اے ابا جان!

تو آپ نے فرمایا پھر اس سے محبت کرو (یعنی عائشہ سے) ①
 چنانچہ وہ ان کی طرف واپس گئیں اور انہیں رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا:
 اب پھر آپ کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، لیکن حضرت فاطمہ نے انکار کر دیا،
 چنانچہ انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو حضرت رسول کریم ﷺ کی طرف بھیج
 دیا۔ اس نے آتے ہی آپ ﷺ سے سخت لہجے میں بات کی اور کہا: ”اے اللہ کے
 رسول! آپ کی بیویاں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر ابوقحافہ کی بیٹی (عائشہ) کے ساتھ
 برتاؤ کرنے میں انصاف کی درخواست کرتی ہیں (راوی) کہتے ہیں کہ ان کی آواز
 بلند ہو گئی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی جو حضرت رسول کریم ﷺ کے
 پاس بیٹھی ہوئی تھیں، کو سنا شروع کر دیا۔ حضرت رسول کریم نے حضرت عائشہ کی

① یہ الفاظ مسلم میں ہیں صحیح بخاری میں نہیں۔

طرف دیکھا کہ وہ بولتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کانٹے دار جواب دے کر حضرت زینب کو خاموش کرادیا، تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔^①

مقصد یہ ہے کہ امہات المؤمنین باہم سوتنیں تھیں اور سوتوں کے درمیان اکثر تو تکرار ہوتی رہتی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں، حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے غلطی کی لیکن انہوں نے اپنے اس فعل کے ذریعے اللہ سے کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔

بارھواں شبہ اور اس کا جواب:

وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے زیاد بن ابیہ کو اپنے خاندان میں شامل کر کے زیاد بن ابوسفیان قرار دیا حالانکہ وہ عبید ثقفی کا بیٹا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ عبید ثقفی کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ زیاد بن ابیہ کے علاوہ کسی اور نسبت سے مشہور بھی نہ تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ سمیہ نامی لونڈی سے ناجائز تعلق کے ذریعے پیدا ہوا تھا (اس کا ناجائز تعلق کے ذریعے پیدا ہونا اسے کچھ نقصان دہ نہ تھا کیونکہ اس میں اس کا کوئی تصور نہ تھا) جاہلیت میں سمیہ کے پاس مختلف آدمی آئے تھے ان میں حضرت معاویہ کا والد ابوسفیان بھی تھا۔

(اور اس کا یہ عمل اسے عیب دار نہیں کرتا کیونکہ یہ ناجائز تعلق ان کے دور اسلام میں نہیں ہوا تھا، بلکہ جاہلیت میں ہوا تھا، اس دور میں وہ مشرک تھے لہذا وہ تعلق، اس کے شرک سے سبک تر تھا) اور زیاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے (بصرہ کا) گورنر تھا اور بڑا فصیح اللسان مقرر اور خطیب تھا۔

حضرت معاویہ کو ان کے باپ ابوسفیان نے بتا دیا تھا کہ زیاد اس کا صلیبی بیٹا

① صحیح بخاری کتاب الہبۃ، باب من اھدی الی صاحبہ، رقم: ۲۵۸۱، مسلم کتاب فضائل

ہے اور ناجائز طریقے سے سمیہ کے لطن سے پیدا ہوا ہے، اور کسی نے زیاد پر دعویٰ بھی نہ کیا تھا اور سمیہ لونڈی کا خاوند بھی کوئی نہ تھا۔ اگر اس کا خاوند ہوتا تو ہم کہتے:

«أَلَوْلَدٌ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ»

”بچہ مالک یا خاوند کا ہے اور زانی کے لیے پتھر۔“

لیکن اس کا کوئی خاوند نہ تھا بلکہ وہ کسی کی لونڈی تھی اور ابوسفیان نے (دور جاہلیت میں) اس سے شب باشی کی تھی، جس کی بنا پر اس کے ہاں زیاد پیدا ہوا، جسے حضرت معاویہ نے اپنے خاندان میں شامل کر لیا اور اس استلحاق پر تنقید کرنے والوں نے اس بنا پر حضرت معاویہ پر اعتراض کیا کہ آیا وارث کے لیے کسی کو اپنے خاندان میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

لیکن یہ ایک اجتہادی اور فقہی مسئلہ ہے، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما پر اس سلسلے میں کوئی الزام نہیں دھرا جاسکتا، اگرچہ بعض اہل علم نے ان کے اس اقدام کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اجتہادی مسئلہ ہی ہے۔ اسی بنا پر امام مالک بن انس وغیرہ ائمہ دین، زیاد کو زیاد بن ابوسفیان کہتے تھے۔ یہ ہے اس اقدام کا پس منظر، جس کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاه کو قصور وار قرار دیا گیا۔



حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد خلیفہ کون؟

شیعہ صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد خلیفہ بلا فصل بھی وہی تھے اور وہ اس سلسلے میں بعض ایسے دلائل سے استدلال کرتے ہیں جو اہل السنۃ کی کتابوں میں مذکور ہیں خواہ وہ بخاری اور مسلم کی مؤلفات میں ہیں یا سنن اور مسانید کے مؤلفین کی کتابوں میں، چنانچہ ہم ان میں سے صحیح اور اہم دلائل کا ذکر کریں گے اور پھر ہم وضاحت کریں گے کہ وہ کس حد تک ان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہم بالغہ آمیز تعریف سے بے نیاز ہیں، آپ ﷺ حضرت رسول کریم ﷺ کے داماد ہیں اور ان کی افضل اور جنتی عورتوں کی سردار بیٹی کے شوہر ہیں۔ مزید برآں وہ حضرت رسول کریم کے چچا زاد اور خلفاء راشدین میں سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن تنازعہ آپ کے فضائل کے متعلق نہیں کیونکہ وہ تو مسلمہ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے فضائل اس بات دلالت کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیشرو خلفاء سے پہلے خلافت کے حقدار تھے؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولیت کے متعلق شیعہ کے دلائل

۱۔ حدیث غدیر سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم:

شیعہ کے ہاں یہ حدیث اہم دلائل میں شمار کی جاتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں گیارہ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تالیف کی ہے اور اس کا

نام ”کتاب الغدير“ ہے

اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا ہے، کہ حضرت رسول کریم ﷺ ہمیں مکہ اور مدینہ کے درمیان، خم نامی تالاب کے پاس خطبہ دے رہے تھے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کی اور وعظ و نصیحت کی، اس کے بعد فرمایا:

لوگو! میں بشر ہوں، ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا فرستادہ (ملک الموت) آجائے اور میں اس کی بات قبول کر لوں، لہذا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔
 «أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»
 ”ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور نور ہے تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے اس پر عمل کرنے اور اسے حرز جان بنانے کی ترغیب دی اس کے بعد فرمایا:

«وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي»
 ”کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔“ یہ بات آپ نے تین مرتبہ کہی۔“

راوی حدیث حصین نے (حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے) پوچھا: اے زید! آپ کے اہل بیت کون ہیں؟

کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟
 انہوں نے فرمایا:

”ہاں لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔“

اس نے کہا:

”وہ کون ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔“

اس نے پوچھا:

”کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟“

انہوں نے فرمایا: ”ہاں۔“^①

اور مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث مثلاً ترمذی^② احمد^③ نسائی (کی خصائص)^④ اور حاکم^⑤ وغیرہم میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ» کہ جس کا میں مولیٰ ہوں اس کا علی بھی مولیٰ ہے۔ علاوہ ازیں دیگر اضافے بھی ہیں مثلاً (اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَأَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَأِدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ)

”اے اللہ تو اس کا والی بن، جو اسے اپنا والی بنائے اور اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے اور اس کی نصرت فرما، جو اس کی نصرت کرے اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ، جو اسے بے یار و مددگار چھوڑے اور جدھر وہ جائے حق کو ادھر پھیر دے۔“

① صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، رقم: ۳۶

② ترمذی۔ کتاب المناقب، باب مناقب علیؑ، رقم: ۳۷۱۳

③ مسند احمد: ۳۴۷/۵

④ خصائص علی: ص: ۹۶، نمبر: ۷۹

⑤ مستدرک ۱۱۰/۳

علاوہ ازیں دیگر اضافے بھی ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
مقصد یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں
«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ»

کے الفاظ نہیں ہیں البتہ ترمذی، احمد، نسائی اور حاکم وغیرہ میں (مذکورہ بالا الفاظ) حضرت
نبی کریمؐ سے صحیح اسناد سے مروی ہیں۔ اور دیگر اضافے مثلاً یہ کہ حضرت نبی کریمؐ نے فرمایا:

«اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

کو بھی بعض اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح تحقیق کے مطابق یہ الفاظ
آپ سے ثابت نہیں ہیں ﷺ باقی رہا یہ اضافہ کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا:

«اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ ادِرْ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَاَرَ»

تو یہ حضرت نبی کریمؐ کے نام پر جھوٹ بیان ہوا ہے۔ ①

(بہر حال) شیعہ صاحبان اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ
آنحضرتؐ کے بعد خلیفہ (بلا فصل) ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریمؐ کے قول:
«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ»

کا مطلب یہ ہے کہ علیؑ، خلیفہ ہیں اور مولیٰ کا معنی والی ہے یعنی وہ سردار جس
کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ ہے ان کے استدلال کا پہلو۔

اور یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ حضرت علیؑ سے بھی مروی ہے، چنانچہ
ایک مرتبہ آپ نے کوفہ کے رجبہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ غدیر خم والے دن کن کن
صحابہ نے حضرت نبی کریمؐ کو میرے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ «مَنْ كُنْتُ
مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ» ②

چنانچہ بارہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مذکورہ بالا حدیث کے سننے کی شہادت

① دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ، رقم: ۱۷۵۰

② مسند احمد ۱/۸۴، ۱۵۲

دی۔ لہذا پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ کے اس قول کا سبب بیان کرتے ہیں۔ شیعہ صاحبان دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم نے ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) کی تعداد کے لگ بھگ لوگوں کو (جحفہ کے شدید گرم علاقہ میں) خم کے حوض کے قریب جہاں حجاج کرام کے اپنے اپنے وطنوں کو طرف واپس لوٹتے ہیں، اس لیے جمع کیا تا کہ آپ انہیں آگاہ کریں کہ جس کا میں مولیٰ ہوں اس کا علی بھی مولیٰ ہے، علاوہ ازیں وہ دیگر ایسی چیزوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر ہو چکا ہے۔

اور اس حدیث کے دو اسباب ہیں:

پہلا سبب یہ ہے جیسے کہ حضرت برید بن حصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب کو حضرت خالد بن ولید کے پاس (یمن میں مال غنیمت سے) خمس^① لینے کے لیے بھیجا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا اور انہوں نے (خمس سے حاصل ہونے والی لونڈی سے خلوت کے بعد) غسل کیا، تو میں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا: تم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟!

جب ہم حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت نبی کریم نے فرمایا: اے بریدہ کیا تم علیؑ سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے فرمایا:

اس سے بغض نہ رکھو کیونکہ اس کا خمس میں اس سے زیادہ حق ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔^②

اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے بریدہ سے فرمایا:

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ»^③

① حضرت رسول کریم نے حضرت خالد کو یمن میں غزوہ کے لیے بھیجا تھا، جب انہوں نے فتح حاصل کر لی تو

آنحضور ﷺ کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ آپ کسی آدمی کو بھیج کر مال غنیمت سے خمس منگوائیں۔

② صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب بعث علی و خالد الی الیمن، رقم: ۴۳۵۰

③ ترمذی - کتاب المناقب، باب مناقب علی، رقم: ۳۷۱۲

دوسرا سبب یہ ہے جیسے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں صدقہ کے اونٹوں پر سوار ہونے سے روک دیا اور ایک شخص کو ہم پر امیر مقرر کر کے خود حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف چل دیے، ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ صدقہ کے اونٹوں والا قافلہ آپ سے مل گیا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے نائب نے قافلہ والوں کو اونٹوں پر سوار ہونے کی اجازت دے رکھی تھی اور اونٹوں پر سواری کرنے کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے، تو آپ غصے ہوئے اور اپنے نائب کو ڈانٹ پلائی۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے حضرت رسول کریم ﷺ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سختی کا شکوہ کیا— اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حلے (کپڑوں کے جوڑے) تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں پہننے سے منع کر دیا تھا تو حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اے سعد بن مالک (ابو سعید) اپنے بھائی علی کے متعلق اس طرح کی بات نہ کیجئے! اللہ کی قسم! تم خوب جانتے ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں بہتر کیا ہے۔

اس روایت کے متعلق، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی شرط پر اس کی سند جید ہے اور اسے امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت علیؑ نے (یمن کے فاتح) لشکر کو صدقہ کے اونٹوں پر سوار ہونے سے روکا تھا اور اپنے نائب کی طرف سے ان کو دیئے گئے حلے (کپڑوں کے سوٹ) واپس لے لیے تھے۔ اس لیے ان کے متعلق قیل و قال زیادہ ہو گیا، تو (واللہ اعلم) جب حضرت رسول کریم ﷺ مناسک حج ادا کر کے لوٹتے ہوئے مدینہ کی راہ پر غدیر خم کے مقام پر پہنچے، تو آپ ﷺ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفائی بیان کی اور ان کی قدر و منزلت سے لوگوں کو آگاہ کیا، تا کہ ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی کدورت زائل ہو جائے۔^①

یہ ہے سبب حضرت نبی کریم ﷺ کے فرمان ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ“
 باقی ایک بات وضاحت طلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کی چہ میگوئیاں
 آپ ﷺ کے علم میں تھیں لیکن آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ، یا عرفہ
 کے دن اس موضوع پر بات نہیں کی اور اپنی مدینہ واپسی تک اس بات کو مؤخر رکھا، کس لیے؟
 اس لیے کہ یہ معاملہ مدینہ والوں کے ساتھ خاص تھا کیونکہ جن لوگوں نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق قیل و قال کیا تھا وہ مدینہ کے لوگ تھے اور یہی لوگ حضرت
 علی کے ساتھ غزوے پر گئے تھے۔

اور غدیر خم جُحْفَةَ میں ہے اور یہ مکہ سے تقریباً دو صد پچاس کلومیٹر دور ہے،
 جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حاجیوں کے اپنے اپنے وطنوں کی طرف لوٹتے ہوئے جدا
 ہونے کی جگہ ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ حاجیوں کے جمع ہونے کی جگہ مکہ ہے اور
 ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے وطنوں کی طرف لوٹنے کی جگہ بھی مکہ ہے اور
 لوٹنے کی جگہ مکہ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ مکة المکرمہ والے مکہ
 میں ٹھہر جاتے ہیں اور طائف والے طائف کی طرف اور یمن والے یمن کی طرف
 اور عراق والے عراق کی طرف وہیں سے لوٹ جاتے ہیں، اس طرح جو کوئی انسان
 اپنا حج مکمل کر لیتا ہے وہ مکہ سے اپنے وطن کو لوٹ جاتا ہے، اور عرب قبائل بھی یہیں
 سے ہی اپنے مقامات کی طرف چلے جاتے ہیں، لہذا (غدیر خم میں) حضرت
 رسول کریم کے ساتھ، مدینہ یا مدینہ کے راستے والوں کے سوا اور کوئی نہ تھا اور انہی
 لوگوں کو آپ نے اپنے خطبہ میں یہ بات کہی کہ ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ“
 بہر حال شیعہ اور اہل السنۃ کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے کہ شیعہ کہتے
 ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں والی ہوں اس کا علی بھی والی ہے اور اہل السنۃ
 کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو میں محبوب اور پیارا ہوں اس کو علی بھی

محبوب اور پیارا ہے۔ اور مولیٰ کا معنی مَوْلَاةٌ ہے یعنی نصرت اور محبت اور اس کا عکس مُعَادَاةٌ ہے یعنی دشمنی اور اس (مفہوم کے چند دلائل) یہ ہیں۔

۱۔ ایک تو وہ اضافی جملہ جسے بعض اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہ «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ» اس میں ذکر کردہ الفاظ (مَوْلَاةٌ اور مُعَادَاةٌ)، (فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ) کی شرح ہیں۔ یعنی یہ الفاظ حضرت علیؑ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کی محبت کے سلسلے میں ہیں۔

اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس خطبہ میں کہی گئی بات سے بھی زیادہ باتوں کے مستحق تھے لیکن نبی کریم ﷺ کا یہ خطبہ حضرت علی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ آپ کا یہاں ٹھہرنا آرام کی غرض سے تھا، کیونکہ مکہ سے مدینہ کا سفر طویل تھا۔ اس لیے حضرت نبی کریم ﷺ اس سفر میں ایک سے زیادہ مرتبہ آرام فرماتے تھے، چنانچہ آپ نے (اس موقع پر) لوگوں کو کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کی اور بتایا کہ کتاب اللہ کی پیروی اور اہل بیت کا احترام اور توقیر واجب ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کے ناروا تبصروں کو ختم کرنے کی غرض سے ان کی شان بیان کی اور فرمایا: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» کہ جس کو میں محبوب اور پیارا ہوں اسے علی بھی محبوب اور پیارا ہے۔

۳۔ مَوْلَاهُ کا لفظ کس کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟

ابن الاثیر کہتے ہیں کہ مولیٰ کا لفظ، رب، مالک، منعم، ناصر، محب، حلیف، غلام، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، داماد، پر بولا جاتا ہے۔^① عرب لوگ ان سب پر لفظ مولیٰ بولا کرتے ہیں۔

۴۔ اس حدیث میں امامت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اگر حضرت نبی کریم ﷺ کا

① النہایۃ فی غریب الحدیث ۲۲۸/۵

ارادہ خلافت کا ہوتا تو آپ وہ لفظ نہ بولتے جو ان تمام معانی کا متحمل ہے، جنہیں ابن الاثیر نے بیان کیا ہے، بلکہ آپ نے صاف کہہ دینا تھا کہ « عَلِيٌّ حَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي يَايُونَ فرماتے کہ عَلِيٌّ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي » یا فرماتے: « إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا الْعَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ » وغیرہ لیکن آپ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کن واضح کلمہ نہیں بولا جو (اس حدیث کے نام پر صدیوں بعد برپا ہونے والے) اختلاف کو ختم کر دیتا بلکہ آپ ﷺ نے صرف یہ فرمایا کہ « مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ »^①

۵۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مَا وَآكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ۱۵]

”کہ تمہارا ٹھکانا آگ ہے وہی (آگ) تمہارا مولیٰ ہے اور بڑا برا ٹھکانا ہے۔“

اللہ نے آگ کو کفار کے ساتھ ملی رہنے اور ان سے چمٹے رہنے کی وجہ سے ان کا مولیٰ قرار دیا۔

۶۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے ”موالاة“ کا وصف آپ کی زندگی اور وفات اور حضرت رسول کریم ﷺ کی زندگی اور وفات کے بعد بھی ثابت ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ کی زندگی میں بھی مومنین کے مولیٰ تھے اور آپ کی وفات کے بعد بھی ان کے مولیٰ ہیں اور وہ اب بھی ہمارے مولیٰ ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدہ: ۵۵]

”کہ تمہارا مولیٰ اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں کی پہلی فہرست میں ہیں۔

۷۔ اگر حضرت نبی کریم ﷺ کی مراد، (حضرت علیؑ کی خلافت یا امامت ہوتی) تو آپ مولیٰ نہ کہتے بلکہ والی کہتے کیونکہ مولیٰ کا لفظ والی سے مختلف ہے۔ جبکہ والی، وِلَايَةٌ

① مشہور شیعہ عالم نوری طبرسی کہتا ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے غدیر خم کے دن اپنے بعد حضرت

علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فضل ہونے کی تصریح نہیں کی۔ دیکھئے فصل الخطاب، ص: ۲۰۵-۲۰۶

(واو کے کسرہ کے ساتھ) سے ہے اور اس سے مراد حکومت ہے اور مولیٰ، وَلَايَةٌ (واو کے فتح کے ساتھ) سے ہے اور اس کا معنی محبت اور نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [تحریم: ۴]

”کہ اللہ تعالیٰ اس کا مولیٰ ہے اور جبریل بھی اور نیک مومنین بھی۔“

یعنی محبت، نصرت اور تائید کے اعتبار سے۔

۸۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ [آل عمران: ۱۸]

”کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے سب سے بڑھ کر حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے

اس کی پیروی کی۔“ یہاں اَوْلَى سے یہ مراد نہیں ہے کہ ابراہیم کے پیروکار، ابراہیم

علیہ السلام کے امام اور خلیفہ ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم ہی ان کے امام اور رئیس ہیں۔“

۹۔ امام شافعی مطلی قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن ارقم کی حدیث کے متعلق

فرماتے ہیں کہ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ» میں مولیٰ سے اسلام کی ولاء

(محبت اور نصرت) مراد ہے۔^①

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ۱۱]

”اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، ایمان لانے والوں کا مولیٰ ہے اور کافروں کا

کوئی مولیٰ نہیں ہے۔“

(مختصر یہ کہ مذکورہ بالا) حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حضرت

علی رضی اللہ عنہ، حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد خلیفہ ہیں، بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی

ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ہیں اور ان کی موالات

(محبت، نصرت، تائید) واجب ہے۔ (وباللہ التوفیق)

۲۔ حدیث الکساء سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم

۲۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق بیان کرتی ہیں: ①
 کہ ایک دن حضرت نبی کریم ﷺ نکلے اور ان پر کبیل تھا تو آپ نے حضرت علی،
 حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ کو اس کے نیچے داخل کر لیا اور پڑھا:
 ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا ﴾ [احزاب: ۳۳] ②

وہ اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناپاکی
 (خسیس عادات اور قبیح افعال) دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ
 چیز ہو جاتی ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ناپاکی دور کر دی تو وہ معصوم ہو گئے اور
 جب وہ معصوم ہو گئے تو ان کا دوسروں کی نسبت، خلافت کا اولین مستحق ہونا واجب ٹھہرا۔
 اور یہ دعویٰ بہت سی وجوہات کی وجہ سے باطل ہے۔

① پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جس کا نام آیۃ التطہیر رکھا گیا ہے، یہ حضرت
 رسول کریم ﷺ کی بیویوں کے حق میں نازل ہوئی ہے (دیکھئے) اللہ تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا ہے:

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَقَرْنَ

① یہ حدیث ان لوگوں کی کذب بیانی اور دروغ گوئی کا پردہ چاک کر رہی ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ،
 حضرت علیؓ کے فضائل چھپاتے تھے۔ اس حدیث کو اس عائشہؓ نے روایت کیا جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ
 وہ حضرت علیؓ و فاطمہؓ و حسینؓ سے بغض رکھتی تھیں۔

② صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة، رقم: ۶۱ مختصرًا

فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ
 آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي
 بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿

[الاحزاب: ۳۲-۳۴]

”اے نبی کی بیویو! تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے تقویٰ اختیار کرنا
 ہے تو لوچ دار لہجے میں گفتگو نہ کرنا، ورنہ جس شخص کے دل میں کھوٹ ہے وہ
 (ناجائز) طمع کرے گا اور تم نے بھلائی کی بات کرنا، اور اپنے اپنے گھروں میں
 ٹھہری رہنا اور پہلی جاہلیت کا سا بناؤ، سنگار نہ کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا
 کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ تو تم اہل بیت سے
 دنائت دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پوری طرح (میل سے) پاک کرنا چاہتا ہے
 اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے اسے یاد
 رکھنا بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔“

جو شخص ان آیات کے سیاق و سباق پر غور کرے گا وہ اس بات پر یقین کرے
 گا کہ یہ آیات خاص طور پر حضرت نبی کریم ﷺ کی ازواج سے متعلق ہیں۔
 اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ﴾ سے
 بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عَنْكُمْ فرمایا ہے عَنْكُمْ نہیں فرمایا اور
 يُطَهِّرْكُمْ فرمایا ہے۔ يُطَهِّرْكُمْ نہیں فرمایا۔

(مزید برآں) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں میم جمع مذکر کا استعمال بھی اس بات
 پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی بیویاں، تطہیر سے خارج ہیں اور
 حدیث (عائشہؓ) کی دلیل سے حضرت علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ، حسینؓ اس میں داخل ہیں۔

لیکن یہ استدلال باطل ہے کیونکہ آیت (یعنی فرمان باری تعالیٰ) متصل ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ اس کے متصل بعد فرمایا: ﴿وَإِذْ كُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ان آیات میں خطاب مکمل طور پر ازواجِ مطہرات سے ہے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ نون مؤنث کی بجائے میم جمع اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ بھی ان میں داخل ہیں اور آپ اہل بیت کے سربراہ اور رئیس ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ مذکر و مؤنث کے اشتراک پر صیغہ مذکر لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے متعلق بھی، اسی طرح خطاب فرمایا ہے۔

﴿أَتَعْبِيبِن مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ، رَحِمَتْ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ [ہود: ۷۳]

”کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا گیا اور سراہا گیا ہے۔“

اس آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے اور حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ۲۹]

”کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی تو اپنے اہل کو لے کر چل پڑے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی (اور اسے ہی اہل کہا گیا ہے)۔ کیونکہ آدمی بھی اہل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ میں عنکم کا لفظ اس لیے ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ بھی اپنی بیویوں میں داخل ہیں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اس

آیت میں داخل نہیں ہیں۔ اور نہ ہی عنکم کا لفظ ان کے متعلق ہے بلکہ وہ حدیث کساء کی بناء پر اہل بیت میں داخل ہیں، آیت کی دلیل سے نہیں۔ چنانچہ حدیث کساء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اہل بیت نبی میں داخل ہیں اسی بنا پر آپ نے ان کو کعبل میں ڈھانپ کر پڑھا۔ ﴿أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ اور ان کو اہل بیت میں داخل کر لیا۔

۳) تیسری بات یہ ہے کہ اہل بیت النبی ﷺ کا معنی ازواج النبی تک پہنچتا ہے اور حضرت علی اور حسن و حسین و فاطمہ رضوان اللہ علیہم سمیت دوسروں تک بھی پہنچتا ہے جیسا کہ زید بن ارقم کی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن آپ کے وہ اہل بیت وہ بھی ہیں، جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ ہیں آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس۔^①

اس اعتبار سے اہل بیت النبی کا مفہوم (مذکورہ بالا افراد سے) بھی وسیع ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی بیویاں تو آیت مبارکہ کی رو سے اہل بیت میں داخل ہوئیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے سیدنا حسن و حسین حدیث کساء کی رو سے داخل ہوئے۔

اور آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، حدیث زید بن ارقم کی وجہ سے۔ اور آل حارث بن عبدالمطلب حضرت نبی کریم کے اس قول کی رو سے اہل بیت میں داخل ہوئے کہ

«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْ سَاخُ النَّاسِ»^②

”کہ بے شک صدقہ آل محمد کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔“

① صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة، رقم: ۳۶۰

② مسلم - کتاب الزکوٰۃ، رقم: ۱۶۷

چارٹ شجرہ بنی ہاشم

چنانچہ یہ سب اہل بیت النبی ہیں، بلکہ تمام بنو ہاشم اہل بیت ہیں اور ان سب پر صدقہ حرام ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنائت دور کر دی، بلکہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دنائت و خست دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ ارادہ شرعیہ ہے، قدریہ نہیں ہے اور ارادہ قدریہ، ارادہ شرعیہ سے الگ چیز ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ ان سے دنائت و خست دور کر دے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کے صاحبزادوں حضرت حسن و حسین اور ازواج مطہرات اور آل عقیل، آل جعفر، آل عباس سے دنائت و خست دور کر دی، لیکن پھر بھی اس آیت میں ارادہ شرعیہ ہی مراد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں ہے کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ نے سادات اربعہ پر اپنا مکمل پھیلا یا تو فرمایا:

«اللَّهُمَّ هُوَ لَاءِ أَهْلِ بَيْتِي، اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ» ①

”کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے دنائت و خست دور کر دے۔“

تو جب اللہ تعالیٰ (آیت مبارکہ کی رو سے) ان سے دنائت و خست لے گیا ہے تو پھر اس فرمان کا کیا مطلب کہ اے اللہ ان سے دنائت دور کر دے!؟

حضرت نبی کریم ﷺ کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت محولہ میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ، شرعی ارادہ ہے، قدری نہیں ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَيُطَهِّرَ كِتَابَتَهُ﴾

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَيُطَهِّرَ كِتَابَتَهُ﴾

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَيُطَهِّرَ كِتَابَتَهُ﴾

اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿[النساء: ۲۶-۲۸]

① سنن الترمذی - کتاب المناقب باب مناقب اہل بیت النبی، رقم: ۳۷۸۷

”کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور تمہیں پہلے لوگوں کے طور طریقے کی راہنمائی کرنا چاہتا ہے اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم (خواہشات کی طرف) مکمل طور پر جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے ارادے ذکر کیے ہیں وہ سب شرعی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں پر تخفیف کرے، اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو بخش دے، لیکن کیا اس نے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ نہیں کیونکہ قرآن میں ہے

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ۲۰]

”کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا چنانچہ تم میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ بخشنا تو سب کو چاہتا ہے لیکن جنہوں نے کفر کیا انہیں نہیں بخشے گا۔“

پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے میل دور کرنا چاہتا ہے اور ہر ایک مومن سے بھی، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے نمازی کو گندی جگہوں سے نپچنے کی ہدایت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ ﴿وَ تَيَابَتِكَ فَطَهَّرُ﴾ [مدثر: ۴] اور اسے وضو اور غسل جنابت کا حکم دیا۔

چھٹی بات یہ ہے کہ تطہیر فقط حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ پر ختم نہیں ہوئی بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [توبہ: ۱۰۳]

”کہ ان کے اموال سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَليُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدہ: ۶۰]
 ”لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔“

سورۃ انفال میں فرمایا:

﴿وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ [الانفال: ۱۱]

”اور وہ تم پر آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی پلیدگی دور کرے۔“

ساتویں بات یہ ہے کہ دنائت و خست کی دوری اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ سادات کرام، حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد خلیفہ ہیں، بلکہ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنائت لے گیا اور آپ مومنوں کے مولیٰ قرار پائے۔ اسی طرح حضرت حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم سے بھی بلکہ اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی دنائت لے گیا، تبھی تو ان کا نام امہات المؤمنین رکھا اور فرمایا:

”وَازْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“

اور اس طرح مذکورہ بالا آیات کی رو سے اللہ تعالیٰ تمام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی دنائت و خست لے گیا۔^①

① اس شبہ کا رد پڑھنے کے لیے مختصر ترجمہ اثنا عشریہ ص: ۱۳۹۔ کا مطالعہ کیجئے۔

۳۔ آیت ولایت سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم

اس سے ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مندرجہ ذیل فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدہ: ۵۵]

”کہ تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔“

انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک عمل روایت کیا ہے، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، کہ ایک فقیر نے صدقہ، یا زکوٰۃ کا سوال کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ رکوع کی حالت میں ہی بڑھا دیا، تو اس فقیر نے آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وہ کہتے ہیں کہ سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی اور نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے وہی ولی ہیں اور وہی خلیفہ ہیں۔

اس آیت سے ان کے استدلال کا جواب کئی طرح سے ہے۔

① پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ کی سند صحیح نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ میں دی ہو، سبحان اللہ! وہ اپنے زعم میں اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو ان کی مدح کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو وہی مدح کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول نے فرمائی ہے۔ لیکن وہ مدح کی بجائے

قدح کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [مومنون: ۱-۲]

”کہ ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔“

اور حضرت نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ

﴿إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا﴾^① ”کہ نماز میں مشغولیت ہے۔“

تو ہم کس طرح مان لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ خاشعین کے اماموں اور ان کے سربر آوردہ لوگوں میں سے ہیں، وہ نماز کی حالت میں صدقہ کرتے پھریں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی نماز پوری کر لیتے اور پھر صدقہ کرتے؟ اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان حسب طاقت اپنی نماز میں خشوع کرے اور اس طرح کے کام نماز کے بعد تک مؤخر کرے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا، زکوٰۃ مانگنے والے کا انتظار نہ کرے (بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دے۔)

کیا یہ بات افضل ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ اپنے پاس رکھ چھوڑے اور پھر انتظار کرے کہ لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں تو انہیں اپنے مال کی زکوٰۃ دے؟ یا وہ بغیر کسی کا انتظار کئے خود زکوٰۃ ادا کر دے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرا طریقہ افضل ہے۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت رسول کریم ﷺ کی زندگی میں نادار تھے، اسی لیے تو آپ کی طرف سے حضرت فاطمہ کو مہر میں صرف ایک درع مل سکی اور مالی صورت میں مہر نہ مل سکا، کیونکہ آپ کے پاس مال نہ تھا اور آپ جیسے نادار پر زکوٰۃ ویسے بھی فرض نہیں ہے اور حضرت رسول کریم ﷺ کی زندگی میں تو

① صحیح بخاری، کتاب العمل فی الصلوٰۃ، باب ما ینھی عن الکلام، رقم: ۱۱۹۹،

صحیح مسلم - کتاب المساجد، رقم الحدیث: ۳۴

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ﴿قَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ نازل ہوئی اور نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا ممنوع قرار پایا (مترجم)

آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔

④ چوتھی بات یہ ہے کہ اس آیت میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا قابل تعریف ہوتا تو یہ عمل مشروع ہو جاتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس حالت میں زکوٰۃ دینے والے کی تعریف کرتا ہے تو رکوع کی حالت میں یہ کام سنت قرار پاتا لیکن کسی عالم نے اس کا فتویٰ نہیں دیا۔

⑤ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلوٰۃ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور اقامت، ادائیگی سے منفرد چیز ہے، کیونکہ عبد اللہ بن عباس کے بقول اقامت صلوٰۃ کا معنی ہے کہ نماز کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے جس طرح حضرت رسول کریم ﷺ نے ادا کی ہے۔ یعنی طہارت، رکوع، سجود، خشوع و خضوع، ذکر و قرأت میں درجہ کمال کے ساتھ، یہ ہے اقامت صلوٰۃ۔ اگر (وَهُمْ رَاكِعُونَ) سے مراد رکوع ہوتا تو اقامت صلوٰۃ کے بعد دوبارہ رکوع کی حالت بیان کرنے کا کیا مطلب؟

بلاشبہ مطلب یہ ہوا کہ راکعون سے مراد (خاضعون لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی) ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت داؤد کے تذکرے میں ہے۔

﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنْمَّا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ﴾ [ص: ۲۴]

”کہ داؤد نے سمجھا کہ ہم نے اسے آزما یا تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور وہ سجدے میں گر پڑا اور (ہماری طرف) متوجہ ہوا۔“

اس آیت میں (رَاكِعًا) سے مراد (سَاجِدًا) ہے۔ اسے (رَاكِعًا) کے لفظ سے تو اس وجہ سے تعبیر کیا کہ وہ اللہ کے سامنے ذلت کی خاطر جھک گئے۔

اور اسی طرح سورہٴ مرسلات [۴۸] میں ہے:

﴿ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ ارْكَعُوْا لَا يِرْكَعُوْنَ ﴾ [المرسلات: ۴۸]

”کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ تو وہ فرمانبرداری نہیں

کرتے۔“

اس میں (اِرْكَعُوا) سے مراد (اِخْضَعُوا) ہے۔

اور اسی طرح سورہ آل عمران [۴۳] میں ہے:

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ۴۳]

”کہ اے مریم اپنے رب کے سامنے جھک جا اور سجدہ کر اور فرمانبردار

ہونے والوں کے ساتھ فرمانبردار ہو جا۔“

یہاں (اِرْكَعِي) سے مراد (اِخْضَعِي) ہے یعنی اللہ کے سامنے اپنا سر خم کر دے۔ حضرت مریم عبادت کی خاطر تمام کاموں سے لائق تھیں اور اس صنف سے تھیں جن پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ المختصر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا مستحب ہے۔

⑥ چھٹی بات یہ ہے کہ: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب بنو قریظہ نے حضرت رسول کریم ﷺ سے غداری کی تو پھر وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی طرف گئے، کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ان سابقہ دوستوں کو چھوڑ دیا اور ان سے عداوت رکھ لی، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھی بن گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ①

یعنی اس آیت میں (وہم راکعون) سے ان کا حال بیان کیا ہے کہ وہ اپنی تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے چند آیات پہلے بیان فرمایا کہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدہ: ۵۱]

”کہ اے ایمان والو! تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ

باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کا دوست بنا وہ

انہی (یہودیوں، عیسائیوں) میں سے ہوگا۔“

اس آیت میں عبد اللہ بن ابی ابن سلول کو یہودیوں کا دوست قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب حضرت رسول کریم ﷺ کا یہود بنو قینقاع سے تنازعہ ہوا تو عبد اللہ بن ابی نے اپنے ان حلیف یہودیوں کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر حضرت نبی کریم کی خدمت میں ان کا سفارشی بن گیا (اور ڈھٹائی سے ان کی سپورٹ کرنے لگا)، جبکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے لاتعلقی اختیار کر کے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

”اے ایمان والو! تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ باہم ایک

دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان کا دوست بنا وہ انہیں میں

سے ہے۔ اور اللہ ظالموں کے ٹولے کو ہدایت نہیں کرتا۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادہ بن صامتؓ جیسے مومنین کرام کی خوبی بیان کی کہ

﴿أَمَّا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

”کہ تمہارا ولی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول اور (عبادہ جیسے) مومنین۔“

لہذا (شان نزول کے اعتبار سے) یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے

بارے میں ہے۔ (دیکھئے تفسیر طبری: ۱۷۸/۶)

④ ساتویں بات یہ ہے کہ: اس طرح کی بات تو ہر کوئی انسان کہہ سکتا

ہے، چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شیدائی کہیں گے کہ یہ حضرت معاویہ کی شان میں

نازل ہوئی ہے اور شیعہ کی طرح وہ بھی کوئی من گھڑت روایت پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شیدائی آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ آیت حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی اور وہ بھی کوئی خود ساختہ روایت پیش کر دیں گے۔

① آٹھویں بات یہ ہے کہ بالفرض مان لیا جائے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے تو اس سے ان کی خلافت بلا فصل تو ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم حضرت علیؑ سے محبت رکھیں اور ہم (بجہ اللہ) ان سے محبت رکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ﴾ میں اِنَّمَا حصر کے لیے ہے لہذا ان سے پیشرو خلفاء کی خلافت باطل ہوگئی۔

ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد اگر ہم بالفرض مان لیں کہ (اِنَّمَا) حصر کے لیے ہے اور اس سے حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کی خلافت باطل ہے تو اسی حصر کی وجہ سے حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت زین العابدینؓ، حضرت محمد الباقرؓ، و جعفرؓ وغیرہم کی خلافت بھی باطل ہوگی۔

② نویں بات یہ ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ واحد ہیں اور آیت میں ضمیر (ہُمْ) جمع ہے، اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جمع کا صیغہ ذکر کر کے مفرد بھی مراد لیا جاسکتا ہے لیکن اصل قانون یہی ہے کہ مطلق جمع سے مراد بھی جمع لیا جاتا ہے الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ہو، اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے۔



۴۔ حَدِيثُ الْمَنْزِلَةِ سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم

حضرت رسول کریم ﷺ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور (عورتوں، بچوں، معذوروں کے سوا) کسی کو مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی تو چھ قسم کے لوگ مدینہ میں رہ گئے۔

① معذور صاحبان، مثلاً بوڑھے، اندھے، مریض اور دیگر پانچ افراد۔

② عورتیں۔

③ بچے۔

④ ایسے خطا کار جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے نکلنے کا حکم دیا لیکن وہ سستی کی وجہ سے نکل نہ سکے اور وہ تھے کعب بن مالکؓ، مرارہ بن ربیعؓ، ہلال بن امیہؓ۔

⑤ جنہیں خود نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔

⑥ منافقین۔

یہ صرف چھ قسمیں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پانچویں قسم میں سے تھے، نبی کریم ﷺ نے ان کو مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو منافقین نے باتیں بنانی شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ رسول اللہ نے کسی طرح کی دلی (نفرت کی وجہ سے) علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا ہے۔^①

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پیچھے چل دیئے۔ اس وقت آپ مدینہ کے باہر تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ

① مختصر تاریخ ابن عساکر ۱۷/۳۴۷

حضرت علیؑ رو دیئے ① اور کہا:

اے اللہ کے رسول!، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ چلے ہیں؟
تو حضرت رسول کریم ﷺ نے انہیں حوصلہ دیا اور فرمایا:
«أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي» ②

”کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میری طرف سے اسی مقام پر ہو، جو ہارون
کا موسیٰ سے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانا کہ «أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ
مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ» اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علیؑ، آپ کے
بعد خلیفہ ہیں کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام میقات پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ
تھے۔ لہذا حضرت علیؑ بھی، حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد خلیفہ ہیں۔

اور یہ استدلال چند وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔

① پہلی وجہ یہ ہے کہ: حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہیں بنے
تھے۔ بلکہ مشہور ہے کہ وہ، حضرت موسیٰ سے ایک سال قبل وفات پا گئے تھے۔ ③
② دوسری وجہ یہ ہے کہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے
گئے، تو ہارون علیہ السلام اس شان سے شہر میں ان کے خلیفہ بنے کہ ان کے ساتھ لشکر بھی تھا
اور قوت بھی تھی اور لوگ بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر اپنے
رب کی ملاقات کے لیے گئے جبکہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ فوج کا کوئی آدمی
نہ تھا، صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کی

① مختصر تاریخ ابن عساکر ۱۷/۳۴۵

② صحیح بخاری۔ کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علیؑ، رقم: ۳۷۰۶، مسلم کتاب فضائل
الصحابة نمبر ۳۰ (بغیر تفصیل کے)۔

③ طبری: ۱/۳۰۴، البداية والنهاية ۱/۲۹۷، قصص الانبياء، ص: ۲۹۸

تھی۔ لہذا معاملہ مختلف ہو گیا۔

۳ تیسری وجہ یہ ہے کہ: حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت علیؑ کو اس وجہ سے دلاسا دیا کہ وہ آپ کے پاس شکایت کرنے آئے تھے، اگر وہ نہ آتے تو آنحضرت بھی انہیں یہ بات نہ کہتے، کیونکہ آپ ﷺ ان کو یہ بات کہے بغیر مدینہ سے نکل آئے تھے۔

حضرت رسول کریم ﷺ نے یہ بات کب ارشاد فرمائی؟

جب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت رسول کریم سے شکایت کی تھی کہ:

آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ چلے ہیں؟

تو آپ نے انہیں آگاہ فرمایا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، میں نے تمہیں کسی طرح کی ناراضی اور بغض کی وجہ سے پیچھے نہیں چھوڑا، کیا تم نہیں جانتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے (چند آدمیوں کو لے کر) نکل گئے اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو اسی میں ہارون علیہ السلام کی کوئی تنقیص نہ ہوئی۔ اس طرح جب میں تمہیں مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس میں تیری تنقیص نہیں ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا اور وہی شکوہ کرتا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو اسے بھی یہی جواب دینا بعید نہ تھا۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے شکوہ کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ دیگر گورنروں کو فقط عورتوں اور بچوں کا محافظ نہ بناتے تھے بلکہ انہیں مردوں پر بھی افسر مقرر کرتے تھے اور حضرت نبی کریم ﷺ سارا لشکر لے کر نہیں نکلتے تھے۔ لہذا جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فقط عورتوں اور بچوں کا نگہبان بننے میں اپنی تنقیص محسوس کی اور منافقین نے باتیں بنا نا شروع کیں، تو آپؐ، حضرت نبی کریم ﷺ کے پیچھے نکلے اور ان سے اپنی مدینہ میں موجودگی کا سبب پوچھا، تو آپ نے وضاحت فرمائی،

کہ آپ کو پیچھے چھوڑنا کسی طرح کی نفرت کی بنا پر نہیں اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہے، جو منافقین نے کہی، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑا تھا، اس طرح میں بھی تمہیں اپنے گھر میں چھوڑ رہا ہوں۔

④ چوتھی وجہ یہ ہے کہ امام ابن جریر و ابن کثیر وغیرہ مؤرخین کی تصریحات کے مطابق حضرت نبی کریم ﷺ نے اس غزوہ میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت کا محافظ مقرر کیا تھا۔ ①، ② (لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں آپ کے نائب نہ تھے)

⑤ پانچویں وجہ یہ ہے: اے شیعہ صاحبان! تمہیں یہ بات کس طرح سمجھ آگئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علیؑ کو پیچھے چھوڑنے میں ان کی فضیلت ثابت ہوئی جبکہ تمہارے بقول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ بنائے بغیر کہیں نکلنا مناسب نہ تھا اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہو کہ جب آپ انہیں اپنا نائب بنا کر گئے تو حضرت علیؑ روتے ہوئے باہر آ گئے۔

کیا تم سمجھ گئے اور حضرت علیؑ نہ سمجھ سکے!؟

اگر اس موقع پر حضرت علیؑ کو حضرت نبی کریمؐ کے یہاں چھوڑنے میں فضیلت ہوتی تو وہ روتے ہوئے باہر نہ نکلتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا خلیفہ بنائے بغیر نہیں نکلتے۔

⑥ چھٹی وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اپنا نائب بنایا تھا، جب آپ حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے اور مدینہ میں ان کو اپنا قائم مقام نہیں بنایا۔

باقی رہا آپ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون سے تشبیہ دینا، تو ہم کہتے

① تاریخ طبری ۲/۳۶۸، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سباع بن عرفطہ مدینہ میں آپ کے نائب تھے۔

② البداية والنهاية ۷/۵

ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو حضرت ہارون سے بھی بڑے پیغمبروں سے تشبیہ دی ہے، غزوہ بدر میں جب قیدیوں کا معاملہ درپیش ہوا اور حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا تو انہوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز پیش کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دینے کی رائے دی تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے متعلق فرمایا:

﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [ابراہیم: ۳۶]

”کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی سو بیشک تو بخشنے والا مہربان ہے۔“

نیز تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے متعلق فرمایا:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ [المائدہ: ۱۱۸]

”کہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔“

پھر آپ نے حضرت عمر فاروق کی طرف رخ پھیرا اور فرمایا: تمہاری مثال

حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا:

﴿رَبِّ، لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ۲۶]

”کہ اے اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ رہنے دے۔“

نیز تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے فرمایا:

﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ

يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ۸۸]

”کہ اے ہمارے رب ان کے مال مٹا دے اور ان کے دل سخت کر دے اور یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں۔“^①

چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام کے ساتھ، اور حضرت عمر فاروق کو سیدنا نوح اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ پیغمبر اولوالعزم میں سے ہیں اور حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد تمام انسانوں سے بہتر ہیں اور حضرت ہارون سے بدرجہا افضل ہیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین

مقصد یہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دینا، اس تشبیہ سے افضل و اعلیٰ نہیں جو آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور نوح علیہم السلام سے دی ہے۔



① مسند احمد ۱/۳۸۳ اس کی سند صحیح ہے۔

۵۔ آیت ذَوِی الْقُرْبَىٰ سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾

”کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت کی وجہ سے مجھ سے صلہ رحمی برتو۔“

وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو اپنے قرابت داروں سے محبت و دوستی کا حکم دیا ہے۔ اور کچھ شیعہ صاحبان نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت آل محمد کے قرابت داروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [الشوری: ۲۳] کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے (جلدی سے) کہہ دیا کہ ”مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے دوستی (کر کے مجھ سے محبت) کا ثبوت دو۔“^①

تو حضرت عبداللہ بن عباس نے میری طرف رخ کر کے فرمایا تو نے جلد بازی کی، اللہ کی قسم قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ:

مگر یہ کہ تم میرے اور اپنے درمیان قرابت داری کی بنا پر مجھ سے صلہ رحمی برتو^②

① اطا کی نے اپنی کتاب ”لِمَاذَا اخْتَرْتُ مَذْهَبَ الشَّيْعَةِ“ میں اس حدیث کو توڑ مروڑ کر بیان کیا ہے اور ابن جبیر کے کلام کو ابن عباس کی طرف منسوب کر دیا ہے دیکھئے ص: ۸۴

② صحیح بخاری - کتاب التفسیر - باب المودة فی القربی، رقم: ۴۸۱۸

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے اس مفہوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مندرجہ ذیل فرمان دلالت کر رہا ہے کہ

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الانفال: ۴۱]

”اور جان لو کہ تم نے جو کچھ مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور قرابت داروں کے لیے پانچواں حصہ ہے۔“
اس میں لِدَى الْقُرْبَىٰ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، فِی الْقُرْبَىٰ نہیں فرمایا۔ اور سورہ ص میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ۸۶]

”کہہ دیجئے میں اس (دعوت دین) پر تم سے اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔“

اور سورۃ یوسف میں ارشاد فرمایا:

﴿مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [یوسف: ۱۰۴]

”کہ آپ اس (دعوت الہی) پر ان سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، بلکہ یہ تو فقط جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔“

چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ نے تو کبھی اجرت کا سوال نہیں کیا، تو یہ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ (اپنی امت سے) کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ایک اجرت کا سوال کرتا ہوں، کہ تم میرے قرابت داروں سے موڈت کرو؟! (المختصر یہ کہ) حضرت رسول کریم ﷺ نے کبھی اجرت کا سوال نہیں کیا اور نہ اللہ کریم کے فرستادہ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں سے کبھی اجرت طلب کی۔^①

① الشعراء ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۶۴، ۱۸۰، ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجرت العالمین کے علاوہ کسی کے ذمے نہیں ہے!

(جب، حقیقت یہ ہے) تو حضرت رسول کریمؐ جو کہ تمام انبیاء کرام سے افضل اور معزز ہیں، وہ اس بات سے کوسوں دور ہیں کہ لوگوں سے اجرت کا سوال کریں آپ ﷺ تو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کا صحیح ترین مصداق ہیں کہ:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾

نیز

﴿ وَ مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

نیز

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾

[الفرقان: ۵۷]

لہذا اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ میں کلمہ **إِلَّا** یا تو استثنا متصل یعنی (سوی) کے معنی کے لیے ہے، یا استثنا منقطع کے لیے ہے، یعنی **لَكِنْ** کے معنی میں۔ البتہ مذکورہ بالا آیات کی رو سے صحیح بات یہی ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع یعنی **لَكِنْ** کے معنی میں ہے کیونکہ حضرت رسول کریم ﷺ نے کبھی اجرت کا سوال نہیں کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ کا مفہوم یہ ہے، کہ لیکن میری قرابت داری کا پاس کر کے مجھ سے محبت کرو، میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں، تم مجھے لوگوں کو دعوت دینے دو۔

اور حضرت رسول مقبول ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ مجھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے دیں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو اس میں تمہاری اپنی عزت ہے، اگر لوگ مجھے قتل کر دیں تو میرے خون سے بری الذمہ ہو گے۔

الغرض حضرت نبی کریم ﷺ نے کبھی بھی لوگوں سے اپنے قرابت داروں کے ساتھ مؤدت کا سوال نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے قرابت داروں کے لیے اجرت کا سوال کرنا ہوتا تو آپ لَذَى الْقُرْبَىٰ يَا لَذَى الْقُرْبَىٰ فرماتے کیونکہ فِي الْقُرْبَىٰ سے وہ معنی نہیں نکلتا۔

شیخ الاسلام امام ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں حضرت نبی کریم ﷺ کے رشتہ داروں یا انسان کے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کا ذکر آیا ہے، وہاں ذَوِی الْقُرْبَىٰ آیا ہے۔ فِي الْقُرْبَىٰ نہیں آیا۔^①



۶۔ حدیث ثقلین سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم

« تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ
وَعِتْرَتِي » ①

”کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم انہیں تھام رکھو تو میرے بعد
کبھی گمراہ نہ ہو گے (وہ ہیں) اللہ کی کتاب اور میری عترت۔“

وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مومن پر واجب ہے کہ وہ حضرت
رسول کریم ﷺ کی عترت کا دامن نہ چھوڑے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان
کا دامن تھا منا واجب ہے تو حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد وہ اس منصب (امارت)
کے حقدار ٹھہرے اور وہی آپ کے بعد خلفاء ہیں۔

اس استدلال کے باطل ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں:

① پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے اور حضرت رسول کریم ﷺ سے
ثابت ہونے میں بھی کلام ہے، صحیح مسلم میں تو کتاب اللہ کو تھامنے اور اہل بیت کا
احترام کرنے کا حکم ثابت ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت زید
بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے کتاب اللہ کو
تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا:

« وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي
أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي »

یعنی آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے

① سنن ترمذی - کتاب المناقب ، باب مناقب اہل البیت ، رقم : ۳۷۸۶ ، اس روایت کی
سند میں زید انماطی ہے ، اس حدیث کے ایک سے زائد طرق ہیں لیکن کوئی بھی کلام سے خالی نہیں بلکہ اس کی
تمام اسناد کے متون میں بھی اختلاف ہے۔

میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔“

چنانچہ آپ نے کتاب اللہ کو تھامنے کا حکم دیا۔ اور اہل بیت کے متعلق آپ نے یہ حکم دیا کہ ان کی پاسداری کی جائے اور ان کے وہ حقوق ادا کیے جائیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔

اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:

« قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللّٰهِ »^①

”کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں، کہ اگر تم اسے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ

ہوگے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔“

اس روایت میں اہل بیت کو تھامنے کا ذکر نہیں بلکہ اس کتاب کو تھامنے کا ذکر ہے جس کے تھامنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔

② دوسری وجہ: عترت رسول ہیں کون؟ آدمی کے گھرانے کے لوگ ہی اس کی عترت ہوتے ہیں اور عترت رسول ﷺ سے وہ تمام افراد مراد ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے اور وہ ہیں بنو ہاشم، اور یہی عترت رسول ﷺ ہیں اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر ان کا احترام کرنے اور ان کا دامن تھامنے والا کون ہیں؟ اہل السنہ یا شیعہ؟

شیعہ کے ہاں حضرت رسول کریم ﷺ تک اسناد کا اہتمام نہیں ہے اور وہ خود بھی اس حقیقت کے اقراری ہیں کہ ان کے پاس ان کی کتابوں کے مندرجات اور مرویات کی اسناد نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس محض کتابیں ہیں۔ جو انہیں (اپنے

① صحیح مسلم - کتاب الحج، رقم: ۱۷۴

بڑوں سے) ملیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیان کرو کیونکہ وہ برحق ہیں۔^①
 باقی رہا ان کی اسانید کا معاملہ، تو حُرّ العالمی جیسے شیعہ مجتہدین کہتے ہیں کہ
 بنیادی طور پر شیعہ کے پاس اسانید نہیں اور نہ ہی اسانید پر ان کا دار و مدار ہے۔^②
 جب ان کے پاس ان کی کتابوں کی مرویات کی اسناد ہی موجود نہیں تو پھر وہ
 عترۃ النبی ﷺ کے متعلق اپنی مرویات کس طرح ثابت کریں گے؟ جبکہ حقیقت
 میں ہم اہل السنہ ہی عترۃ النبی کی اتباع کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں ان کا
 پورا حق دیا ہے، نہ ہم نے اسے بڑھایا نہ گھٹایا، جیسا کہ حضرت رسول کریم ﷺ
 فرما گئے ہیں:

”لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَلَكِنْ قُولُوا
 عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“^③

”کہ مجھے یوں نہ بڑھانا جیسے نصرا نیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، بلکہ تم کہو اللہ
 کا بندہ اور اس کا رسول۔“

③ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب عترۃ کے امام ہیں اور ان کے بعد علم
 کی رو سے اس امت کے حبر حضرت عبداللہ بن عباس ہاشمی ہیں، اور آپ ﷺ
 حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت سے مقدم مانتے
 ہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ:

- ① کلینی نے محمد بن حسن سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جعفر ثانی سے کہا کہ: ”میں آپ پر قربان ہو جاؤں!
 ہمارے مشائخ نے ابو جعفر اور ابو عبداللہ علیہم السلام سے روایت بیان کی ہیں اور اس وقت تفسیر شدید تھا، لہذا
 انہوں نے اپنی کتابیں چھپالیں اور وہ ان سے روایت نہ کی جاسکیں، جب وہ فوت ہو گئے تو کتابیں ہمیں مل
 گئیں تو انہوں نے کہا: انہیں بیان کرو وہ حق ہیں۔ الکافی ۵۳/۱
- ② دیکھئے اس کی کتاب خاتمۃ الوسائل، اس میں وہ لکھتا ہے (فائدہ نمبر 9) کہ شیعہ کے پاس اسانید نہیں کہ ان
 کے ذریعے مرویات کو پرکھا جائے اور اسانید کا اہتمام، نیا قضیہ ہے
- ③ صحیح بخاری - کتاب احادیث الانبیاء - باب قول اللہ ”وَ اذْکُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ“، رقم: ۳۴۴۵

«أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»^①
 ”کہ حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد، حضرت ابو بکر اور عمر، تمام لوگوں سے
 افضل ہیں۔“

بلکہ شیعہ کے نزدیک بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 «أَنَا لَكُمْ وَزَيْرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ»^②

”میں تمہارا وزیر بہتر ہے اس سے کہ تمہارا امیر بنوں۔“
 چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بذات خود شیخین کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں جبکہ
 آپ عترت کے امام ہیں۔

④ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث بھی حضرت رسول کریم ﷺ کی مندرجہ ذیل حدیث
 کی طرح ہے۔

«تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَ
 سُنَّتِي»^③

”کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز گمراہ
 نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔“
 اور آپ ﷺ نے فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا
 بِالنَّوَاجِذِ»^④

”کہ تم پر میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اسے

① صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب قول النبی لو كنت متخذاً خليلاً، رقم: ۳۶۷۱

② نهج البلاغة ص: ۹۵ خطبه نمبر: ۹۲

③ مستدرک حاکم ۹۲/۱

④ سنن ابی داؤد کتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم: ۴۶۰۷، ترمذی کتاب العلم، باب ما

جاء فی الاخذ بالسنة، رقم ۲۶۷۶

ڈاڑھوں سے (یعنی مضبوطی سے) پکڑ لو۔“

چنانچہ آپ نے اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت کو ڈاڑھوں سے چبا کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا:

«اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»^①

”کہ میرے بعد ابوبکر اور عمر کی اقتدا کرو۔“

اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

«اِهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَ تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ»^②

”کہ عمار کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرو اور ابن مسعود کے عہد کو تھام لو۔“

اور یہ حدیث کسی طرح بھی امامت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرت رسول مقبول ﷺ کے طریقے پر تھے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی عترت، ضلالت پر کبھی اکٹھی نہ ہوگی۔

لیکن عترۃ النبی ﷺ کے افراد کون ہیں؟ اس پر ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ (دیکھئے ص نمبر: ۲۶۶)

⑤ پانچویں وجہ یہ ہے کہ شیعہ صاحبان، عم رسول حضرت عباس (رضی اللہ عنہ) بن عبدالمطلب ہاشمی کی (insult) اور تحقیر کرتے ہیں۔^③ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ پر بھی زبان طعن دراز کرتے ہیں۔^④ اسی طرح وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پر زبان

① ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر و عمر، رقم: ۳۶۶۳، ابن ماجہ، المقدمة۔

باب فضائل اصحاب النبی، رقم: ۸۶

② سنن ترمذی، کتاب المناقب۔ باب مناقب عبد اللہ بن مسعود، رقم: ۳۸۰۵

③ رجال النجاشی ص: ۵۲

④ رجال النجاشی، ص: ۵۲، الکافی ۱/۲۴۷، (ان پر اتہام لگاتے ہیں کہ وہ کم عقل تھے۔)

طعن دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حسد کرتی ہے۔^① اور اسی طرح وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ان بیٹوں پر بھی لب کشائی کرتے ہیں جو ان کے من پسند اماموں میں سے نہیں ہیں مثلاً حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہما کہ ان پر انہوں نے تہمت لگائی ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔^② اس طرح حضرت حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بھائی ابراہیم پر زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ فاجر اور شرابی تھا۔

اس بنا پر شیعہ صاحبان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عمرت کے قدر دان نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت رسول کریم اور ان کی عمرت کے سچے قدر دان وہ لوگ ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں ان کا حق دیتے ہیں اور ان کی تنقیص نہیں کرتے۔

⑤ چھٹی وجہ یہ ہے کہ شیعہ صاحبان کے ہاں شخصیات کا مقام، اتباع کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ فارسی قوم سے جذباتی تعلق کی بنا پر ہے چنانچہ وہ شخصیات کو کفر و اسلام کے پیمانے سے نہیں پرکھتے بلکہ فارسی اور عربی کے پیمانے سے ناپتے ہیں اور اس حقیقت پر مندرجہ ذیل امور دلالت کرتے ہیں۔

① مثلاً تمام اصحاب رسول کو چھوڑ کر صرف حضرت سلمان فارسی کی تعظیم کرنا، حتیٰ کہ یوں کہنا کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے! ^④ ایسے کیوں؟ اس لیے کہ وہ فارس سے ہیں۔

② حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد کو چھوڑ کر صرف حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کی تعظیم کرنا، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی اولاد کے ننھیال فارس سے ہیں یعنی شہر بانو بنت یزدگرد سے۔ جو حضرت علی بن حسین (زین العابدین) کی ماں

① الکافی ۶/۱۵۵ (حاشیہ دیکھیں)

② بحار الانوار ۴۶/۱۹۴

③ الکافی ۱/۵۰۴

④ رجال اللکشی : ۲۱

تھی۔ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین۔ چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ معزز ساسانی شجرہ، ہاشمی شجرہ سے مل گیا۔^①

② وہ کہتے ہیں کہ کسریٰ جہنم میں ہے لیکن اس پر آگ حرام ہے۔^② کس لیے؟! فارسی نظریہ تعصب کے مطابق کسریٰ (ایران) کی تعظیم کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ کفر پر فوٹ ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پر آگ حرام ہے۔

③ پھر ان کا آخری شخص آیا اور شاید وہ آخری نہ ثابت ہو اور وہ ہے۔ ”احتقانی حارّی،، وہ اصحاب رسول ﷺ کی فارس میں فتوحات پر تبصرہ کرتا ہوا کہتا ہے۔ کہ وہ او باش عرب بدو تھے، جو شہوت پرست، ہونے کی وجہ سے فارس کی عورتوں کی عفتوں کے پیاسے تھے۔^③

دیکھئے وہ اصحاب رسول کا ذکر کیسے گھٹیا اور شرمناک الفاظ میں کرتا ہے اور اس دور کی مجوسی عورتوں کی تعریف کن الفاظ میں بیان کرتا ہے؟ کہ وہ تو پاکدامن تھیں اور اصحاب رسول (نعوذ باللہ) ان کی عزتوں کے پیاسے تھے چنانچہ (ان کا اہل السنہ سے تنازع کا سبب) اسلام اور کفر یا امامت علیؑ اور دوسروں کی امامت کی نفی اللہ نہیں بلکہ ٹھیٹھ نسل پرستی ہے (کیونکہ وہ کسی بھی بہانے سے ایرانی قوم کی برتری منوانا چاہتے ہیں اور عرب فاتحین کی عظمت کو گرانے کی کوشش میں ہیں)



① بحار الانوار: ۴۵/۳۲۹

② بحار الانوار: ۴۱/۲۱۴

③ رسالة الايمان، ص: ۳۲۳

۷۔ حدیث عَلِيٍّ مَنِّي وَ اَنَا مِنْ عَلِيٍّ سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم

وہ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا فرمان ”عَلِيٌّ مَنِّي وَ اَنَا مِنْ عَلِيٍّ“ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علیؑ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے بعد امام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ، نبیؐ سے ہے اور نبیؐ حضرت علیؑ سے ہے تو اس کا تعلق اتباع اور نصرت سے ہے اسی بنا پر حضرت رسول کریم ﷺ نے غزوہٴ اُحد کے دن جب جلیبب کو گم پایا تو پوچھا:

جلیبب کو دیکھو! تو لوگوں نے کہا، وہ ہمیں نظر نہیں آرہے۔ آپ نے فرمایا: اسے مقتولوں میں تلاش کرو، جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ سات کافروں کے درمیان پڑا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا: اس نے سات کافروں کو جہنم رسید کیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

جلیبب مجھ سے ہے اور میں جلیبب سے ہوں۔“^①

جب حضرت نبی کریم ﷺ نے اشعریین کا ذکر کیا تو فرمایا: ”هُم مَنِّي وَ

اَنَا مِنْهُمْ“ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔“^②

لہذا آنحضرتؐ کے ”عَلِيٌّ مَنِّي وَ اَنَا مِنْ عَلِيٍّ“ سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ وہ آپ کے بعد خلیفہ ہیں، بلکہ یہ تو حضرت علیؑ اور حضرت رسول کریم کے آپس میں تعلق کو مبالغے کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اطاعت رسول کا مجسم نمونہ ہیں۔

اور پھر حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی کریم ﷺ سے نسبی، سسرالی تعلق بھی تو

① مسلم - فضائل الصحابة، رقم: ۱۳۱

② مسلم - فضائل الصحابة، رقم: ۱۶۷

تھا اور آپ دین حق کی اتباع، نصرت، تائید اور اللہ کے حق کو قائم کرنے میں اپنی مثال آپ تھے اس لیے حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «عَلِيٌّ مِنِّي وَ اَنَا مِنْ عَلِيٍّ»

تقریباً یہ ہیں وہ اہم دلائل جو شیعہ صاحبان، حضرت علیؑ کی خلافت کو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت سے مقدم سمجھتے ہوئے بیان کرتے ہیں اور شاید اور بھی دلائل ہوں، لیکن میں نے انہیں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ کم از کم میری نگاہ میں ان کے مقصد کو کسی صورت میں بھی پورا نہیں کرتے۔



سوالات

❑ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے متعلق، حضرت علیؓ کا موقف کیا تھا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا اولین حقدار سمجھتے تھے؟

جواب: جب واقعہ سقیفہ رونما ہوا اور بیعت مکمل ہو گئی اور یہ بیعت بقول سیدنا عمر بن الخطابؓ اچانک ہوئی تھی اور اس موقع پر شوریٰ کے افراد کو طلب نہیں کیا گیا تھا، تو حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں رنج پیدا ہوا اس لیے کہ انہیں شوریٰ میں شامل کیوں نہ کیا گیا، یا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔
یہ دو احتمال ہیں۔

پہلا یہ کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ شوریٰ میں اپنی شمولیت کو ضروری سمجھتے تھے۔
دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں صحیح احتمال کون سا ہے، چنانچہ ہم اصل واقعہ کے بیان کے بعد اس پر بحث کریں گے۔

حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو گئی اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول کریم بیمار ہو گئیں اور بستر پر پڑی رہنے لگیں مشہور روایات کے مطابق چھ ماہ زندہ رہیں^① اور بعض روایات کے مطابق اس سے بھی کم اور ایک روایت کے مطابق اس سے زیادہ عرصہ زندہ رہیں، لیکن سب سے مشہور روایات کے مطابق چھ ماہ زندہ رہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی

❶ بخاری - کتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس، رقم: ۳۰۹۳، مسلم - کتاب الجهاد: ۵۲

رسول کریم ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا پھر وہ کہنے لگی کہ اگر میں اگلے سال آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟
آپ نے فرمایا: ابوبکرؓ کے پاس چلی آنا۔^①

اور صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا: میرے پاس کوئی قلم دوات لاؤ تا کہ میں تیرے باپ کے لیے کچھ لکھ دوں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی طالع آزا ما چاہت نہ کر بیٹھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور مومنین ابوبکر کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔^②

یہ اور دیگر بہت سی احادیث ہیں جو اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوسروں سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں بذات خود فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے مجھے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دی، میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی اپنے آپ کو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے افضل نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح آپ کی حدیث، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کے لخت جگر سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیہ) نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد سب لوگوں سے افضل کون ہے؟
آپ نے فرمایا: ”ابوبکرؓ۔“

انہوں نے پوچھا: ”ان کے بعد کون۔؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”عمرؓ۔“ حضرت محمد بن علی ابن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس خدشہ کے پیش نظر کہ ابا جان کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے

① بخاری، کتاب فضائل الصحابة۔ باب لو كنت متخذاً خليلاً، رقم: ۳۶۵۹، مسلم، کتاب

فضائل الصحابة، رقم: ۱۰۰

② مسلم فضائل الصحابة، رقم: ۱۱، بخاری میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، کتاب المرضى، باب

ما رخص للمريض انى وجع، رقم: ۵۶۶۶

دیں فوراً کہ دیا: اور پھر آپ؟

آپؐ نے فرمایا: میں تو مسلمانوں میں سے فقط ایک انسان ہوں۔^①

اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے افضل نہ سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنا جانشین بنایا، تو آپ نے کسی طرح بھی رنج و الم کا اظہار نہیں فرمایا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے شوریٰ بنائی تو بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، بلکہ آپ نے اس شوریٰ کو تسلیم کیا۔ بنا بریں راجح بات یہی ہے کہ آپ کے دل میں خلافت کا خیال نہ تھا، بلکہ شوریٰ میں شمولیت کا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ میں شوریٰ میں کیوں نہ حاضر ہوسکا، جبکہ اس میں میرا حق ہے۔

لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا معاملہ اچانک پیش آ گیا اور اس میں نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر نہیں ہوئے، بلکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حاضر نہیں ہو سکے تھے اور مہاجرین میں سے بھی حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کے سوا اور کوئی حاضر نہ ہوسکا اور انصار میں سے بھی صرف حضرت حباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حاضر ہو سکے تھے۔

چنانچہ صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث اس حقیقت کی زیادہ وضاحت کر رہی ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن بکیر نے لیث کے حوالے سے بیان کیا اور اس نے عقیل سے اور عقیل نے ابن شہاب سے، ابن شہاب نے عروہ بن زبیر کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ سے بیان کیا کہ (وہ فرماتی ہیں)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام

① بخاری - کتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً، رقم: ۳۶۷۱

بھیجا اور ان سے اپنے باپ کی اس جاگیر کا مطالبہ کیا جو اللہ نے ان کو مدینہ اور فدک میں مال فتنے کی صورت میں عطا کی تھی اور خیبر میں باقی ماندہ خمس کی شکل میں موجود تھی، تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ: حضرت نبی کریم ﷺ فرما گئے ہیں کہ ہم اپنے ترکہ کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ اس مال میں سے آل محمد ﷺ کھا سکتی ہے۔ اور اللہ کی قسم! میں حضرت رسول کریمؐ کے صدقہ کی وہی حالت برقرار رکھوں گا جو آپ کے دور مبارک میں تھی اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کروں گا اور اس میں وہی کام کروں گا جو حضرت رسول اللہ ﷺ کرتے تھے۔

چنانچہ آپؓ نے اسے حضرت فاطمہؓ کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے ناراض ہو گئیں اور فوت ہونے تک ان سے بات نہ کی۔ اور وہ حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں۔ جب آپؓ فوت ہوئیں تو ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اسی رات میں ہی دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع نہ دی اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام (قابل رشک) تھا۔

جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت علیؓ نے اپنے متعلق لوگوں کے چہروں کے تاثرات بھانپ لیے، لہذا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مصالحت اور ان کی بیعت کی راہ تلاش کرنی شروع کر دی جبکہ گذشتہ مہینوں میں انہوں نے بیعت نہ کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ان کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ ہو، کیونکہ انہیں حضرت عمرؓ کا ان کے ساتھ آنا پسند نہ تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ نہیں اللہ کی قسم! آپ ان کی طرف اکیلے نہ جائیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ تمہیں میرے متعلق ان سے کیا خطرہ ہے؟ اللہ کی قسم! میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ چلے گئے تو حضرت علیؓ

نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ ہم آپ کی فضیلت سے آگاہ ہیں اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے معترف ہیں اور ہم اس خیر میں آپ سے منافست نہیں کرتے، جو اللہ نے آپ کی طرف پہنچائی ہے، لیکن آپ نے دلیری کی اور اس معاملے میں ہماری پرواہ نہ کی اور رسول کریم ﷺ سے قرابت داری کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا بھی حق ہے۔

اس دوران حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جب حضرت ابوبکرؓ نے گفتگو کی تو فرمایا۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اپنی قرابت داری کے مقابلے میں حضرت رسول کریم ﷺ کی قرابت داری بے حد عزیز ہے۔ اور وہ جو میرے اور آپ کے درمیان ان اموال کے متعلق شکر رنجی ہے (تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے) کہ میں نے اس میں بھلائی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میں نے حضرت رسول مقبول ﷺ کو اس مال کے متعلق جو کچھ کرتے دیکھا وہی کیا۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ سے کل بچھلے پہر بیعت کرنے کا وعدہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کی تو منبر پر تشریف لائے اور اپنے خطبہ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی اور اپنی بیعت کے متعلق ان کی تاخیر کا عذر بیان کیا اور ان کے لیے استغفار کیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں حضرت ابوبکرؓ کے حق کی عظمت بیان کی اور فرمایا کہ ہمیں کسی طرح کے احساس برتری نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے تاخیر پر نہیں اکسایا اور نہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا بھی حق ہے اور انہوں نے ہماری پرواہ نہ کی، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ناراضی پیدا ہوئی۔

چنانچہ مسلمان خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے درست کہا اور جب حضرت علی نے نیک کام کی طرف رجوع کر لیا تو مسلمان ان سے حد درجہ احترام سے پیش آنے لگے۔^①

۲ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت نص کی بنا پر قائم ہوئی یا مشاورت کے ذریعے قائم ہوئی؟

جواب: حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے متعلق تین اقوال ہیں۔

① ایک تو یہ کہ وہ حضرت رسول کریم ﷺ کی واضح نص کی بنا پر قائم ہوئی۔

② دوسرا یہ کہ وہ نص خفی کی بنا پر قائم ہوئی۔ جیسا کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے ایک عورت کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر میں تجھے نہ مل سکوں تو ابو بکر کے پاس آنا۔

③ اس قول سے استدلال کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ نص خفی ہے صریح نہیں ہے اور تیسرا قول ہے کہ وہ مشاورت کے ذریعے قائم ہوئی۔

اور جو بات واضح نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کی خلافت نص صریح کی بنا پر نہیں بلکہ نص خفی کی بنا پر قائم ہوئی اور اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

۳ کیا تاریخ طبری کی احادیث اور مرویات کی تحقیق اور تخریج ہو چکی ہے؟ اور کیا یہاں تاریخ کے موضوع پر کوئی صحیح کتاب موجود ہے؟

جواب: میں نہیں جانتا کہ اس کی تحقیق اور تخریج ہو چکی ہے یا نہیں، البتہ ابو بکر ابن العربی جیسے ائمہ کرام نے فقط صحیح روایات پر انحصار کرنے کی سعی کی ہے۔ مثلاً ”العواصم من القواصم“ میں صحیح روایات کا اہتمام کیا گیا ہے اور بعض روایات کا ضعف بیان کیا گیا ہے، باقی رہی کوئی ایسی کتاب جو مستقل طور پر ان مسائل کی تحقیق پر مشتمل ہو؟ موجود نہیں۔ لیکن آپ کے پاس امام ابن کثیر اور امام ذہبی کی

① صحیح بخاری۔ کتاب المغازی۔ باب غزوة خیبر: ۴۲۴۰، ۴۲۴۱

تو تاریخ موجود ہیں اور وہ بسا اوقات بعض روایات پر کلام کرتے ہیں اور ان کا ضعف بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں بلکہ کبھی کبھی، جبکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ہی کسی روایت پر کلام کیا ہو کیونکہ وہ تو صرف ناقل اور جامع ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ان کی روایات کی تحقیق یا تخریج کی ہو، البتہ ایک عمدہ کتاب منظر عام پر آئی ہے اور وہ ہے یحییٰ الیحبی کی کتاب مرویات ابی مخنف، انہوں نے تاریخ طبری سے ابو مخنف کی روایات چن کر ان کی تحقیق ہے اس کے علاوہ ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے اور وہ ہے محمد معزون کی کتاب ”مواقف الصحابہ من الفتن“

مذکورہ مؤلفین نے یہ کتابیں امام طبری کی تاریخ سے تیار کی ہیں۔ ان مؤلفین کا طریق کار یہ ہے کہ یہ تاریخ طبری سے مطلوبہ موضوعات کا انتخاب کر کے صرف انہیں پر تحقیق و تعلیق کرتے ہیں، لیکن مکمل تاریخ طبری پر تحقیقی کام کا مجھے علم نہیں۔ واللہ اعلم

البتہ اس موضوع پر چند بہترین کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں اور وہ ہیں۔ یحییٰ اللججی کی کتاب الخلافة الراشدة اور امام ابن تیمیہ کی منهاج السنة النبویة اور سالم بھنساوی کی الخلافة والخلفاء الراشدون بین الشوری والدیموقراطیة .

۴ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم یوسف کی صواحب ہو؟

جواب: جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل اور غمگین آدمی ہیں، جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ لوگوں کو ان کی قرأت سنائی نہیں دیتی، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یوسف کی صواحب ہو ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ تھی

کہ تم بھی اس طرح کرنا چاہتی ہو جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کے بہانے مصر کی عورتوں سے کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ﴾ [یوسف: ۳۱]

”جب اس نے ان کے فریب کو سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے گاؤ تکیے لگا دیئے اور ان میں سے ہر ایک کو چاقو دے دیئے۔“

بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان عورتوں کا اکرام و احترام کر رہی ہے کیونکہ اس نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا اور پھل اور چاقو بھی فراہم کر دیئے لیکن وہ چاہتی کیا تھی؟ وہ انہیں یوسف دکھانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ:

﴿ أَخْرِجْ عَلَيْنَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾

”(یوسف!) ان کی طرف آ، جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھیں اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ! یہ بشر نہیں ہے۔“

چنانچہ حضرت رسول کریم ﷺ حضرت عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ تو کہتی ہے کہ وہ غمگین اور نرم دل ہیں، جبکہ درحقیقت تو اسے غمگین اور نرم دل نہیں کہہ رہی بلکہ اس طرح کہنے سے تیری مراد کچھ اور ہے جو تیرے دل میں ہے۔ اور بعد میں حضرت عائشہ نے اس کی صراحت بھی کر دی تھی کہ میں ڈر گئی کہ لوگ میرے باپ سے بدشگونی لے کر گناہ میں مبتلا ہوں گے۔^① اور حضرت نبی کریم ﷺ اسے پہلے ہی بھانپ گئے اور سمجھ گئے کہ ابو بکر کو عائشہ کے غمگین اور نرم دل کہنے سے مراد کچھ اور ہے۔ یہ ہے مفہوم حضرت عائشہ کو ”انکن صویحبات یوسف“ کہنے کا۔

① صحیح بخاری - کتاب المغازی - باب مرض النبی ووفاته، رقم: ۴۴۵، مسلم کتاب الصلوٰۃ، رقم: ۹۳

۵ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ اور انہیں سورۃ توبہ کی آیات دیں، پھر آپ نے انہیں ہٹا کر حضرت علیؓ کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو امیر حج مقرر ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ۹ھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر حج مقرر ہوئے تھے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ان کے پیچھے آن پہنچے تو آپ نے ان سے کہا:

آپ (میرے) تابع بن کر آئے ہیں یا متبوع؟

حضرت علیؓ نے فرمایا: آپ کا تابع بن کر آیا ہوں۔

اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان سے معاہدہ ختم کر دیں اور ان سے لاتعلقی کا اعلان کر دیں۔

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ . وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

”کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول لاتعلق ہیں ان مشرکین سے، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا چنانچہ (اے مشرک!) تم چار ماہ تک زمین پر چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر والے دن سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے لاتعلق ہیں، سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم پھر جاؤ تو جان لو

کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہر انہیں سکتے اور کافروں کو عذاب الیم کی بشارت سنا دو۔“ اور عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے معاہدہ کر لیتا اور پھر اسے ختم کرنا چاہتا، تو وہ بذات خود اسے ختم کرنے کا اعلان کرتا، یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اسے ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لیے کہتا۔

اس بنا پر حضرت نبی کریم ﷺ نے (اپنے چچا زاد برادر) حضرت علی بن ابی طالب کو ان سے معاہدہ ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے تابع تھے اور حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حج کروایا اور عرفہ میں انہیں خطبہ بھی دیا۔^①

❖ کیا اصحاب رسول اور اہل بیت کے درمیان مصاہرات (رشتہ داریاں) تھیں؟ اور کیا ان کے درمیان عداوتیں بھی تھیں؟

جواب: آل بیت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بہت سی رشتہ داریاں تھیں۔ چنانچہ حضرت رسول کریم ﷺ نے اپنی دو بیٹیوں ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان اموی سے کیا۔

اور ایک بیٹی حضرت زینب، حضرت العاص بن ربیع اموی سے بیاہ دی تھی۔ اور حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم، حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے ساتھ بیاہ دی تھی۔^② اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ اسماء بنت عمیس سے شادی کر لی تھی۔

اور آپ نے حضرت امامہ بنت العاص امویہ سے نکاح کر لیا تھا۔

① دیکھئے صحیح بخاری - کتاب التفسیر - باب تفسیر سورہ براءۃ - اور حافظ ابن حجر کی کلام بھی دیکھئے، انہوں نے بعض طرق ذکر کر کے ان پر کلام کیا ہے۔

② تاریخ الاسلام، عہد الخلفاء الراشدین ص: ۲۷۵/۴، الکافی ۳۴۶/۵

اور محمد بن ابوبکر صدیق، حضرت علی کے ربیب تھے۔^①
 اور محمد بن علی بن حسین نے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ سے
 شادی کی تھی، اسی بنا پر حضرت جعفر الصادق بن محمد ہاشمی کہا کرتے تھے، کہ مجھے ابوبکر
 صدیق نے دو (۲) مرتبہ جنا ہے۔^② کیونکہ ان کی ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن
 ابوبکر صدیق تھیں اور ان کی نانی حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق تھیں۔
 اور حضرت ابان بن عثمان بن عفان اموی نے حضرت ام کلثوم بنت عبد اللہ
 بن جعفر بن ابی طالب ہاشمیہ سے شادی کی تھی۔^③
 اور حضرت سکینہ بنت حسین ہاشمیہ سے حضرت مصعب بن زبیر بن عوام نے
 نکاح کیا تھا۔^④

علاوہ ازیں ان کی آپس میں بہت سی رشتہ داریاں اور گہرے تعلقات تھے
 اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت
 ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ناموں پر رکھے۔^⑤
 اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا۔^⑥
 اور حضرت علی بن حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔^⑦
 اور حضرت موسیٰ بن جعفر الصادق ہاشمی نے اپنے بیٹے کا نام عمر اور بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔^⑧

① ربیب سے مراد بیوی کے سابقہ خاوند کا بیٹا ہے۔

② سیر اعلام النبلاء: ۶/۲۵۵

③ الشیعة و اهل البيت، ص: ۱۴۱

④ الطبقات الكبرى: ۵/۱۸۳

⑤ معرفة الصحابة: ۱/۳۰۹، كشف الغمة في معرفة الائمة: ۲/۶۷

⑥ كشف الغمة: ۲/۱۹۸، سیر اعلام النبلاء: ۳/۲۷۹

⑦ كشف الغمة: ۲/۳۰۲

⑧ كشف الغمة: ۳/۳۱۲۹

اس موضوع پر علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ کی کتاب الشیعہ و اہل البیت
لا جواب تصنیف ہے ^① انہوں نے اس میں بنو ہاشم اور صحابہ کرام اور دیگر اہل السنۃ
کی آپس میں رشتہ داریاں بیان کی ہیں۔

❏ کیا یزید بن معاویہ صحابی ہے؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے
اسے اپنا متبئی بنایا تھا؟

جواب: یزید بن معاویہ صحابی نہیں تھا، کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی
خلافت میں پیدا ہوا تھا البتہ اس کا چچا یزید بن ابوسفیان اموی حضرت رسول
کریم ﷺ کا صحابی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا اور شام کا گورنر تھا اور
جنگ یرموک میں آپ اور عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ اور شرحبیل بن حسنہ رضوان
اللہ علیہم اجمعین اسلامی افواج کے سپہ سالار تھے۔

اور یزید بن معاویہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان کا صلیبی بیٹا تھا اور اس میں
عدنان اور قحطان اکٹھے ہو گئے کیونکہ اس کے نہال اصل عرب قحطان سے تھے، اس
کی ماں میسون الکلبیہ تھی

❏ کیا یہ بات درست ہے کہ یزید بن معاویہ نے مدینہ کو مباح قرار دیا تھا؟

جواب: کتب تاریخ میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور تقریباً یہ مسلمہ بات ہے کہ مدینہ
منورہ تین دن تک مباح قرار دیا گیا تھا، لیکن اس میں مکذوبہ داستانیں شامل کر دی
گئی ہیں، کہ ستر ہزار دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئی اور بعض روایات میں تیس
ہزار کنواریوں کا ذکر ہے اور یہ سب کچھ افتراء اور جھوٹ ہے۔

اس حادثے کا سبب یہ تھا کہ مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن
مطیع کی قیادت میں یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ ڈالی اور اس سے بغاوت کا اعلان

① الشیعہ و اہل البیت ص: ۱۴۰-۱۴۴

کر دیا اور مدینہ کے گورنر کو شہر بدر کر دیا، بلکہ مدینہ میں امویوں کا محاصرہ کر لیا اور انہیں وہاں سے نکال باہر کیا، اس وجہ سے یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جس نے مدینہ والوں کا محاصرہ کر کے ان سے لڑائی کی اور انہیں قتل کیا اور تین دن تک مدینہ میں قتل و غارت اور مال چھیننے اور کھانا لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ اور تین دن کے بعد یزید نے اپنے کسی ہم نشین سے مشورہ کیا کہ اس صورت حال کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ تو اس نے مشورہ دیا کہ ان کی طرف کھانا پینا اور لباس وغیرہ بھیج دو۔ چنانچہ اس نے یہ چیزیں بھجوا دیں اور حالات پرسکون ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس صورت حال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مدینہ والوں سے لڑنا شاید کسی حد تک درست تھا، کیونکہ وہ امیر کی اطاعت سے نکل چکے تھے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اہل شام سے جنگ کی تھی کیونکہ وہ ان کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور اہل مدینہ کے ساتھ لڑنا شامیوں کے ساتھ لڑنے کی طرح ہی تھا۔ کیونکہ انہوں نے تو بیعت بھی کی ہوئی تھی اور بعد میں اپنی بیعت توڑ ڈالی تھی لہذا اہل السنہ والجماعۃ اس صورت حال میں لڑائی پر انکار نہیں بلکہ مدینہ کو مباح قرار دینے کی وجہ سے یزید پر تنقید کرتے ہیں۔

۹ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے؟

جواب: اس کا اصل علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ اسے کوفہ میں دفن کیا گیا، لیکن کون سے مقام میں دفن ہے اس کا کچھ علم نہیں مگر اسے شام یا بصرہ نہیں لے جایا گیا۔

۱۵ ناصبی کون ہیں؟ کیا وہ اہل السنہ سے ہیں؟ اور ان کے متعلق کیا حکم ہے؟

جواب: ناصبیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آل بیت نبی ﷺ سے عداوت رکھتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کا اہل السنہ والجماعۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعۃ، شیعوں

اور ناصبوں کے درمیان ہیں۔ اس لیے کہ شیعہ حضرات تو اہل بیت کی تعظیم کرتے کرتے انہیں انبیاء کرام سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور دوسری طرف ناصبی حضرات ان سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ اہل السنہ درمیانی راہ پر ہیں۔ یعنی وہ اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں ان کے اسی مرتبے پر رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور اہل السنہ کے ہاں ناصبی اہل بدعت سے ہیں۔

۱۱ جب ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسینؑ اور عبداللہ بن زبیرؓ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو بیعت مکمل کیسے ہوگئی؟

جواب: حضرت حسین بن علی المرتضیٰؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اہل حل و عقد کے امام تھے، لیکن صرف یہ دونوں ہی نہ تھے بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی تھے اور بیعت کے لیے اجماع ضروری نہیں اور نہ ہی بیعت میں اجماع کی شرط لگائی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت محمد بن علی ابن الحنفیہ وغیرہم نے اس کی بیعت کی تھی کیا یہ کافی نہیں ہیں؟ ان کے علاوہ اہل مدینہ، اہل شام، اہل کوفہ، اہل مکہ نے بھی اس کی بیعت کی تھی کیا یہ کافی نہ تھے؟ قطع نظر اس کے کہ حضرت حسینؑ اور عبداللہ بن زبیرؓ یزید کی بہ نسبت خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور وہ دونوں اس سے افضل تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علیؑ اور یزید بن معاویہ کے درمیان برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (کیونکہ وہ دونوں صحابی تھے اور حضرت رسول کریم ﷺ کے انتہائی قریبی تھے جبکہ یزید ام المومنین ام حبیبہ کا بھتیجا تھا اور اموی قریشی تھا)

۱۲ کیا مسجد حرام میں قتل منع نہیں ہے؟ تو پھر یزید نے مکہ میں ابن زبیرؓ کے ساتھ اور

مدینہ میں ابن مطیع کے ساتھ کس بنا پر لڑائی کرنا جائز سمجھا؟

جواب: بلا وجہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے مکہ چلا جائے تو وہاں اسے قتل کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ مکہ یا مدینہ

میں داخل بھی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں شہروں میں چند اسباب کی بنا پر قتال جائز ہے۔ مثلاً حاکم کے خلاف بغاوت کرنا اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں کسی کا پہل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [بقرہ: ۱۹۱]

”کہ ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی نہ کریں،

اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں سے بدلہ اسی طرح ہی لیا جائے گا۔“

مقصد یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں لڑائی کرنا حرام ہے لیکن جب اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۳ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوفیوں سے نہیں لڑ سکتے تو واپس کیوں نہ لوٹے؟

جواب: جی ہاں! ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن فرزند ان مسلم بن عقیل نے کہا کہ جب تک ہم اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لیں، واپس نہ لوٹیں گے اور جب انہوں نے انتقام لینے کی ٹھان لی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے اتفاق کر لیا اور واپس نہ لوٹے، مختصراً یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے اتفاق کر لیا اور آپ بلاشبہ مظلوم شہید ہوئے۔ اور آپؐ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

۱۴ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ فتنہ مشرق سے اٹھے گا؟

جواب: جی ہاں! حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنہ ادھر سے اٹھے گا، فتنہ ادھر سے اٹھے گا، فتنہ ادھر سے اٹھے گا اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ [صلی اللہ علیہ وسلم]^①

① صحیح بخاری - کتاب بدء الخلق - باب صفة ابليس و جنود، رقم: ۳۲۷۹

اگر ہم وہاں کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو روزِ روشن کی طرح اس بات کی تصدیق نظر آئے گی۔

چنانچہ خارجی مشرق سے نمودار ہوئے یعنی عراق سے اور شیعہ عراق سے نکلے طرح اسی دجال کا فتنہ بھی مشرق سے برپا ہوگا۔ اور یا جوج ماجوج بھی مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خاں کی قوم تاتار بھی مشرق کی طرف سے نکلی۔

سبحان اللہ! آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق فتنے، مشرق کی طرف سے اٹھے اور عراق، ایران، روس، چین، افغانستان، ازبکستان وغیرہ مدینہ کے مشرق میں واقع ہیں۔

۱۵ حضرت نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ نجد، شیطان کے سینگوں

میں سے ایک سینگ ہے؟

جواب: حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت فرما، اے اللہ! ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما، تو حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا: ”ہمارے نجد میں بھی، آپ نے فرمایا: اے اللہ! ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت فرما۔ اے اللہ! ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما۔ تو انہوں نے پھر کہا: ہمارے نجد میں بھی، مگر آپ نے فرمایا: اے اللہ! ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت فرما، اے اللہ! ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما۔ تو انہوں نے مکرر کہا اور ہمارے نجد میں بھی، تب آپ ﷺ نے فرمایا: نجد، شیطان کے سینگوں میں سے ایک سینگ ہے۔“^①

نجد کے مفہوم میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ آیا نجد سے مراد وہی نجد ہے جو آج کل نجد کے نام سے مشہور ہے یا کوئی اور جگہ مراد ہے۔ لفظ نجد کے متعلق تمام روایات پر غور کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد عراق ہے، کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ہراونچی جگہ کو نجد کہا جاتا ہے (اور نشیبی جگہ کو

① صحیح بخاری - کتاب الفتن ، باب قول النبی الفتنۃ من قبل المشرق ، رقم : ۷۰۹۴

تہامہ) اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا اور فرمایا نجد، شیطان کے سینگوں میں سے ایک سینگ ہے۔ جبکہ مدینہ سے مشرق کی جانب بلند جگہ (نجد) عراق ہی ہے (بلکہ حافظ ابو الفضل ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت وہ روایت بھی بیان کی ہے، جس میں صراحت کے ساتھ وَلِعَرَّاقِنَا كَالْفَرْعِ مَوْجُودٌ ہے)

مقصود یہ ہے کہ نجد سے مراد عراق ہے اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر فتنے بھی یہیں سے اٹھے۔^② واللہ اعلم

۱۶ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو الزہراء کا لقب دینا جائز ہے؟ اور کیا حضرت نبی کریم کے زمانے میں انہیں زہراء کہا جاتا تھا اور کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کَرَّمَ اللہُ وَجْهَهُ کہنا جائز ہے؟

جواب: حضرت نبی کریم ﷺ سے تو یہ لقب ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سیدہ کے زمانے میں اس کا وجود تھا، لہذا یہ جدید لقب ہے جبکہ صحیح بخاری کی روایت سے حضرت نبی کریم ﷺ کا آپ کو سیدہ نساء المؤمنین اور سیدہ نساء اہل الجنتہ کا لقب دینا ہی کافی ہے۔ اور اس لقب نے آپ کو زینت نہیں بخشی بلکہ آپ نے اس لقب کو حسن و جمال عطا کیا ہے۔ رضی اللہ عنہا وارضیٰ لہا اور یہ اگرچہ لقب جدید ہے مگر اچھا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو عزت بخشی لیکن اس دعائیہ جملے کو آپ سے خاص کر دینے میں کلام ہے۔

چنانچہ ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ۔

كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَ عَلِيٍّ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَ أَبِي بَكْرٍ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَ عُمَرَ ،
كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَ عُثْمَانَ وَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْوهَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۔

① فتح الباری - کتاب المناقب - باب من علامات النبوة: ۳۶۲۴، مسلم (بمعناها) کتاب

فضائل الصحابة، رقم: ۹۹۹۸۰۹۷

② مثلاً جنگ جمل بھی وہیں برپا ہوئی، حضرت علی اور حضرت حسینؑ کو وہاں شہید کیا گیا اور موجودہ دور میں شاہ فیصل قریشی ہاشمی کو سارے خاندان سمیت عراق میں قتل کر دیا گیا۔ اور صدام حسین نے زہریلی گیس چھوڑ کر ایک ہی دن میں ستمبر ۲۰۰۳ء کو حضرت علیؑ کی طرف منسوب مقبرے پر بم مار کر بہت سے لوگوں تقریباً ۸۸ ہزار افراد ہلاک کر دیا۔

ان سب کے چہروں کو اللہ نے دنیا و آخرت میں عزت بخشی ہے۔
۱۷۴ حضرت نبی کریم ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان تفریق کس طرح کر لیتے تھے اور دوسری بیویوں کی بہ نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کیسے کرتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے؟

جواب: محبت کی حد تک یہ بات درست ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ۱۲۹]

”اور تم بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، اگرچہ تم اس بات کی حرص رکھو بھی، لہذا تم مکمل طور پر کسی ایک کی جانب نہ جھکو، کہ اسے (دوسری کو) معلق چھوڑ دو اور، اگر تم اصلاح کرو اور ڈرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ بعض بیویوں سے قلبی لگاؤ کو معاف کر دے گا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص نے حضرت رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ آپ کو سب لوگوں سے بڑھ کر پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”عائشہ۔“^①

البتہ شوہر سے بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں عدل مطلوب ہے، محبت میں نہیں، کیونکہ اس طرح کی قلبی محبت پر انسان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔

۱۷۵ کیا نبی کریم صلوات اللہ وسلامہ علیہ تمام منافقین کو جانتے نہ تھے؟

جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فقط چودہ یا پندرہ منافقین کو جانتے تھے

① صحیح بخاری - کتاب فضائل الصحابة - باب قول النبی لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا - رقم: ۳۶۶۲

سب کو نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد: ۳۰]

”کہ تو انہیں گفتگو سے پہچان لے گا۔“

اور یہ چند منافقین تھے، سارے نہ تھے۔ لہذا آپ بعض کو جانتے تھے اور اس کی واضح ترین دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

﴿ وَ مِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ۱۰۱]

”اور تمہارے اردگرد والے اعرابوں میں منافق ہیں اور مدینہ والوں میں بھی کچھ

ایسے ہی ہیں، جو نفاق پراڑے بیٹھے ہیں، تو انہیں نہیں جانتا، ہم انہیں جانتے ہیں۔“

میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ”الشيعة هم اهل السنة“ ہے اس

کے مؤلف نے اس میں بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے عشرہ مبشرہ اور امہات المؤمنین

اور اہل بیت سے بھی زیادہ روایات بیان کی ہیں، بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان

کی روایات، ابو ہریرہ کی روایات کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتیں، حالانکہ

ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب

کا مؤلف تیجانی بہت جھوٹ بیان کرنے والا انسان ہے، لہذا اس کی نقل پر اعتماد

نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ ان سب کی روایات ابو ہریرہ کی روایات کے

دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتیں، ایک بھیانک اور خطرناک سینہ زوری ہے۔

دیکھئے ابو ہریرہ کی تمام روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو ستر، یا اسی ہے، جبکہ

عشرہ مبشرہ اور صحابیات اور آل بیت کی روایات کی تعداد حسب ذیل ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کی (۱۴۲) حضرت عمرؓ کی (۵۳۷) حضرت عثمانؓ کی (۱۴۶)

① جوامع السيرة لابن حزم، ص: ۲۷۵ و ما بعدها

حضرت علیؑ کی (۵۳۶)، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی (۶۵) اور حضرت زبیرؓ کی (۳۸) حضرت طلحہؓ کی (۳۸)، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی (۲۷۱)، حضرت ابو عبیدہؓ کی (۱۴)، حضرت سعید بن زیدؓ کی (۴۸)، حضرت ابن عباسؓ کی (۱۶۶۰)، حضرت عباسؓ کی (۳۵)، حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی (۲۵)، حضرت فضل بن عباسؓ کی (۲۴)، حضرت حسن بن علیؓ کی (۱۳)، حضرت حسینؓ کی (۸)، حضرت عقیلؓ بن ابی طالبؓ کی (۶) جبکہ حضرت عائشہؓ کی (۲۲۱۰)، حضرت ام سلمہؓ کی (۳۷۸)، حضرت ام حبیبہؓ کی (۶۵) اور حضرت حفصہؓ کی (۶۰)، حضرت زینبؓ بنت جحشؓ کی (۱۱) اور حضرت صفیہؓ کی (۱۰)، حضرت جویریہؓ کی (۷) اور حضرت سودہؓ کی (۵) روایات ہیں۔^①

لہذا سادہ سے حسابی عمل سے ان سب کی روایات (۶۳۵۲) ہیں اور ان کی روایات حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں اور پھر ابو ہریرہ اکیلے ہی کثرت حدیث میں مشہور نہیں ہے بلکہ بہت سے صغار صحابہ بھی کثرت روایت میں مشہور ہیں، جیسے ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، ابن عمروؓ، ابو سعید خدریؓ، جابرؓ، عائشہؓ، انسؓ جیسے صغار صحابہ جو تعلیم و تدریس کے لیے فارغ تھے۔

البتہ ابو ہریرہ کی روایات چند اسباب کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ ان کا کثرت سے میل ملاپ رکھنا:

چنانچہ آپؐ چار سال تک حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہے جیسے کہ آپؐ خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت سی احادیث بیان کرتا ہے، اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں حدیث بیان نہ کرتا پھر آپؐ نے سورہ بقرہ کی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ سے لے کر ﴿الرَّحِيمِ﴾ تک

① صحیح بخاری - کتاب العلم - باب حفظ العلم، رقم: ۱۱۸، صحیح مسلم - کتاب

دونوں آیات پڑھیں اور فرمایا: ہمارے مہاجر بھائیوں کو منڈیوں میں تجارتی کاروبار کی وجہ سے، اور ہمارے انصار بھائیوں کو باغات کی دیکھ بھال کی وجہ سے دربار رسالت میں میری طرح ہمہ وقت حاضری نصیب نہ ہوتی تھی اور ابو ہریرہ فقط قوت لایموت، پر گذرا کر کے بارگاہ رسالت میں اتنا حاضر رہتا جتنا دوسرے نہ رہتے تھے اور اتنا کچھ حفظ کر لیتا جتنا دوسرے حفظ نہ کرتے تھے۔^①

۲۔ ان کے حافظہ کے لیے حضرت نبی کریم ﷺ کی خصوصی دعا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول! میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔
آپ نے فرمایا: اپنی چادر پھیلاؤ، چنانچہ میں نے چادر پھیلا دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو بھرا (اور اس میں انڈیل کر) فرمایا: اسے اپنے سینے سے چمٹا لو، چنانچہ میں نے اسے سینے سے چمٹایا تو اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہ بھولی۔^②

۳۔ ابو ہریرہ کا تعلیم کے لیے وقف رہنا۔

۴۔ ان کے شاگردوں اور ان سے نقل کرنے والوں کی کثرت۔

چنانچہ آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً آٹھ سو تھی۔

۵۔ آپ کی تاخیر وفات:

چنانچہ آپ ۵۷ھ یا ۵۸ھ میں فوت ہوئے۔

علاوہ ازیں آپ سے بیان کردہ روایت کی تقسیم حسب ذیل ہے۔

① کچھ روایات ضعیف الاسناد ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہیں۔

فضائل الصحابة، رقم: ۱۵۹

② صحیح بخاری - کتاب العلم - باب حفظ العلم، رقم: ۱۱۹، صحیح مسلم - کتاب فضائل

الصحابة، رقم: ۱۶۰

- ② کچھ روایات مکرر ہیں۔
- ③ کچھ روایات کی ایک سے زائد اسناد سے ہیں۔
- ④ وہ روایات جو آپ نے عشرہ مبشرہ جیسے اکابر صحابہ اور امہات المؤمنین وغیرہم سے روایت کی ہیں۔
- ⑤ کچھ روایات آپ پر موقوف ہیں جو وہ خود آپ کا کلام ہیں۔
- امام بخاری اور مسلم نے تین سو چھبیس (۳۲۶) احادیث کو متفق علیہ بیان کیا ہے جبکہ اکیلے امام بخاری تراویس (۹۳) احادیث روایت کرنے میں منفرد ہیں اور امام مسلم (۹۸) اٹھانوے احادیث میں منفرد ہیں۔
- پھر یہ احادیث حضرت ابو ہریرہ نے اکیلے ہی روایت نہیں کرتے بلکہ بہت سی احادیث میں روایت کرنے میں دوسرے صحابہ کرام بھی شریک ہیں۔
- باقی رہا شیعہ کے حضرت ابو ہریرہ پر کثرت روایت کے اعتراض کا الزامی جواب تو سنیے! ان کے جابر جعفی نے اکیلے امام محمد باقر سے ستر ہزار احادیث روایت کی ہیں۔ اور باقی ائمہ سے ایک لاکھ چالیس ہزار احادیث بیان کرتا ہے۔^①
- اور ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق سے تیس ہزار احادیث روایت کی ہیں۔^②
- اور محمد بن مسلم نے امام باقر سے تیس ہزار احادیث بیان کی ہیں۔ اور امام جعفر صادق سے سولہ ہزار احادیث روایت کی ہیں۔^③

حضرت ابو ہریرہؓ کا بے مثل حافظہ:

حضرت ابو ہریرہؓ کے وسعت حافظہ پر امام حاکم کا بیان کردہ ایک واقعہ بھی شاہد عادل ہے جو انہوں نے مستدرک میں بیان کیا ہے

① خاتمة و سائل الشيعة ص: ۱۵۱

② رجال النجاشی، ص: ۹

③ مشیخة الصدوق، ص: ۶

کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بلایا اور ان سے سوالات پوچھے اور ایک آدمی کو ان کے جوابات لکھنے کے لیے ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں سے وہ ابو ہریرہ کو نظر نہ آسکے اور نہ ہی ابو ہریرہ کو اس کا علم ہو سکے۔

چنانچہ جب ایک سال گذر گیا تو اس آدمی کو اسی جگہ بٹھا کر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور ان سے گذشتہ سال والے سوالات کے جوابات پوچھے، تو آپ نے من و عن اسی طرح بیان کر دیئے، نہ ان میں کچھ کمی کی، نہ اضافہ کیا اور نہ ہی ان میں تقدیم و تاخیر کی۔^①

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل علم کی شہادتیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ابو ہریرہ احفظ من روى الحديث في دهره“^②

”حضرت ابو ہریرہ اپنے زمانے میں احادیث روایت کرنے والوں سے بڑھ کر حافظ تھے۔“

ابوصالح ذکوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”كان ابو هريره احفظ اصحاب محمد“^③

”حضرت ابو ہریرہ اصحاب رسول میں سب سے بڑھ کر حافظ تھے۔“

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”امام فقیہ مجتہد حافظ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الحُفَاطِ الْأَنْبَاءِ“^④

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، حافظ ہیں، حضرت نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور مضبوط حفاظ کے سردار ہیں۔“

① سیر اعلام النبلاء ۲/۵۹۸

② سیر اعلام النبلاء ۲/۵۹۹

③ اصابة ۴/۲۰۳

④ سیر اعلام النبلاء ۲/۵۷۸

۳۰ کیا حضرت عمرؓ نے حضرت فاطمہؓ کو اس قدر مارا کہ ان کا بچہ محسن ان کے پیٹ میں ضائع ہو گیا؟

جواب: یہ بات شیعہ کے بے بنیاد جھوٹوں میں سے ہے، وہ اس افترا کے ذریعے حضرت عمرؓ پر زبان طعن دراز کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ وہ درحقیقت حضرت علیؓ پر، حضرت عمرؓ کے سامنے خاموش رہنے اور بزدلی دکھانے کا بہتان لگا رہے ہیں حالانکہ آپ رسول کریم ﷺ کے دلیر ترین صحابہ میں سے تھے، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ آپ نے اپنی لخت جگر ام کلثومؓ حضرت عمرؓ کے ساتھ بیاہ دی تھی۔^①

۳۱ کیا یہ بات درست ہے کہ آیت مباہلہ

﴿ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾

میں حضرت علیؓ، حضرت نبی کریم ﷺ کا متبادل بن گئے تھے؟ اگر آپ ان کی (متبادل) ذات تھے تو وہ دوسروں سے خلافت کے زیادہ حق دار ہوئے؟

جواب: اس استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔

① حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرات حسینؓ و علیؓ کو منتخب کیا، کیونکہ یہ تمام لوگوں کو نسبت آپ کے زیادہ قریبی تھے کیونکہ ان کے سوا آپ کی تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور فقط یہی زندہ تھے، لہذا ان کو مباہلہ کے وقت بلا یا گیا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ مباہلہ قریبی رشتہ داروں میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر دور کے رشتہ داروں میں ہو تو مقصود حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ وہ افضل بھی ہوں، کیونکہ انسانی جان اپنے قرابت داروں پر جتنا ترس کھاتی ہے، اتنا دوسروں پر نہیں ہشی کہ

① تاریخ الاسلام عہد خلفاء الراشدین: ۲۷۵، الکافی: ۳۴۶/۵

بسا اوقات انسان اپنے بیٹے کی زندگی کی خاطر خود ہلاک ہو جانا پسند کر لیتا ہے۔^①
 اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسینؑ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آپؑ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو نہیں لائے تھے، حالانکہ آپ کے چچا حضرت عباس اور آپ کے چچا زاد عقیل بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہم بھی موجود تھے، لیکن اس سے امامت بہر حال ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس آیت میں فاطمہ بھی تو داخل ہیں لیکن وہ اہل امامت میں نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے قول (وَ أَنْفُسَنَا) کو حضرت علیؑ پر محمول کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ حضرت علیؑ کسی صورت میں بھی حضرت نبی کریم ﷺ کے مساوی نہیں۔
 حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت کے لفظ ﴿وَ اَبْنَاءَنَا﴾ میں داخل ہیں کیونکہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ان کی پرورش کی اور ان کا اپنی بیٹی سے نکاح کیا، لہذا وہ آپ کے بیٹے کی طرح تھے۔

(وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ) سے مراد یہ ہے کہ میں اور تم کیونکہ آدمی اپنے دل کو پکارتا ہے اور دل اسے پکارتا ہے جس طرح فرمان الہی ہے: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ کہ اس کے دل نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا۔
 اور جیسے کہ ہم عموماً کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنے دل سے مشورہ کیا اور میں نے اپنے دل کو بلایا۔^② اور اگر (وَ أَنْفُسَنَا) سے حضرت رسول کریم ﷺ کی مراد حضرت علیؑ ہوتے تو یہ بات لازمی تھی کہ دوسری طرف مقابلے میں بلانے والا کوئی ایسا آدمی ہوتا جو آپ کے ہم پلہ ہوتا۔^③

① منهاج السنة النبوية: ۱۲۶/۷، صفوة الاثار والمفاهيم: ۱۴۵/۴

② مختصر تحفه اثنا عشرية، ص: ۱۵۶

③ روح المعاني: ۳۰۲/۳

خاتمة الکلام

یہ کتاب دراصل ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اصحاب رسول پر زبان طعن دراز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جن ہستیوں پر تم زبان طعن دراز کرتے ہو، انہوں نے اپنے کردار سے تاریخ کو معطر کر دیا اور اپنی گفتار سے اسے نکھار دیا اور اپنے ایسے اعمال سے اسے خوبصورت بنایا کہ اگر تمہیں عمر نوحؑ بھی مل جائے تو ان کے کارناموں کے عشرِ عشیر کو بھی نہ پہنچ سکو گے۔ یہ قرآن ان کی شہادت دیتا ہے اور سنت مصطفیٰ ان کی صفائی دیتی ہے اور انہیں عادل قرار دیتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی اور وہ قرآن کے راوی اور اس کے حاملین اور مفسرین ہیں۔ انہوں نے سنت مصطفیٰ کو پھیلایا اور اس کی تبلیغ کی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اور ان کی خاطر ملکوں کو فتح کیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنے اہل و عیال مال و دولت اور وطن کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصرت کی۔ انہوں نے مرتدین سے لڑائیاں لڑیں اور انہیں مغلوب کر کے سیدھی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مصر، عراق، ایران، بھستان اور خراسان کو فتح کیا یہاں تک کہ وہ ہندوستان اور چین تک جا پہنچے، یہ ہے ان کی سنہری تاریخ!

اے زبان طعن دراز کرنے والو! تم اپنے رب کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھ کر بتاؤ کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا؟ اور بتاؤ تمہاری تاریخ کیا ہے؟

أَقْلُوا عَلَيْهِمْ لَا أَبَا لَا بَيْكُم مِّنَ اللُّومِ

مِنَ اللُّومِ أَوْ سُدُّوا الْمَكَانَ الَّذِي سَدُّوا ①

”کہ تمہارے باپ کا باپ نہ ہو تم ان کی ملامت میں نرم روی اختیار کرو! یا اس خلا کو پُر کرو جیسے انہوں نے پُر کیا ہے۔“

اگر دین بھی تمہیں ان کی کردار کشی سے باز نہیں رکھ سکتا تو ظالمو! ذرہ بھر حیا ہی کر لو!



① یہ شعر، حلیہ کے اس قصیدے کا ہے جو اس نے آل شام کی مدح میں کہا تھا، لیکن مؤلف کی ذہانت پر قربان جائیے، اس نے کس مہارت کے ساتھ اسے صحابہ کرام کی شان پر، دانت پینے والوں پر، فٹ کیا ہے! اس قصیدے کے دیگر چار اشعار تو حقیقتاً صحابہ کرام کے لیے ہی موزوں ہیں اور وہ یہ ہیں:

أُولَئِكَ قَوْمٌ إِنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا الْبِنَا

وَ إِنْ عَاهَدُوا أَوْفُوا وَ إِنْ عَقَدُوا شَدُّوا

يُسُوسُونَ أَحْلَامًا بَعِيدًا أَنَاتُهَا

وَ إِنْ غَضِبُوا جَاءَ الْحَفِيفَةُ وَالْجِدُّ

وَ إِنْ كَانَتِ النُّعْمَى عَلَيْهِمْ جَزَوْا بِهَا

وَ إِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَ لَا كَدُّوا

مُطَاعِينَ فِي الْهَيْجَا مَكَاشِيفُ الدُّجَى

بَنَى لَهُمْ آبَاءُهُمْ وَ بَنَى الْجِدُّ

تَمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ

انتهى رمضان المبارك ١٤١٨ هـ هجرت نبوى صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً
ابو محمد عثمان بن محمد تميمى آل خميس الناصرى عفا الله عنه وعن والديه
و تم ترجمة الكتاب ٢٦ ذى قعدة الساعة الحادى عشر ونصف ليلاً ٢٠٠٢ء
عبد الجبار سلفى عفا الله عنه وعن والديه

مراجع ومصادر

- ١- اسد الغابة فى معرفة الصحابة. ابن الأثير. مكتبة الشعب. القاهرة
- ٢- إعراب القرآن و صرفه و بيانہ - محمود صافى - دار الرشيد- بيروت- ط١-١٤١١
- ٣- الإصابة فى تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلانى- دار الكتاب العربى- بيروت
- ٤- الإستيعاب فى اسماء الاصحاب - ابن عبد البر- دار الكتاب العربى- بيروت
- ٥- البداية والنهاية- ابن كثير - دارالكتب العلمية. بيروت- ط١-١٤٠٣.
- ٦- التاريخ الإسلامى- محمود شاكر- المكتب الإسلامى - بيروت- ط٤-١٤٠٥
- ٧- التاريخ الكبير- البخارى- توزيع دار الباز- مكة المكرمة
- ٨- الجرح ولاتعديل- ابن ابى حاتم- دار إحياء التراث- بيروت- ط٤-١٤٠٥
- ٩- الخلافة الراشدة والدولة الاموية من فتح البارى- يحيى يحيى- دار الهجرة- الرياض- ط١-١٤١٧
- ١٠- السنة لابن ابى عاصم- ابن ابى عاصم- المكتب الإسلامى- بيروت- ط٢-١٤٠٥
- ١١- السنة للخلال- ابو بكر الخلال- تحقيق د- عطية الزهرانى- دار الراية- الرياض- ط١-١٤١٠
- ١٢- الشيعة و اهل البيت- احسان الهى ظهير- ترجمان السنة- باكستان- ط١٠-١٤١٥
- ١٣- الطبقات الكبرى- ابن سعد- دار صادر- بيروت
- ١٤- العبقرىات الإسلامىة- عباس العقاد- دار الآداب- بيروت- ط٢-١٩٢٨
- ١٥- العواصم من القوام- ابن العربى- تحقيق محب الدين الخطيب- دار الكتب السلفية- بيروت- ط١-١٤٠٦
- ١٦- الفصل فى الملل والأهواء والنحل- ابن حزم- تحقيق د- محمد ابراهيم نصر- دار

اليل بيروت.

- ١٧- الكافي- ابو جعفر الكليني- تحقيق على اكبر الغفارى- دار الضواء بيروت- ١٤٠٥
- ١٨- الكامل فى التاريخ- ابن الأثير- دار الكتاب العربى- بيروت- ط ١٤٠٥-٥
- ١٩- الكفاية فى علم الرواية- الخطيب البغدادى- دارالكتب الحديثة- القاهرة- ط ٢
- ٢٠- المستدرك على الصحيحين- الحاكم- دار الكتاب العربى- بيروت
- ٢١- المطالب العالقة- ابن حجر العسقلانى- تحقيق غنيم بن عباس- دار الوطن- الرياض- ط ١٤١٨-١
- ٢٢- المغنى- ابن قدامة- دار الفكر- بيروت- ط ١٤٠٥-١
- ٢٣- المنتقى من منهاج السنة- الذهبى- تحقيق محب الدين الخطيب- المكتبة السلفية- القاهرة- ط ٣
- ٢٤- النهاية فى غريب الحديث- ابن الاثير- تحقيق طاهر الزاوى- المكتبة العلمية- بيروت
- ٢٥- بحار الأنوار- محمد باقر المجلسى- مؤسسة الوفاء- بيروت- ط ١٤٠٣-٢
- ٢٦- تأويل مشكل القرآن- ابن قتيبة- تحقيق أحمد صقر- دار التراث - القاهرة- ط ٢- ١٣٩٣
- ٢٧- تاريخ الاسلام- الذهبى- تحقيق عمر عبد السلام- دار الكتاب العربى- بيروت- ط ١٤٠٩-٢
- ٢٨- تاريخ طبرى- ابن جرير- دار العلمى- بيروت- ط ١٤٠٩-٥
- ٢٩- تاريخ خليفة بن خياط- تحقيق اكرم ضياء العمرى- دار طبعة- الرياض- ط ١٤٠٥-٢
- ٣٠- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة من تاريخ الطبرى- دمحم أمحزون- مكتبة

الكوثر الرياض- ط١٠١٥١٤

- ٣١- تفسير الصافي- الفيض الكاشاني- دار الأعلـى- بيروت.
- ٣٢- تفسير الطبري- ابن جرير- دار الريان- دار الحديث- القاهرة. ١٤٠٧
- ٣٣- تفسير القرآن العظيم.
- ٣٤- تهذيب التهذيب- ابن حجر العسقلاني- دائرة المعارف النظامية- حيدر آباد- الهند- ط١٣٢٥١٠
- ٣٥- ثم اهتديت - التيجاني- مؤسسة الفجر- لندن- ١٤١١
- ٣٦- خصائص على- النسائي- تحقيق احمد البلوشي- مكتبة المعلا- الكويت- ط١٤٠٦١٠
- ٣٧- خلفاء الرسو- خالد محمد خالد- دار الكتاب العربي- بيروت- ط١٣٩٤١٠
- ٣٩- ديوان المتنبي- المتنبي- المكتبة الثقافية- بيروت.
- ٤٠- رجال الكشي- ابو عمر الكشي- تقديم احمد السيد الحسيني
- ٤١- رجال النجاشي- ابو العباس النجاشي- مكتبة الداودي- قم- ايران
- ٤٢- رجال حول الرسول- خالد محمد خالد- دار الكتاب العربي- بيروت- ط١٩٧٣٠٢
- ٤٣- رسالة الايمان- الحائري الإحقاقي- مكتبة الصادق- الكويت- ط١٤١٢٠٢
- ٤٤- روح المعاني- محمود الألوسي- دار الفكر- بيروت- ١٤١٤
- ٤٥- سلسلة الأحاديث الصحيحة- الالباني- المكتبة الاسلامي- دمشق- ط١٤٠٣٠٣
- ٤٦- سنن ابي داؤد- سليمان بن الاشعث- مراجعة محمد محيي الدين- المكتبة السلامية- استانبول.
- ٤٧- سنن ابن ماجة- ابن ماجة- تحقيق الاعظمي- شركة الطباعة العربية السعودية- ط١٤٠٤٠٢

- ٤٨ - سنن البيهقي- البيهقي- دار المرفقة- بيروت
- ٤٩ - سنن الترمذي- محمد بن عيسى- تحقيق احمد شاکر- إحياء التراث العربى-بيروت
- ٥٠ - الدارمى- الدارمى- دار الكتب العلمية- بيروت
- ٥١ - سنن النسائى- النسائى- تحقيق عبد الفتاح ابو غدة- دار البشائر- بيروت- ط٣-١٤٠٦
- ٥٢ - سير أعلام النبلاء- الذهبى- اشراف شعيب الارناؤط- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط٢-١٤٠٢
- ٥٣ - صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة - عيادة ايوب الكبيسى-دار القلم-دمشق- ط١-١٤٠٧
- ٥٤ - صحيح مسلم-مسلم بن الحجاج-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربى-بيروت
- ٥٥ - صفوة الآثار و المفاهيم من تفسير القرآن العظيم- عبد الرحمن الدوسرى- ط١-١٤٠٥
- ٥٦ - عبد الله بن سبا و أساطير أخرى- مرتضى- العسكري-دار الزهراء-بيروت- ط٥-١٤٠٣
- ٥٧ - فاسألوا أهل الذكر- التيجانى- مؤسسة الفجر-لندن-١٤١٢
- ٥٨ - فتح البارى- ابن حجر العسقلانى- تحقيق محب الدين الخطيب- تعليق ابن باز- المكتبة السلفية
- ٥٩ - فرق الشيعة- النوبختى- دار الأضواء- بيروت- ط٢-١٤٠٤
- ٦٠ - فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب- حسين النورى- الطبرسى- بعناية محمد رضا الطباطبائى- طبعة حجرية- ١٢٩٨

- ٦١- فضائل الصحابة - احمد بن حنبل- تحقيق وصى الله عباس- دار العلم- جدة.
ط ١-١٤٠٣
- ٦٢- فى الشعر الجاهلى- طه حسين- دار الكتب المصرية- ط ١-١٣٤٤
- ٦٣- قصص الأنبياء- عبد الوهاب - النجار- دار الفكر- بيروت
- ٦٤- كشف الغمة فى معرفة الأئمة -الأربلى- دار الأضواء- بيروت.
- ٦٥- لسان العرب- ابن منظور- دار صادر- بيروت
- ٦٦- لسان الميزان- ابن حجر العسقلانى- مؤسسة العلمى- بيروت- ط ٣-١٤٠٦
- ٦٧- لماذا اخترت مذهب الشيعة؟- محمد مرعى الأطاكى- ط ٣- حلب- مؤسسة الوفاء
- ٦٨- مجموع الفتاوى- ابن تيمية- جمع عبد الرحمن قاسم
- ٦٩- مختصر التحفة الإثنى عشرية- شاه عبد العزيز الدهلوى- اختصار محمود شكرى الألوسى- تحقيق محب الدين الخطيب- المطبعة السلفية- ١٣٧٣-
- ٧٠- مختصر تاريخ دمشق- ابن منظور- تحقيق روحية النحاس- دار الفكر- دمشق- ط ١
١٤٠٤-
- ٧١- مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى- يحيى اليعقوبى- دار العاصمة - الرياض- ط ١
١٤١٠-
- ٧٢- مستدرك الوسائل- النووى الطبرسى- مؤسسة آل البيت- قم- ايران- ط ١-١٤٠٧
- ٧٣- مسند احمد- احمد بن حنبل- دار الكتب العلمية- ط ٢- ١٣٩٨- اليمينية-
- ٧٤- مسند احمد- احمد بن حنبل- تحقيق احمد شاكر- دار المعارف- القاهرة- ١٣٧٧
- ٧٥- مصنف ابى شيبة - ابو بكر بن ابى شيبة- تحقيق عبد الخالق الأفغانى- الدار
السلفية- الهند- ١٣٩٩
- ٧٦- مصنف عبد الرزاق- الصنعانى- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى- المكتب

الإسلامى- بيروت- ط٢-١٤٠٣

- ٧٧- معجم الطبرانى- الكبير- الطبرانى- تحقيق حمدى السلفى- ط٢
- ٧٨- معرفة الصحابة- ابو نعيم- الأصبهاني- تحقيق د- محمد راضى- مكتبة الدار
المدينة ط١-١٤٠٨
- ٧٩- مقدمة ابن خلدو- ابن خلدون- دار الفكر
- ٨٠- منهاج السنة النبوية- ابن تيمية- تحقيق محمد رشاد سالم- ط١-١٤٠٦
- ٨١- ميزان الاعتدال- الذهبى- تحقيق على البجاورى- دار المعرفة- بيروت
- ٨٢- نهج البلاغة- دار التعارف- بيروت- ط١-١٤١٠
- ٨٣- وسائل الشيعة- الحر العاملى- تحقيق مؤسسة آل البيت- قم- ايران- ط١-١٤٠٩

بعثت رسول سے واقعہ کربلا تک

یہ کتاب حضرت رسول کریم ﷺ کی وفات سے لے کر نواسہ رسول سیدنا حسینؑ بن علیؑ المرتضیٰ کی شہادت ۶۱ھ تک کے اہم ترین عرصہ پر مشتمل ہے۔

اس کتاب میں مندرجہ ذیل اہم موضوعات پر بحث کی گئی ہے

سقیفہ بنی ساعدہ، قصہ شوریٰ، حضرت عثمانؓ پر اعتراضات، شہادت عثمانؓ، خلافت علیؑ المرتضیٰ، معرکہ جمل، معرکہ صفین، معرکہ نہروان، شہادت علیؑ المرتضیٰ، خلافت حسنؑ بن علیؑ بن ابی طالب، عام الجماعہ، خلافت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ، خلافت یزید بن معاویہؓ، شہادت حسینؑ بن علیؑ، صحابہ کرامؓ کی عدالت پر پاکدامنی صحابہ کرامؓ کے متعلق پھیلائی گئی بدگمانیاں اور ان کے جوابات امامت علیؑ المرتضیٰ کی اولیت کے دلائل اور ان کے جوابات۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس عمل کو اپنی خوشنودی کے لیے خالص کر دے اور اس کتاب کو ہدایت کا فانوس اور ہم پر اصحاب رسول کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین